

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

فتاوى قاسميه

منتخب فتاوى

حضرت مولانا مفتي شبير احمد القاسمي

خادم الافتاء و الحديث جامعه قاسميه
مدرسه شاهي مرادآباد، الهند

(جلد ٧)

المجلد السابع

بقية الصلوة من تسوية الصفوف
الى سجود التلاوة

٢٩٦٢ ————— ٢٢٥٨

ناشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، الهند

01336-223082

فتاویٰ قاسمیہ

صاحب فتاویٰ
حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بجق صاحب فتاویٰ شبیر احمد القاسمی 094 125 52294

بجق مالک مکتبہ اشرفیہ دیوبند 09358001571

08810383186 01336-223082

پہلا ایڈیشن محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

ناشر

مکتبہ اشرفیہ، دیوبند، ضلع سہارنپور، الہند

01336-223082

ASHRAFI BOOK DEPOT

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571•08810383186

مكمل اجمالى فهرست ايك نظر ميں

رقم المسأله	عنوانات	المجلد
١٧٢ ١	مقدمة التحقيق، الإيمان والعقائد إلى باب ما يتعلق بالارواح.	المجلد الأول
٥٥٧ ١٧٣	بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر، إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب، التاريخ والسير، البدعات والرسوم.	المجلد الثاني
١٠٠٥ ٥٥٨	بقية البدعات والرسوم من باب رسومات جنائز إلى رسومات نكاح، كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.	المجلد الثالث
١٤١٥ ١٠٠٦	بقية كتاب العلم من كتابة القرآن إلى باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأذعية والأذكار.	المجلد الرابع
١٩٣٥ ١٤١٦	الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.	المجلد الخامس
٢٤٥٧ ١٩٣٦	الجماعة، المساجد، الإمامة.	المجلد السادس
٢٩٦٤ ٢٤٥٨	بقية الصلوة من تسوية الصفوف إلى سجود التلاوة.	المجلد السابع
٣٤٢٣ ٢٩٦٥	بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والنوافل، التراويح، صلوة المسافر.	المجلد الثامن

المجلد التاسع	٣٤٢٤	٣٨٩٣	بقية الصلوة، صلوة المريض، الجمعة، العيدين، الجنائز إلي حمل الجنازة.
المجلد العاشر	٣٨٩٤	٤٤٠٤	بقية الجنائز من صلوة الجنائز إلي باب الشهيد، كتاب الزكوة.
المجلد الحادي عشر	٤٤٠٥	٤٨٧٣	بقية الزكوة، كتاب الصدقات، الصوم، بتمام أبوابها إلي صدقة الفطر.
المجلد الثاني عشر	٤٨٧٤	٥٣٤٨	كتاب الحج بتمام أبوابها، النكاح إلي باب نكاح المكره.
المجلد الثالث عشر	٥٣٤٩	٥٩٤٣	بقية النكاح إلي باب المهر.
المجلد الرابع عشر	٥٩٤٤	٦٤٦٢	الرضاع، الطلاق إلي باب الكناية.
المجلد الخامس عشر	٦٤٦٣	٦٩٠٢	بقية الطلاق، الرجعة، البائن، الطلاق بالكتابة، الطلاق الثلاث، الشهادة في الطلاق، الحلالة.
المجلد السادس عشر	٦٩٠٣	٧٤٠٢	بقية الطلاق، تعليق الطلاق، التفويض، الفسخ والتفريق، الظهار، الإيلاء، الخلع، الطلاق على المال، العدة، النفقة، ثبوت النسب، الحضنة.
المجلد السابع عشر	٧٤٠٣	٧٨٦٧	الأيمان والنذور، الحدود، الجهاد، اللقطة، الامارة والسياسة، القضاء، الوقف إلي باب المساجد.
المجلد الثامن عشر	٧٨٦٨	٨٤٠٨	بقية الوقف من الفصل الثالث، المسجد القديم إلي مصلى العيد، والمقبرة. (قبرستان)

المجلد التاسع عشر	٨٤٠٩	٨٨٥٦	بقية الوقف، باب المدارس، كتاب اليوع، البيع الصحيح، الفاسد، المرايحة، الصرف، السلم، الوفاء، الشفعة، المزارعة.
المجلد العشرون	٨٨٥٧	٩٣٥٠	الشركة، المضاربة، الربوا بتمام أنواعها.
المجلد الحادي والعشرون	٩٣٥١	٩٧٣٥	الديون، الودیعة، الأمانة، الضمان، الهبة، الإجارة.
المجلد الثاني والعشرون	٩٧٣٦	١٠٢٤٥	الغصب، الرهن، الصيد، الذبائح بتمام أنواعها، الأضحیة بتمام أنواعها، العقیقة، الحقوق، بأكثر أبوابها إلی باب حقوق الأقارب.
المجلد الثالث والعشرون	١٠٢٤٦	١٠٧٠٥	بقية الحقوق، الرؤيا، الطب والرقي' بتمام أنواعها، كتاب الحظر والإباحة إلی باب السابع، ما يتعلق باللحیة.
المجلد الرابع والعشرون	١٠٧٠٦	١١٢٠٥	بقية الحظر والإباحة، باب الأكل والشرب، الانتفاع بالحيوانات، الخمر، الدخان، الهدايا، الموالاة مع الكفار، المال الحرام، الأدب، اللهو، استعمال الذهب والفضة، كسب الحلال، الغناء، التصاوير.
المجلد الخامس والعشرون	١١٢٠٦	١١٦٠٠	الوصیة، الفرائض بتمام أبوابها.
المجلد السادس والعشرون	١	١١٦٠٠	فهارس المسائل
			❖❖❖
			❖❖❖

فہرست مضامین

۹ / بقية كتاب الصلاة

□	۱۰ / باب تسوية الصفوف	□
صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۳ نماز میں صف سیدھی کرنا واجب ہے	۲۴۵۸
۳۴ حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ کا صف سیدھی کرنے کا اہتمام	۲۴۵۹
۳۵ تکبیر ختم ہونے پر تسویہ صفوف کا اعلان کرنا	۲۴۶۰
۳۶ امام اقامت سے قبل صفیں سیدھی کرائے یا اقامت کے بعد	۲۴۶۱
۳۸ امام کا نماز سے قبل صفیں درست کروانا	۲۴۶۲
۳۹ کیا صفوں کو سیدھا کرنا امام کی ذمہ داری ہے؟	۲۴۶۳
۴۱ کیا صفوں کو سیدھا کرنا امام پر لازم ہے؟	۲۴۶۴
۴۳ صفوں کی درستگی کا ذمہ دار کون ہے، امام صاحب یا مقتدی حضرات؟	۲۴۶۵
۴۴ امام کے علاوہ دوسرے شخص کا صفوں کو سیدھا کرنا	۲۴۶۶
۴۷ امام کا صفیں درست کرائے بغیر نماز شروع کرنا	۲۴۶۷
۴۸ تکبیر اولیٰ میں امام صاحب کا مصلے پر بیٹھنا	۲۴۶۸
۴۹ صحابہ کرام مؤذن کے تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے	۲۴۶۹
۵۰ فقہاء نے ”حي على الصلاة“ پر کھڑے ہونے کو کیوں کہا؟	۲۴۷۰

- ۲۴۷۱ صف کب سیدھی کریں؟ ۵۲
- ۲۴۷۲ مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں؟ ۵۴
- ۲۴۷۳ صفوں کی ترتیب کا مسنون طریقہ ۵۵
- ۲۴۷۴ صفوں کو سیدھا کرنے سے متعلق چند سوالات ۵۹
- ۲۴۷۵ امام کے پیچھے کون کھڑا ہو؟ ۶۳
- ۲۴۷۶ جماعت کے لئے کس وقت کھڑے ہوں؟ ۶۴
- ۲۴۷۷ نماز کے لئے کس وقت کھڑا ہونا چاہئے؟ ۶۵
- ۲۴۷۸ نماز میں قیام کا صحیح طریقہ ۶۸
- ۲۴۷۹ نماز میں ٹانگیں چیر کر کھڑا ہونا ۶۹
- ۲۴۷۹ دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کے فاصلہ کی شرعی حیثیت ۷۰
- ۲۴۸۰ صحت اقتداء کے لئے اتصال صفوف شرط ہے؟ ۷۲
- ۲۴۸۱ صحت اقتداء کے لئے اتصال صفوف شرط ہے؟ ۷۳
- ۲۴۸۲ نماز باجماعت میں ٹخنوں سے ٹخنے ملانا ۷۴
- ۲۴۸۳ کیا دروں کے موٹے پردے صحت اقتداء کے لئے مانع ہیں؟ ۷۶
- ۲۴۸۴ مقتدی کا وسط صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا ۷۷
- ۲۴۸۵ معذور شخص کا پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا ۷۹
- ۲۴۸۶ پہلی صف مکمل ہونے سے قبل دوسری صف بنانا ۸۰
- ۲۴۸۷ کیا ستون کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ۸۱
- ۲۴۸۸ ایک صف چھوڑ کر دوسری میں نماز پڑھنا ۸۲

- ۲۴۸۹ دائیں بائیں جانب جگہ چھوڑ کر صرف بیچ میں صف بچھانا ۸۳
- ۲۴۹۰ بارش کی بناء پر دو تین صفوں کا خلا کرنا ۸۵
- ۲۴۹۱ تین صفوں کے بقدر راستے مانع اتصال ہیں ۸۷
- ۲۴۹۲ صفوں کے درمیان میں وضو کی نالی کا فاصلہ ۸۹
- ۲۴۹۳ حرم شریف میں جماعت سے نماز پڑھنے کے متعلق چند سوالات ۹۰
- ۲۴۹۴ جو پہلے آ کر بیٹھ جائے وہی اس جگہ کا حقدار ہے ۹۲
- ۲۴۹۵ صف میں رومال رکھ کر وضو کے لئے جانا ۹۳
- ۲۴۹۶ صف اول میں رومال رکھ کر جگہ گھیرنا ۹۴
- ۲۴۹۷ پہلی صف میں جگہ متعین کرنا ۹۵
- ۲۴۹۸ مصلیٰ کا اپنے لئے جگہ مخصوص کرنا ۹۷
- ۲۴۹۹ امام کی دونوں جانب قرآن سیکھنے والے طلبہ کا کھڑا ہونا ۱۰۰
- ۲۵۰۰ ۱۳/۱۴ رسالہ لڑکے کا صف اول میں کھڑا ہونا ۱۰۲
- ۲۵۰۱ بڑوں کی صف میں بچہ کا کھڑا ہونا ۱۰۳
- ۲۵۰۲ ۸/۹ رسالہ بچہ کا مردوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہونا ۱۰۵
- ۲۵۰۳ کتنی عمر کا بچہ صف اول میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ۱۰۶
- ۲۵۰۴ مسجد سے متصل گھر میں عورت امام کی اقتداء کر سکتی ہے؟ ۱۰۷
- ۲۵۰۵ عورت کا شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ۱۰۸
- ۲۵۰۶ ایک مرد و عورت جماعت کریں تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی؟ ۱۰۹
- ۲۵۰۷ امام کا محراب سے باہر کھڑا ہونا ۱۱۰

۱۱۱ امام کا مقتدیوں کی صف سے کچھ آگے کھڑا ہونا	۲۵۰۸
۱۱۲ امام کا مقتدیوں کی صف میں کچھ آگے کھڑا ہونا	۲۵۰۹
۱۱۴ امام کا ایک بالشت او نچائی پر کھڑے ہونے کا حکم	۲۵۱۰
۱۱۵ مقتدی امام کے مقابلے ایک بالشت او پر کھڑے ہوں تو کیا حکم ہے؟	۲۵۱۱
۱۱۶ امام صاحب کا مصلیٰ دو اونچ او نچا بنانا	۲۵۱۲
۱۱۷ امام کتنی او نچائی پر کھڑا ہو سکتا ہے؟	۲۵۱۳
۱۱۸ دو اونچ او نچے فرش پر امام کے کھڑے ہونے کا جواز	۲۵۱۴
۱۱۹ دریا محراب میں امام کا قدم باہر ہونا	۲۵۱۵
۱۲۱ جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام کا مقتدیوں کے بیچ میں ایڑی کے برابر آگے کھڑا ہونا	۲۵۱۶
۱۲۲ گرمی کی وجہ سے امام کا مقتدیوں کی صف میں کھڑا ہونا	۲۵۱۷
۱۲۳ جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام و مقتدی کا ایک صف میں کھڑے ہونا	۲۵۱۸
۱۲۴ جگہ کی تنگی کے باعث امام و مقتدی کا ایک صف میں کھڑے ہونا	۲۵۱۹

□	۱۱ / باب مدرک، مسبوق، لاحق	□
---	----------------------------	---

۱۲۶ امام کی تکبیر سے قبل تکبیر کہنے والے مقتدی کی نماز درست نہیں	۲۵۲۰
۱۲۷ مسبوق کا تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا	۲۵۲۱
۱۲۸ مقتدی امام کے ساتھ ساتھ تکبیر اور انتقال رکن کرے	۲۵۲۲
۱۲۹ درمیان صلوٰۃ مکبر کا زور سے تکبیر کہنا	۲۵۲۳
۱۳۰ امام کے قرأت شروع کر دینے کے بعد مقتدی کا ثناء پڑھنا	۲۵۲۴
۱۳۱ نماز کے فرائض و سنن و نوافل میں امام کی متابعت	۲۵۲۵

- ۲۵۲۶ کیا امام کی اتباع سنن و مستحبات میں ضروری ہے؟ ۱۳۳
- ۲۵۲۷ ارکان فعلی و قولی میں امام کی اتباع کا حکم ۱۳۴
- ۲۵۲۸ تکبیرات انتقالیہ میں مقتدی کا امام سے سبقت کر جانا ۱۳۵
- ۲۵۲۹ امام کی تکبیر کے مکمل ہونے سے قبل مقتدیوں کا انتقال رکن کرنا ۱۳۷
- ۲۵۳۰ رکوع میں آنے والے مسبوق کو بغیر ہاتھ اٹھائے و باندھے امام کے ساتھ شریک ہو جانا ۱۳۸
- ۲۵۳۱ مقتدی کے رکوع میں جاتے ہی امام نے سر اٹھالیا ۱۳۹
- ۲۵۳۲ مقتدی کا امام سے قبل سجدہ کرنا ۱۴۰
- ۲۵۳۳ امام کے سلام مکمل کرنے سے پہلے مقتدی کا سلام پورا کر لینا ۱۴۱
- ۲۵۳۴ امام کے سلام پورا ہونے سے قبل مقتدی کا سلام پورا ہونا ۱۴۲
- ۲۵۳۵ مسبوق کا امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ۱۴۳
- ۲۵۳۶ خوف حدث وغیرہ کی بناء پر امام سے پہلے سلام پھیرنا ۱۴۵
- ۲۵۳۷ مسبوق کا قعدہ اخیرہ میں تشهد کے بعد خاموش رہنا ۱۴۶
- ۲۵۳۸ مسبوق کے احتیاط میں بیٹھے ہی امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو مسبوق کیا کرے؟ ۱۴۷
- ۲۵۳۹ قعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہی امام کھڑا ہو جائے ۱۴۸
- ۲۵۴۰ قعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں مسبوق کے تشهد مکمل کرنے سے پہلے امام کا کھڑا ہو جانا ۱۴۹
- ۲۵۴۱ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بیٹھنے سے قبل امام سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ ۱۵۲
- ۲۵۴۲ مسبوق نے حالت تشهد میں نماز میں شرکت کی اور امام تیسری کیلئے کھڑا ہو گیا ۱۵۳
- ۲۵۴۳ مسبوق امام کے سلام پھیرنے کی صورت میں تشهد مکمل کرے گا یا نہیں؟ ۱۵۵
- ۲۵۴۴ قعدہ اولیٰ میں شریک ہونے والا احتیاط پوری کرے یا تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو؟ ۱۵۷
- ۲۵۴۵ مسبوق تشهد مکمل کرے یا امام کی متابعت میں کھڑا ہو جائے؟ ۱۵۹

- ۲۵۴۶ مسبوق قعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ کیا پڑھے ۱۶۰
- ۲۵۴۷ مسبوق اپنی بقیہ رکعت میں سے کس میں سورۃ ملائے گا ۱۶۲
- ۲۵۴۸ مسبوق چھوٹی ہوئی رکعت میں کونسی سورت پڑھے؟ ۱۶۳
- ۲۵۴۹ مقتدی کا بھول سے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت میں شریک نہ ہونا ۱۶۴
- ۲۵۵۰ دوران صلوٰۃ مقتدی کا سوچانا ۱۶۵
- ۲۵۵۱ جلوں کے شوکی وجہ سے مقتدی سجدہ ہی میں رہ گئے، امام نے سلام پھیر دیا تو کیا کریں؟ ۱۶۶
- ۲۵۵۲ مدرک امام کے سلام پر اپنے کو مسبوق سمجھتے ہوئے کھڑا ہو جائے پھر لوٹ آئے تو کیا حکم ہے؟ ۱۶۸
- ۲۵۵۳ مسبوق نے صرف ایک رکعت پائی تو باقی نماز کس طرح پڑھے گا؟ ۱۶۹
- ۲۵۵۴ مغرب کی ایک رکعت پانے والا دوسری رکعت میں قعدہ کرے گا؟ ۱۷۰
- ۲۵۵۵ رباعی نماز میں مسبوق اپنی بقیہ تین رکعت کس طرح پوری کرے؟ ۱۷۱
- ۲۵۵۶ مسبوق پر دعاء قنوت کون سی رکعت میں واجب ہے؟ ۱۷۲
- ۲۵۵۷ امام کا نقص مقتدی مسبوق کا نقص ہے ۱۷۳
- ۲۵۵۸ مسبوق مقتدی سجدہ سہو میں شریک ہو گا یا نہیں؟ ۱۷۵
- ۲۵۵۹ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کے متنبہ کرنے پر دوسری منزل والوں کا سلام پھیرنا ۱۷۶
- ۲۵۶۰ دوران نماز تک خارج ہو جائے تو وضو کے بعد باقی نماز کس طرح ادا کریں؟ ۱۷۷

□	۱۲ / باب القراءۃ	□
---	------------------	---

- ۲۵۶۱ مغرب، عشاء، فجر میں جہر اور ظہر و عصر میں سر کی عقلی و نقلی دلیل ۱۷۹
- ۲۵۶۲ رات کی نمازیں جہری اور دن کی سری کیوں ہیں؟ ۱۸۲
- ۲۵۶۳ نماز عشاء، فجر و مغرب میں قرأت بالجہر ہے تو ظہر عصر میں کیوں نہیں؟ ۱۸۴

- ۲۵۶۴ ظہر اور عصر میں سری قرأت کی حکمت ۱۸۵
- ۲۵۶۵ جمعہ میں جہراً اور ظہر میں سرّاً قرأت کرنے کی وجہ؟ ۱۸۶
- ۲۵۶۶ ایک رکعت میں مختلف روایتوں میں قرأت کرنا ۱۸۷
- ۲۵۶۷ فرض نماز میں قرأت سبچہ کرنا ۱۸۸
- ۲۵۶۸ فرض کی دو بھری اور خالی رکعتوں کا مطلب ۱۹۰
- ۲۵۶۹ فرض کی دوسری رکعت میں سورۃ ملانے کے بجائے تیسری میں ملانا ۱۹۱
- ۲۵۷۰ فرض کی پہلی ۲ رکعت اور نفل کی چاروں میں سورۃ ملانا ۱۹۲
- ۲۵۷۱ بوقت جماعت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کتنی تیز رکھیں؟ ۱۹۴
- ۲۵۷۲ امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا اور قرأت کرنا ۱۹۵
- ۲۵۷۳ ایک آیت کو ٹکڑے کرنے اور ترمیم سے قرأت کرنے کا حکم ۱۹۶
- ۲۵۷۴ قرأت سری تعریف ۱۹۷
- ۲۵۷۵ کیا فرض نماز میں لقمہ نہیں دے سکتے؟ ۱۹۸
- ۲۵۷۶ امام کو لقمہ دینے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ۱۹۹
- ۲۵۷۷ امام کو سبحان اللہ اور اللہ اکبر سے لقمہ دینا ۲۰۱
- ۲۵۷۸ امام کو غلط لقمہ دینا ۲۰۲
- ۲۵۷۹ اگر امام کو یقین ہو تو مقتدیوں کے قول کا اعتبار نہیں ۲۰۴
- ۲۵۸۰ مقتدی کا غلط لقمہ دینا ۲۰۵
- ۲۵۸۱ غلط لقمہ قبول کرنے سے نماز کا حکم ۲۰۷
- ۲۵۸۲ نماز کے دوران بچے کے کہنے پر کسی مقتدی کا زور سے تکبیر کہنا ۲۰۸
- ۲۵۸۳ لقمہ دینے پر تکبیر کہنے والے کی نماز کا حکم ۲۰۹

- ۲۵۸۴ بغل میں نماز پڑھنے والا کوئی رکن چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ ۲۱۲
- ۲۵۸۵ تین رکعت پر سلام پھیرنے والے کو برابر والے کا لقمہ دینا ۲۱۳
- ۲۵۸۶ تین آیات کے بعد پڑھنے کے بعد مقتدی کا لقمہ دینا ۲۱۴
- ۲۵۸۷ عصر میں جہر اُسورہ فاتحہ پڑھنے پر مقتدی کا اردو میں لقمہ دینا ۲۱۵
- ۲۵۸۸ قرآن میں دیکھ کر لقمہ دینے سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ۲۱۶
- ۲۵۸۹ نماز میں سورہ فاتحہ کی آیت پر وقف کرنا اولیٰ ہے یا وصل کرنا ۲۱۷
- ۲۵۹۰ نماز کی مسنون سورتیں ۲۱۸
- ۲۵۹۱ ظہر میں اوساط مفصل اور عشاء میں طوال مفصل پڑھنا ۲۲۰
- ۲۵۹۲ نماز میں ترتیب وار قرآن پڑھنا ۲۲۲
- ۲۵۹۳ خلاف ترتیب قراءت کرنا ۲۲۳
- ۲۵۹۴ کیا قرأت میں تو اتر آیات شرط ہے؟ ۲۲۴
- ۲۵۹۵ درمیانی سورت میں ایک آیت چھوڑ کر پڑھنے کا حکم ۲۲۵
- ۲۵۹۶ کیا نماز پنجگانہ تراویح اور سنن و نوافل میں ترتیل لازم ہے؟ ۲۲۶
- ۲۵۹۷ فجر کی پہلی رکعت دوسری سے کتنی لمبی ہونی چاہئے؟ ۲۲۸
- ۲۵۹۸ ایک رکعت میں مکمل سورہ پڑھنا اولیٰ ہے ۲۳۰
- ۲۵۹۹ پہلی رکعت میں سورہ زلزال دوسری میں عادیات کے درمیان افلا یعلم سے پڑھنا ۲۳۲
- ۲۶۰۰ پہلی رکعت میں سورہ زلزال اور دوسری میں والعدیات پڑھنا ۲۳۳
- ۲۶۰۱ پہلی رکعت میں سورہ ہر وج کی آخری تین آیتیں، دوسری میں سورہ قریش پڑھنا ۲۳۵
- ۲۶۰۲ نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کی قرأت پر ایک اعتراض کا جواب ۲۳۶
- ۲۶۰۳ وتر میں کسی سورہ کو متعین کرنا ۲۳۹

- ۲۶۰۴ وتر کی پہلی رکعت میں والضحیٰ دوسری میں الم نشرح تیسری میں والین پڑھنا ۲۴۰
- ۲۶۰۵ پہلی رکعت میں سورۃ کا ابتدائی حصہ اور دوسری میں آخری حصہ پڑھنا یا اس کے برعکس کرنا ۲۴۲
- ۲۶۰۶ تہجد میں قل هو اللہ احد کتنی مرتبہ پڑھی جائے؟ ۲۴۳
- ۲۶۰۷ نماز میں سورۃ فاتحہ میں رب العلمینہ ولا الضالینہ پڑھنا ۲۴۴
- ۲۶۰۸ سورہ فاتحہ کی آیتوں کے آخر میں ہ پڑھنا ۲۴۵
- ۲۶۰۹ سورۃ نازعات کے بعد والی سورۃ چھوڑ کر اگلی سورۃ پڑھنا ۲۴۶
- ۲۶۱۰ تین آیات کی مقدار پڑھنے کے بعد ایک آیت چھوٹ جانے کا حکم ۲۴۷
- ۲۶۱۱ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت چھوڑنے کا حکم ۲۴۸
- ۲۶۱۲ سورت کے درمیان آیت چھوٹ جانا ۲۴۹
- ۲۶۱۳ بھولنے کی وجہ سے چند آیتیں چھوڑ کر آگے سے پڑھنا ۲۵۰
- ۲۶۱۴ نستعین کی جگہ نستاعین پڑھنے کا حکم ۲۵۱
- ۲۶۱۵ ولا الضالین کے مد کو چھ سات الف کی مقدار کھینچنا ۲۵۲
- ۲۶۱۶ اِخْتَفَاءِ کی جگہ اِدْعَامِ اور ذال کی جگہ ظا پڑھنا ۲۵۳
- ۲۶۱۷ لفظی یا اعرابی غلطی کا حکم ۲۵۴
- ۲۶۱۸ صَدَقْنَا کے بجائے صَدَقْنَا پڑھنا ۲۵۶
- ۲۶۱۹ وقف تام کی صورت میں معنی بدلنے سے نماز کا حکم ۲۵۷
- ۲۶۲۰ لایتکلمون إلا عذابا پڑھنے سے نماز کا حکم ۲۵۹
- ۲۶۲۱ سینین کی جگہ سینا پڑھنا ۲۶۰
- ۲۶۲۲ الجحیم کی جگہ الجنة پڑھنا ۲۶۱
- ۲۶۲۳ و نمارق مصفوفة بالضم اور ولا أنتم کی جگہ ولنتم پڑھنا ۲۶۲

- ۲۶۲۳ نماز میں یذرون کے بجائے تذرون پڑھ دینا ۲۶۲۳
- ۲۶۲۴ مِمَّا يَعْلَمُونَ کی جگہ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ پڑھنا ۲۶۲۴
- ۲۶۲۶ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ چھوٹ جانے سے نماز درست ۲۶۲۶
- ۲۶۲۷ لَا يَعْلَمُونَ کی جگہ يَشْعُرُونَ پڑھنا ۲۶۲۷
- ۲۶۲۸ جِزَاءً وَفَاقَا کے بجائے جِزَاءً مِنْ رَبِّكَ پڑھنا ۲۶۲۸
- ۲۶۲۹ بِالصَّمْرِ كِجْهَ بِالْحَقِّ پڑھنا ۲۶۲۹
- ۲۶۳۰ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا میں وَالْأَرْضِ چھوٹ گیا ۲۶۳۰
- ۲۶۳۱ وَأَمَّا الْيَتِيمَ کی جگہ وَأَمَّا الْإِنْسَانَ پڑھنا ۲۶۳۱
- ۲۶۳۲ وَمَا يَخْفَىٰ کی جگہ وَمَا يَغْفَىٰ پڑھنا ۲۶۳۲
- ۲۶۳۳ نَاعِمَةَ کی جگہ نَاصِبَهُ پڑھنے سے نماز فاسد ۲۶۳۳
- ۲۶۳۴ حَبْلٍ مِنْ مَسَدٍ کی جگہ حَبْلٍ مَسَدٍ پڑھنے کا حکم ۲۶۳۴
- ۲۶۳۵ فُجْشَ غَلْطِي ہونے کے بعد دوبارہ صحیح کر کے پڑھنے کا حکم ۲۶۳۵
- ۲۶۳۶ قِرَاتٍ مِثْلِ غَلْطِي کا معیار ۲۶۳۶
- ۲۶۳۷ قرآن بھول جانے والا نماز کس طرح ادا کرے؟ ۲۶۳۷
- ۲۶۳۸ متشابہ کی وجہ سے دوسری جگہ سے پڑھنا پھر لوٹ آنا ۲۶۳۸

□	۱۳ / باب الجمع بين الصلوتين	□
---	------------------------------------	---

- ۲۶۳۹ ہلکی بارش پر جمع بین الصلوٰۃ کا حکم ۲۶۳۹
- ۲۶۴۰ معمولی بارش کی وجہ سے جمع بین الصلوٰۃ تین کرنا ۲۶۴۰
- ۲۶۴۱ ایک ہی وقت میں متعدد وقتیہ نمازیں پڑھنا ۲۶۴۱

□	۱۴ / باب صلوة النساء	□
---	----------------------	---

۲۸۶ کیا مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے؟	۲۶۴۲
۲۸۷ عورتوں و مردوں کی نماز میں فرق سے متعلق احادیث	۲۶۴۳
۲۸۹ مستورات حرم کی میں نماز پڑھیں یا گھر میں؟	۲۶۴۴
۲۹۱ عورت قیام میں پاؤں کو ملانے یا درمیان میں فاصلہ رکھے؟	۲۶۴۵
۲۹۱ کیا عورتوں کے لئے قیام میں ٹخنے ملانا مسنون ہے؟	۲۶۴۶
۲۹۳ عورت سینہ بند نہ پہنے تو کیا نماز ہو جائے گی؟	۲۶۴۷
۲۹۴ عورتوں کی ہتھیلیوں کو نماز میں کھلا رکھنے کا حکم	۲۶۴۸
۲۹۵ عورت و مرد کے رکوع میں فرق	۲۶۴۹
۲۹۶ عورت کا سجدہ میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ	۲۶۵۰
۲۹۷ پیشانی کو اوڑھنی سے ڈھانک کر اس پر سجدہ کرنا	۲۶۵۱
۲۹۸ عورتوں کا حرم میں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا	۲۶۵۲
۲۹۹ سجدہ میں پیر کی انگلیوں کا رخ	۲۶۵۳
۳۰۰ سجدے میں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا واجب ہے یا سنت؟	۲۶۵۴
۳۰۱ عورت کا دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہونا	۲۶۵۵
۳۰۲ بازوؤں کو پہلو سے ملائیں یا کہنیوں کو زمین پر بچھائیں؟	۲۶۵۶
۳۰۳ سجدہ میں عورتوں کا تورک کرنا	۲۶۵۷
۳۰۵ عورتوں کا نماز و دیگر عبادت کے لئے مسجد جانا	۲۶۵۸
۳۰۶ عورتوں کی جماعت کا حکم	۲۶۵۹

- ۲۶۶۰ تنہا عورتوں کی جماعت کا حکم ۳۰۷
- ۲۶۶۱ تنہا عورتوں کا جماعت کرنا ۳۰۸
- ۲۶۶۲ عورتوں کا مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ۳۱۱
- ۲۶۶۳ حافظہ عورت کا تراویح کی نماز باجماعت پڑھانا ۳۱۲
- ۲۶۶۴ عورتوں کا رمضان میں نماز تراویح پڑھنے کے لئے مسجد میں جانا ۳۱۳
- ۲۶۶۵ عورت کا نماز پنجگانہ اور تراویح کی امامت کرنا ۳۱۴
- ۲۶۶۶ مستورات کا مسجد میں نماز پڑھنا ۳۱۵
- ۲۶۶۷ عورتوں کا بلا عذر فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا ۳۱۷
- ۲۶۶۸ عورت کا جینس پہن کر نماز پڑھنا ۳۱۸
- ۲۶۶۹ عورت کا ساڑھی پہن کر نماز پڑھنا ۳۱۹
- ۲۶۷۰ عورت کا چست لباس پہن کر نماز پڑھنا ۳۲۰
- ۲۶۷۱ نماز کی حالت میں عورت کی کلائی کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ ۳۲۱
- ۲۶۷۲ کھلے ہوئے یا جوڑا بنائے ہوئے بالوں پر دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھنا ۳۲۲
- ۲۶۷۳ ہاف آستین والے کپڑوں میں عورتوں کی نماز ۳۲۳
- ۲۶۷۴ لپ اسٹک لگا کر نماز دروزہ کا حکم ۳۲۴
- ۲۶۷۵ عورتیں قضاء نماز کس طرح پڑھیں؟ ۳۲۵

□	۱۵/ باب ما یکرہ فی الصلاة وما لایکرہ	□
---	--------------------------------------	---

- ۲۶۷۶ مسجد کے دروں میں نماز پڑھنا ۳۲۷
- ۲۶۷۷ مسجد کے دروازہ پر امام صاحب کا کھڑا ہونا ۳۲۸

- ۲۶۷۸ امام صاحب کی ایڑی کا محراب سے باہر نہ ہونا ۳۲۹
- ۲۶۷۹ محراب کے مقابل صف کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ۳۳۱
- ۲۶۸۰ امام صاحب کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر امامت کرنا ۳۳۲
- ۲۶۸۱ امام صاحب کا محراب کے اندر نماز پڑھانا کیوں مکروہ ہے؟ ۳۳۳
- ۲۶۸۲ درمیں نماز پڑھنے یا پڑھانے کا حکم ۳۳۴
- ۲۶۸۳ امام صاحب کا محراب میں کھڑا ہونا ۳۳۶
- ۲۶۸۴ مقتدی کی رعایت میں امام صاحب کا رکوع کو لمبا کرنا ۳۳۷
- ۲۶۸۵ مقتدی کا امام صاحب کے رکوع و سجدہ کے بعد رکوع و سجدہ کرنا ۳۳۹
- ۲۶۸۶ مقتدی کا امام کی تکبیر مکمل ہونے سے قبل انتقال رکن کرنا ۳۴۰
- ۲۶۸۷ امام صاحب کا اوپر کی منزل پر نماز پڑھانا ۳۴۱
- ۲۶۸۸ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کے لئے سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ ۳۴۲
- ۲۶۸۹ امام کے سلام ثانی سے قبل مقتدی کا نماز مکمل کر لینا ۳۴۳
- ۲۶۹۰ مقتدی امام سے قبل سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ ۳۴۴
- ۲۶۹۱ بحالت مجبوری تعدہ اخیرہ میں صرف شہد اور رکوع و سجود میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا ۳۴۵
- ۲۶۹۲ چھپلی صف میں تنہا نماز پڑھنا ۳۴۶
- ۲۶۹۳ ایک سانس میں دونوں طرف سلام پھیرنا ۳۴۷
- ۲۶۹۴ نماز یا غیر نماز میں کتے کی طرح بیٹھنا ۳۴۸
- ۲۶۹۵ مانگ پر نماز پڑھانا کیسا ہے؟ ۳۵۰
- ۲۶۹۶ لاؤڈ اسپیکر پر فرائض پنج گانہ کی ادائے گی کا حکم ۳۵۱
- ۲۶۹۷ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ۳۵۱

۲۶۹۸	کثیر مجمع میں مانگ سے نماز پڑھانا	۳۵۳
۲۶۹۹	نماز میں لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا	۳۵۳
۲۷۰۰	نماز میں سر پر ٹوپی رکھنا مسنون ہے یا مستحب	۳۵۶
۲۷۰۱	ننگے سر نماز پڑھنا	۳۵۷
۲۷۰۲	بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا	۳۵۸
۲۷۰۳	بغیر ٹوپی کے مستقل نماز پڑھنا	۳۵۹
۲۷۰۴	ٹوپی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟	۳۶۰
۲۷۰۵	مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپوں کا استعمال کرنا	۳۶۱
۲۷۰۶	چٹائی، پلاسٹک اور بینت کی ٹوپی میں نماز	۳۶۳
۲۷۰۷	رومال سر پر باندھ کر نماز پڑھنا	۳۶۴
۲۷۰۸	بغیر ٹوپی کے یا چٹائی وغیرہ کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا	۳۶۵
۲۷۰۹	چٹائی کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا	۳۶۶
۲۷۱۰	داڑھی و رخسار چھپا کر نماز پڑھانا	۳۶۷
۲۷۱۱	پیشانی ڈھک کر نماز پڑھنا	۳۶۸
۲۷۱۲	ٹوپی، چادر، یا دوپٹے سے پیشانی پر سجدہ کرنا	۳۶۹
۲۷۱۳	دوران نماز کپڑوں کو ہاتھوں سے جھاڑنا	۳۷۱
۲۷۱۴	رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے دامن صحیح کرنا	۳۷۲
۲۷۱۵	رکوع سے اٹھتے یا سجدہ میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے دامن سمیٹنا	۳۷۳
۲۷۱۶	رکوع سے اٹھتے اور سجدے میں جاتے وقت دامن سیدھا کرنا	۳۷۵
۲۷۱۷	دوران صلوٰۃ دونوں ہاتھوں سے کپڑے درست کرنا	۳۷۶

۲۷۱۸	جیب میں روپے رکھ کر نماز پڑھنا	۳۷۷
۲۷۱۹	روپیہ اور کرنسی جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا	۳۷۸
۲۷۲۰	جیب میں تصویر والا آئی کارڈ رکھ کر نماز پڑھنا	۳۷۹
۲۷۲۱	جیب میں تصویر رکھ کر نماز پڑھنا	۳۸۱
۲۷۲۲	چاند، ستارے، اور درخت کی تصویروں والے جانماز کا حکم	۳۸۲
۲۷۲۳	خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے منقش مصلے پر نماز	۳۸۳
۲۷۲۴	خانہ کعبہ کے تصویر دار مصلے پر نماز	۳۸۴
۲۷۲۵	منقش مصلے پر نماز	۳۸۶
۲۷۲۶	منقش مصلے پر نماز کا شرعی حکم	۳۸۷
۲۷۲۷	اشتمال صماء کی کون سی ہیئت ممنوع ہے؟	۳۸۸
۲۷۲۸	انگریزی فیشن والے کپڑے میں نماز	۳۹۰
۲۷۲۹	باریک کپڑے میں نماز	۳۹۱
۲۷۳۰	چست لباس میں نماز پڑھنا	۳۹۲
۲۷۳۱	پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا	۳۹۳
۲۷۳۲	چست لباس پہن کر نماز پڑھنا	۳۹۴
۲۷۳۳	امام صاحب کا کڑھائی والا کرتا پہن کر نماز پڑھنا	۳۹۵
۲۷۳۴	چوری کے کپڑوں میں نماز پڑھنا	۳۹۷
۲۷۳۵	سینٹ لگا کر نماز پڑھنے کا حکم	۳۹۷
۲۷۳۶	سینٹ لگا کر نماز پڑھنے کا حکم	۳۹۹
۲۷۳۷	کیا داڑھی منڈانے کا گناہ نماز کے اندر بھی ہوتا ہے؟	۴۴۰

- ۲۷۳۸ سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا ۴۰۱
- ۲۷۳۹ تصویروں کی آمدنی سے گزارہ کرنے والے کی نماز کا حکم ۴۰۲
- ۲۷۴۰ سودی رقم کے ذریعہ لگائے ہوئے نفل سے وضو کر کے نماز پڑھنا ۴۰۲
- ۲۷۴۱ چوری کے کپڑوں میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم ۴۰۴
- ۲۷۴۲ نماز میں کھانسنے کا حکم ۴۰۵
- ۲۷۴۳ دوران نماز بلغم آجائے تو کیا کریں؟ ۴۰۶
- ۲۷۴۴ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم ۴۰۷
- ۲۷۴۵ جنازہ سامنے ہوتے ہوئے فرض نماز پڑھنا ۴۰۸
- ۲۷۴۶ چشمہ لگا کر نماز پڑھنا ۴۰۹
- ۲۷۴۷ جلتے چراغ کے سامنے نماز پڑھنا ۴۰۹
- ۲۷۴۸ امام صاحب کا سجدہ سے مقتدیوں کے بعد کھڑا ہونا ۴۱۰
- ۲۷۴۹ دوران نماز پاجامہ کا ٹخنے سے نیچے رہنا ۴۱۲
- ۲۷۵۰ نماز میں ٹخنہ سے نیچے پتلون کو موڑ لینا ۴۱۳
- ۲۷۵۱ ٹخنہ سے نیچے لٹکنے والی پینٹ کو موڑ کر نماز ادا کرنا ۴۱۴
- ۲۷۵۲ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا پتلون ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا ۴۱۵
- ۲۷۵۳ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا پتلون ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا ۴۱۶
- ۲۷۵۴ ٹخنے سے نیچے والے پاجامہ کو اوپر چڑھا کر نماز پڑھنا ۴۱۷
- ۲۷۵۵ بٹن کھول کر آستین موڑ کر، چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۴۱۸
- ۲۷۵۶ آستین اور گر بیان کا بٹن کھلا رکھ کر نماز پڑھنا ۴۱۹
- ۲۷۵۷ آستین چڑھا کر گر بیان کھول کر اور پاجامہ موڑ کر نماز پڑھنا ۴۲۱

- ۲۷۵۸ کیا آستین کی کف پلٹنے سے نماز نہیں ہوتی؟ ۴۲۳
- ۲۷۵۹ نیکر پہن کر نماز پڑھنا ۴۲۴
- ۲۷۶۰ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۴۲۵
- ۲۷۶۱ مرد عورت کا چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۴۲۶
- ۲۷۶۲ گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۴۲۶
- ۲۷۶۳ تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا ۴۲۷
- ۲۷۶۴ عورت کا جاندار کی تصویر والا ہار پہن کر نماز پڑھنا ۴۲۸
- ۲۷۶۵ زنجیر والے بٹن لگا کر نماز پڑھنا ۴۲۹
- ۲۷۶۶ دوران نماز سلوگن پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے ۴۲۹
- ۲۷۶۷ دوران نماز مسجد میں لٹکی ہوئی تسبیح پر نگاہ کا پڑنا ۴۳۰
- ۲۷۶۸ پان کا ٹکڑا منہ میں لے کر نماز پڑھنا ۴۳۱
- ۲۷۶۹ منہ میں گولی رکھ کر نماز پڑھنا ۴۳۳
- ۲۷۷۰ نئے جوتے پہن کر نماز پڑھنا ۴۳۴
- ۲۷۷۱ کیا پلاسٹک کی چٹائی پر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ۴۳۴
- ۲۷۷۲ گھڑی دیکھ کر رکعت کا تعین کرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ ۴۳۶
- ۲۷۷۳ کپڑے پر ایک درہم سے کم نجاست لگی ہو تو نماز کا حکم ۴۳۶
- ۲۷۷۴ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا ۴۳۷
- ۲۷۷۵ کیا وضو کے بعد بیڑی پینے سے نماز میں کراہت آتی ہے؟ ۴۳۸
- ۲۷۷۶ شیعہ کی اذان سے پڑھی گئی نماز کا حکم ۴۳۹

□	۱۶ / باب ما یفسد الصلاة وما لا یفسد	□
---	-------------------------------------	---

۲۴۱ عمل کثیر کی مقدار و تعریف	۲۷۷۶
۲۴۲ عمل کثیر کی تعریف	۲۷۷۷
۲۴۳ نماز میں دونوں ہاتھوں کے استعمال یا ایک ہاتھ کے ۳ مرتبہ سے زائد استعمال کا حکم	۲۷۷۸
۲۴۵ اللہ اکبر، اور اکبر کے معنی	۲۷۷۹
۲۴۵ تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالیہ کو سراً کہنا	۲۷۸۰
۲۴۶ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بلا تکبیر رکوع میں چلے جانا	۲۷۸۱
۲۴۷ امام کے دعائیہ آیت میں سکتے کرنے پر مقتدیوں کا آمین کہنا	۲۷۸۲
۲۴۸ کسی کے کہنے پر مقتدی کا زور سے تکبیر کہنے کا حکم	۲۷۸۳
۲۵۰ خارج صلوة شخص کے کہنے پر مقتدی کا تکبیر کہنا	۲۷۸۴
۲۵۱ نماز میں خارجی شخص کا لقمہ قبول کرنا	۲۷۸۵
۲۵۲ اشارہ سے لقمہ دینے والے کی نماز کا حکم	۲۷۸۶
۲۵۳ ماتک کی خرابی سے اوپری منزل والوں کو امام کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چلنا	۲۷۸۷
۲۵۴ امام کے سلام سے قبل مقتدی کا سلام پھیرنا	۲۷۸۸
۲۵۶ عصر کی نماز کی ایک رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا	۲۷۸۹
۲۵۷ نماز میں اردو زبان میں دعا مانگنا	۲۷۹۰
۲۵۸ بھول سے جیب میں رکھی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم	۲۷۹۱
۲۵۹ قنوت نازلہ میں وعدہ اور وعید کے الفاظ کی تبدیلی کا حکم	۲۷۹۲
۲۶۰ دوران نماز بیوی کا بوسہ لینا	۲۷۹۳
۲۶۱ دوران نماز تارچ جلانا	۲۷۹۴

- ۲۷۹۵ نماز میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو کیا کریں؟ ۴۶۲
- ۲۷۹۶ دوران نماز موبائل کی گھنٹی بند کرنا ۴۶۳
- ۲۷۹۷ جیب سے موبائل نکال کر آنکھوں سے دیکھ کر بند کرنا ۴۶۴
- ۲۷۹۸ ایک ہاتھ سے بجلی کا بٹن دبانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۴۶۵
- ۲۷۹۹ دوران نماز موبائل بند کرنا ۴۶۷
- ۲۸۰۰ امام صاحب نے سجدہ سے اٹھتے ہوئے نپکھے کا بٹن دبا دیا۔ ۴۶۸
- ۲۸۰۱ رومال اور انگوچھا سامنے رکھ کر نماز پڑھنا ۴۶۹
- ۲۸۰۲ رومال سے اعضاء وضو پوچھ کر سجدہ کی جگہ رکھنا ۴۷۱
- ۲۸۰۳ مسجد کی چٹائی پر اپنا تولیہ وغیرہ بچھا کر نماز پڑھنا ۴۷۲
- ۲۸۰۴ سجدہ میں زمین پر بالکل قدم نہ رکھنا یا رکھنے کے بعد اٹھالینا ۴۷۳
- ۲۸۰۵ عورت کے صف میں کھڑے ہونے سے کس کس کی نماز فاسد ہوگی؟ ۴۷۴
- ۲۸۰۶ مسجد حرام میں مردوں و عورتوں کا مخلوط نماز پڑھنا ۴۷۵
- ۲۸۰۷ کیا مسجد حرام میں محاذات میں سہولت کی کوئی شکل ہے؟ ۴۷۶
- ۲۸۰۸ مسجد نبوی میں عورت کی محاذات کا حکم ۴۷۷
- ۲۸۰۹ سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا تو کیا حکم؟ ۴۷۸
- ۲۸۱۰ اگلی صف میں فرجہ دیکھ کر آگے چل کر فرجہ میں داخل ہونا ۴۷۹
- ۲۸۱۱ نابینا و بہرے شخص کو ہر رکن میں قریب والے نمازی کا اشارہ کرنا ۴۸۰
- ۲۸۱۲ نابینا رکوع نہ کر کے کا تو نماز فاسد ہوگی ۴۸۱
- ۲۸۱۳ بچے کے پستان چوسنے سے دودھ نکل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ۴۸۲
- ۲۸۱۴ نماز کی حالت میں ماں سے بچے نے دودھ پی لیا تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ ۴۸۳

۲۸۱۵ نماز کی حالت میں لکھنے کا حکم	۲۸۱۴
۲۸۱۶ نماز میں پینٹ شرٹ کے پیچھے کا حصہ کھل جائے تو کیا حکم ہے؟	۲۸۱۵
۲۸۱۷ سجدہ میں دونوں پیروں کا ایک رکن کے بقدر اٹھے رہنا	۲۸۱۶
۲۸۱۸ نماز میں داہنپاؤں ایک جگہ جمائے رکھنا	۲۸۱۷
۲۸۱۹ رکوع و سجدہ میں انگوٹھے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا	۲۸۱۸
۲۸۲۰ داہنے پیر کا انگوٹھا ہلنے سے نماز کا حکم	۲۸۱۹
۲۸۲۱ دوران نماز امام کا انگوٹھا اور قرأت کے وقت گردن ہلنا	۲۹۰
۲۸۲۲ نماز میں پیر کا انگوٹھا ہلنا	۲۹۱
۲۸۲۳ نماز میں پاؤں کو آگے پیچھے کرنا	۲۹۲
۲۸۲۴ بلا عذر ایک رکن میں دو بار کھجلا نا	۲۹۳
۲۸۲۵ ایک رکن میں عذر یا بلا عذر متعدد بار کھجلا نا	۲۹۵
۲۸۲۶ ایک رکن میں تین مرتبہ کھجلا نا	۲۹۶
۲۸۲۷ ایک رکن میں چار مرتبہ کھجلا نا	۲۹۸
۲۸۲۸ ایک رکن میں پانچ دفعہ کھجلا نا مفسد صلاۃ ہے	۲۹۹

	۱۷ / باب قضاء الفوائت	
--	-----------------------	--

۲۸۲۹ صاحب ترتیب کون ہے؟	۵۰۱
۲۸۳۰ محض توبہ اور ندامت سے آدمی صاحب ترتیب نہیں بنتا	۵۰۲
۲۸۳۱ فوت شدہ نمازوں کی قضاء کر کے صاحب ترتیب بنا جاسکتا ہے	۵۰۳
۲۸۳۲ چھ سے زائد نماز چھوٹ جائیں تو پھر صاحب ترتیب کب بنے گا؟	۵۰۴
۲۸۳۳ کیا قضاء نماز ادا کرنے سے ترتیب لوٹ آئے گی؟	۵۰۵

- ۲۸۳۴ صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز یا دآنے کا حکم ۵۰۶
- ۲۸۳۵ تراویح کی نماز فوت ہونے سے ترتیب باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ ۵۰۸
- ۲۸۳۶ فوت شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو قضاء کا طریقہ ۵۰۸
- ۲۸۳۷ عیسوی سن کے حساب سے قضاء نمازوں کی ادائے گی کا حکم ۵۰۹
- ۲۸۳۸ سنتوں کی قضا ۵۱۱
- ۲۸۳۹ فوت شدہ نمازوں کی قضاء برسر عام نہ کی جائے ۵۱۲
- ۲۸۴۰ جمعہ کی صحت اسی دن کی نماز فجر پر موقوف نہیں ۵۱۳
- ۲۸۴۱ قضائے عمری کا آسان طریقہ ۵۱۴
- ۲۸۴۲ قضائے عمری کا طریقہ اور عصر و فجر کے بعد اس کی ادائے گی کا حکم ۵۱۵
- ۲۸۴۳ بعد نماز عصر و فجر قضائے عمری پڑھنا ۵۱۶
- ۲۸۴۴ نوافل کے وقت قضائے عمری پڑھنے سے نوافل کا ثواب ۵۱۷
- ۲۸۴۵ سنن مؤکدہ کی جگہ قضائے عمری ادا کرنا ۵۱۸
- ۲۸۴۶ نماز عصر کے بعد قضائے عمری اور نماز فجر کی اذان کے بعد تہجد کا حکم ۵۱۹
- ۲۸۴۷ بعد نماز فجر یا عصر قضاء نمازوں کی ادائیگی کا حکم ۵۲۰
- ۲۸۴۸ نماز عصر کے بعد فرائض کی قضاء ۵۲۱
- ۲۸۴۹ طلوع شمس سے قبل سنت فجر کی قضاء ۵۲۲
- ۲۸۵۰ طلوع شمس کے کتنی دیر بعد نماز فجر کی قضاء کریں ۵۲۳
- ۲۸۵۱ کیا ناپاک پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی نوافل کا اعادہ لازم ہے؟ ۵۲۴
- ۲۸۵۲ ناپاک پانی سے وضو کرنے والے کے پیچھے پاک پانی سے وضو کرنے والوں کی نماز اور سنن بعد یہ و وتر کا حکم ۵۲۵

- ۲۸۵۳ چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ۵۲۶
- ۲۸۵۴ فوت شدہ نمازوں کے فدیہ کا شرعی حکم ۵۲۷
- ۲۸۵۵ کیا نماز اور روزہ کا فدیہ ہوتا ہے؟ ۵۲۸
- ۲۸۵۶ زندگی میں نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ۵۲۹
- ۲۸۵۷ پوری زندگی کبھی نماز نہ پڑھنے والے کا فدیہ ۵۳۱
- ۲۸۵۸ کیا شوہر اپنی کمائی سے بیوی کی نماز کا فدیہ دے سکتا ہے؟ ۵۳۳
- ۲۸۵۹ بیماری کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ۵۳۴
- ۲۸۶۰ مریض کے لئے نماز و روزہ کا فدیہ دینا ۵۳۵
- ۲۸۶۱ بیماری کے کن ایام کا فدیہ دینا ضروری ہے ۵۳۶
- ۲۸۶۲ بیماری میں بالغ ہونے اور انتقال کر جانے والی لڑکی کی نمازوں کے فدیہ کا حکم ۵۳۸
- ۲۸۶۳ کس قسم کے نمازی پر نمازوں کا فدیہ لازم ۵۳۹
- ۲۸۶۴ بغیر وصیت کے نمازوں کا فدیہ دینا ۵۴۰
- ۲۸۶۵ ورثاء میں بالغ اور نابالغ اولاد ہوں تو مرحوم کی نمازوں کے فدیہ کا حکم ... ۵۴۱
- ۲۸۶۶ ایک فقیر کو متعدد نمازوں کا فدیہ دینا ۵۴۲
- ۲۸۶۷ دو ماہ کی نمازوں کا فدیہ ۵۴۳
- ۲۸۶۸ تین ماہ کی نمازوں اور ایک ماہ کے روزہ کے فدیہ کی مقدار ۵۴۴
- ۲۸۶۹ ایک سال کی نمازوں کا کفارہ اور اس کا مصرف ۴۴۵
- ۲۸۷۰ ایک فقیر کو ایک دن میں کتنی نمازوں کا فدیہ دیا جائے؟ ۵۴۶
- ۲۸۷۱ کم پیسے سے نماز و روزہ کا فدیہ کیسے ادا کریں؟ ۵۴۸
- ۲۸۷۲ صلوة المعادة ۵۴۹
- ۲۸۷۳ ترک واجب کی بنا پر صلوة معادة کا تفصیلی جواب ۵۵۱

۵۵۴	ترک واجب کی بنا پر صلوة معادہ کی شرعی حیثیت	۲۸۷۴
۵۵۶	صلوة المعادہ میں نئے نمازیوں کی شرکت	۲۸۷۵
۵۵۷	صلوة المعادہ میں شرکت کرنے والے کا حکم	۲۸۷۶
۵۵۸	صلوة المعادہ میں نووارد کی شرکت کا حکم	۲۸۷۷
۵۶۱	تاخیر واجب کی بنا پر صلوة معادہ میں مسبوق اور نووارد کی شرکت	۲۸۷۸
۵۶۲	ترک واجب کی بنا پر صلوة معادہ کی اقتداء	۲۸۷۹
۵۶۳	صلوة المعادہ میں نئے شریک ہونے والے مقتدیوں کی نماز کا حکم	۲۸۸۰

<input type="checkbox"/>	۱۸ / باب الحدث في الصلاة	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

۵۶۵	دوران نماز حدث کا لاحق ہونا	۲۸۸۱
۵۶۶	جمعہ کی نماز کے دوران حدث کا لاحق ہونا	۲۸۸۲
۵۶۷	پہلی صف میں موجود مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے تو کیا کرے؟	۲۸۸۳
۵۶۸	حدث لاحق ہونے کی وجہ سے نمازیوں کے سامنے سے گزرنا	۲۸۸۴
۵۶۹	حدث لاحق ہونے پر مقتدی کو امام بنانا اور اس کا اپنی جگہ پر نماز پوری کرنا	۲۸۸۵

<input type="checkbox"/>	۱۹ / باب سجود السهو	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------	--------------------------

۵۷۱	کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہے	۲۸۸۶
۵۷۲	تیسری رکعت پر تین تسبیح پڑھنے سے کم مقدار بیٹھنا	۲۸۸۷
۵۷۳	عصر کی تیسری رکعت میں دو تسبیح کے بقدر بیٹھ گیا	۲۸۸۸
۵۷۴	محض گمان پر سجدہ سہو کرنا	۲۸۸۹

- ۲۸۹۰ سورہ فاتحہ کی دو تین آیت پڑھ کر دوبارہ مکمل پڑھنا ۵۷۶
- ۲۸۹۱ کیا تشہد کے کسی جزو کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہے؟ ۵۷۷
- ۲۸۹۲ سورہ فاتحہ کو ”اھدنا الصراط“ تک پڑھنے کے بعد دوبارہ از سر نو پڑھنا ۵۷۸
- ۲۸۹۳ ثناء کے بعد سورہ فاتحہ کے بجائے التحيات پڑھنا ۵۷۹
- ۲۸۹۴ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل تشہد پڑھنا ۵۸۰
- ۲۸۹۵ ثناء سے قبل تشہد پڑھنے کے سلسلے میں احسن الفتاویٰ میں تسامح ۵۸۱
- ۲۸۹۶ نفل نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار موجب سجدہ سہو نہیں ۵۸۲
- ۲۸۹۷ سورہ فاتحہ کے بعد التحيات پڑھنے کا حکم ۵۸۳
- ۲۸۹۸ سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ کے بجائے التحيات پڑھ لی ۵۸۴
- ۲۸۹۹ سجدہ سہو کی وجہ سے التحيات تین مرتبہ پڑھنا ۵۸۵
- ۲۹۰۰ وتر کے قعدہ اولیٰ میں التحيات کے بعد درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کا حکم ۵۸۶
- ۲۹۰۱ سجدہ سہو کے بعد التحيات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دی ۵۸۸
- ۲۹۰۲ نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ۵۸۹
- ۲۹۰۳ قعدہ اخیرہ میں تکرار تشہد اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں ۵۹۱
- ۲۹۰۴ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ نہیں ملائی تو کیا حکم ہے؟ ۵۹۳
- ۲۹۰۵ فرض کی تیسری رکعت میں ضم سورۃ سے عدم سجدہ سہو کی علت ۵۹۳
- ۲۹۰۶ فرض کی آخری رکعت میں سورۃ ملانے سے سجدہ سہو ۵۹۴
- ۲۹۰۷ سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا تو کیا کریں؟ ۵۹۶
- ۲۹۰۸ ظہر کی چار سنتوں کے قعدہ اولیٰ میں التحيات کے بعد درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ ۵۹۷
- ۲۹۰۹ ظہر کی سنن قبلہ کے قعدہ اولیٰ میں التحيات کے بعد درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کا حکم ۵۹۸

- ۲۹۱۰ قعدہ میں تشہد کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی ۶۰۰
- ۲۹۱۱ ظہر کی سنن قبلہ میں دو رکعت پر قعدہ بھول گیا تو سجدہ سہو ۶۰۱
- ۲۹۱۲ اقرب الی القیام اور اقرب الی القعود کی تشریح ۶۰۲
- ۲۹۱۳ قیام سے تشہد کی طرف لوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۶۰۴
- ۲۹۱۴ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے بعد قعدہ اولی طرف لوٹ آنا ۶۰۶
- ۲۹۱۵ قعدہ اخیرہ میں دو رکعت سجدہ کر تیسری کے لئے کھڑا ہونا ۶۰۷
- ۲۹۱۶ مغرب میں دو رکعت پر سلام پھیرنے پر سجدہ سہو کا وجوب ۶۰۸
- ۲۹۱۷ رباعی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیرنے پر مقتدیوں کے ٹوکنے سے نماز کا حکم ۶۱۰
- ۲۹۱۸ رباعی نماز میں ۲ رکعت پر سلام پھیرنا ۶۱۱
- ۲۹۱۹ چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہونا بھول جائے پھر لقمہ دینے پر کھڑا ہوا تو کیا حکم ہے؟ ... ۶۱۳
- ۲۹۲۰ امام قعدہ اولیٰ کئے بغیر کھڑا ہو گیا ۶۱۴
- ۲۹۲۱ رباعی نماز میں قعدہ آخرہ کے بعد پانچویں رکعت پوری کر لینا ۶۱۵
- ۲۹۲۲ قعدہ اخیرہ فرض ہے ۶۱۷
- ۲۹۲۳ ایک سجدہ یا رکوع چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ ۶۱۸
- ۲۹۲۴ تراویح کی دوسری رکعت میں قعدہ کو مؤخر کر دینا ۶۲۰
- ۲۹۲۵ ایک سجدہ بھول جائے تو کب ادا کرے؟ ۶۲۱
- ۲۹۲۶ وتر میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا ۶۲۳
- ۲۹۲۷ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ ۶۲۴
- ۲۹۲۸ وتر کی تیسری رکعت میں دو رکوع کرنے سے سجدہ سہو کا وجوب ۶۲۵
- ۲۹۲۹ دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ۶۲۷

- ۲۹۳۰ دعاء قنوت بھول کر رکوع میں چلے جانا ۶۲۷
- ۲۹۳۱ عیدین و جمعہ میں سجدہ سہو معاف ہونے کی علت ۶۲۸
- ۲۹۳۲ جمعہ و عیدین میں سجدہ سہو کا حکم ۶۳۰
- ۲۹۳۳ کیا مسبوق پر امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے سجدہ سہو واجب ہے؟ ۶۳۱
- ۲۹۳۴ مسبوق کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا ۶۳۲
- ۲۹۳۵ مدرک نے امام کے سلام کے بعد بھول کر پانچویں رکعت پڑھ لی ۶۳۳
- ۲۹۳۶ مدرک نے امام کے سلام پر کھڑے ہو کر دو رکعت اور پڑھ لی ۶۳۵
- ۲۹۳۷ امام کے سلام کے بعد مدرک نے پانچویں رکعت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ ۵۳۶
- ۲۹۳۸ لاحق پر سجدہ سہو واجب نہیں ۵۳۷
- ۲۹۳۹ سجدہ سہو کے بعد امام کی اقتداء کرنا ۶۳۸
- ۲۹۴۰ مقتدی محل سہو کے بعد نماز میں شامل ہوا تو اس پر سجدہ سہو کا حکم ۶۳۹
- ۲۹۴۱ کیا سجدہ سہو بھولنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے؟ ۵۴۱
- ۲۹۴۲ دونوں طرف سلام کے بعد مفسد صلوٰۃ عمل سے قبل سجدہ سہو کرنا ۶۴۲
- ۲۹۴۳ سہو کے بعد امام کو حدیث لاحق ہوا اور خلیفہ نے سجدہ سہو نہیں کیا ۶۴۳
- ۲۹۴۴ دوران نماز کھانسی کی بناء پر ایک آیت پیچھے سے لوٹانا ۶۴۴
- ۲۹۴۵ مغرب کی رکعت کی تعداد بھولنے پر سجدہ سہو کرنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ ۶۴۵
- ۲۹۴۶ مغرب کی دوسری رکعت پر سلام پھیرنا موجب سہو ہے ۶۴۶
- ۲۹۴۷ صلوٰۃ الاستخارہ میں کسی آیت کا بار بار تکرار موجب سہو نہیں ۶۴۷
- ۲۹۴۸ دعاء ماثورہ پڑھ کر سجدہ سہو کرنا ۶۴۹
- ۲۹۴۹ ایک سجدہ تلاوت کی جگہ دو سجدہ کرنا موجب سہو ہے ۶۵۰

□	۲۰ باب سجود التلاوة	□
---	---------------------	---

۲۹۵۰	حنابلہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟	۶۵۲
۲۹۵۱	کیا تمام سجدہ تلاوت واجب ہیں؟	۶۵۳
۲۹۵۲	سجدہ تلاوت کس پر واجب ہے؟	۶۵۴
۲۹۵۳	فرض نماز میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا	۶۵۵
۲۹۵۴	ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ کا تکرار	۶۵۶
۲۹۵۵	آیت سجدہ لکھنے سے سجدہ لازم ہے یا نہیں؟	۶۵۷
۲۹۵۶	ٹیپ ریکارڈ میں آیت سجدہ سننا	۶۵۸
۲۹۵۷	ٹیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سننے کا حکم	۶۵۹
۲۹۵۸	امام رکوع میں سجدہ کی نیت کرے اور مقتدی نہ کریں	۶۶۰
۲۹۵۹	رکوع میں سجدہ تلاوت کی ادائے گی میں دوسورتوں کی تخصیص	۶۶۲
۲۹۶۰	صبح صادق کے بعد نماز فجر سے قبل سجدہ تلاوت کا حکم	۶۶۳
۲۹۶۱	اوقات مکروہہ میں سجدہ تلاوت کرنا	۶۶۴
۲۹۶۲	عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا	۶۶۵
۲۹۶۳	اوقات ممنوعہ میں سجدہ تلاوت کرنا	۶۶۶
۲۹۶۴	ایضاح المسائل کے ایک مسئلہ کی وضاحت	۶۶۷



۹ / بقية كتاب الصلاة

(۱۰) باب تسوية الصفوف

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ☆ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ.

نماز میں صف سیدھی کرنا واجب ہے

سوال [۲۳۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں صف سیدھی کرنے کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد یعقوب غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں صف سیدھی کرنا واجب ہے؛ کیونکہ صحیح احادیث میں صف سیدھی کرنے کا حکم آیا ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف، من تمام الصلاة. (مسلم شريف، الصلاة باب تسوية الصفوف، النسخة الهنديه ۱۸۲/۱، بيت الأفكار رقم: ۴۳۳، مسند الدارمي ۲/۸۰۳، رقم: ۱۲۹۸، صحيح ابن خزيمة، المكتب الاسلامي ۱/۷۴۵، رقم: ۱۵۴۳)

ذهب بعض العلماء منهم ابن حجر، وبعض المحدثين إلى وجوب تسوية الصفوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله

بین وجوہکم“ فإن ورود هذا الوعيد دليل على وجوب التسوية.

(الموسوعة الفقهية كوتية ۲۷/۳۶)

النعمان بن بشير، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوّنَّ صوففكم، أو ليخالفن الله بين وجوہکم. (بخاري شريف، كتاب الصلاة، باب تسوية

الصفوف عند الإقامة وبعدها ۱/۱۰۰، رقم: ۷۰۸، ف: ۷۱۷)

ليخالفن الله بين وجوہکم: وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجنائية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب. (فتح الباري، كتاب الأذان،

باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، دارالريان للتراث العربي بيروت ۲/۲۴۲،

اشرفيه ديوبند ۲/۲۶۴، دارالفكر ۲/۲۰۷، تحت رقم الحديث: ۷۱۷) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۴۸)

حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ کا صف سیدھی کرنے کا اہتمام

سوال [۲۴۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ کس وقت صف سیدھی فرماتے تھے؟

المستفتی: محمد عبدالرقيب، حیدرآباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حضرت عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ سے اقامت کے ختم

ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے صف سیدھی کرنے کا عمل ثابت ہے اور نماز میں صفیں

سیدھی کرنا لازم و واجب ہے۔

وروي عن علي، وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استروا

وكان علي يقول: تقدم يافلان، تأخر يافلان. (جامع الترمذي، كتاب الصلاة،

باب ماجاء في إقامة الصفوف، مكتبة البدر ديوبند ۱/۵۳، دارالسلام رقم: ۲۲۷)

وروي عن عمرؓ، أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في إقامة الصفوف، النسخة الهندية ۱/ ۵۳، دارالسلام رقم: ۲۲۷، مكتبة البدر ديوبند)

مالک عن نافع أن عمر بن الخطابؓ، كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءه فأخبروه أن قد استوت كبر. (موطا امام مالک، الصلاة، باب ماجاء في تسوية الصفوف ۵۵، مكتبة بلال ديوبند)

المراد من قوله بعدها أي بعد الإقامة قبل التحريمة—وكان في زمن عمرؓ رجل موكل على التسوية كان يمشي بين الصفوف ويسويهم، وهو واجب عندنا. (فيض الباري، الصلاة، باب تسوية الصف عند الإقامة وبعدها ۲/ ۲۳۴، مكتبة رشيدية كوئٹہ) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۲۹/۴۰)

تکبیر ختم ہونے پر تسویہ صفوف کا اعلان کرنا

سوال [۲۴۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرات احناف کے نزدیک صف سیدھی کرنے کا اعلان کس وقت بہتر ہے، تکبیر شروع ہونے سے پہلے یا تکبیر ختم ہونے کے بعد؟ یا نماز شروع ہونے سے پہلے؟ واضح فرمائیے۔

المستفتی: محمد سلیمان غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام تسویہ صفوف کا اعلان تکبیر کے اختتام پر کرے، تو بہتر اور افضل ہے؛ اس لئے کہ تکبیر کے دوران اعلان کرنے میں کسی کو سنائی دے گا اور کسی کو نہیں دیگا اور مؤذن کی تکبیر پر دھیان باقی نہیں رہے گا۔

قال أبو يوسف: يشرع في التكبير إذا فرغ المؤذن من الإقامة
محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة للمؤذن على الشروع معه.
(اعلاء السنن، كراچی ۲۱۲/۴)

ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر
بعد فراغه. (المغني ۲۷۵/۱، دارالفكر بيروت لبنان)

أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهم بالتسوية متكأً على خشبة
منصوبة في المحراب، فإذا راهم سووا صفوفهم كبر. (فيض الباري، الصلاة،
باب اقبال الإمام عند تسوية الصفوف ۲/۲۳۵، مكتبة رشدية كوئٹہ)

عن سماك سمعت نعمان بن بشير^{رض} قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم: يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. (سنن أبي داؤد،
كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهنديه ۱/۹۶، دارالسلام رقم: ۶۶۵،
بذل المحمود ۳/۶۱۲، رقم: ۶۶۳، بيروت) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر الف: ۱۱۴۲۲/۴۰)

امام اقامت سے قبل صفیں سیدھی کرائے یا اقامت کے بعد

سوال [۲۴۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ ہمارے علاقہ میں بعض ائمہ کرام جس وقت اقامت ہوتی ہے، تو مقتدیوں کی
طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر صف بندی کراتے ہیں اور اقامت ختم ہوتے ہی نماز شروع
کر دیتے ہیں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کے علمی خطبات میں لکھا ہے کہ میں نے
حدیث میں کہیں بھی آج تک یہ طریقہ نہیں دیکھا؛ بلکہ صف بندی اقامت کے بعد کی جائے،

ہمارے یہاں جمعہ یا اجتماع یا جلسہ یا کسی بھی تبلیغی جوڑ کے موقع پر پہلے کئی منٹ تک صف بندی ہوتی ہے پھر اقامت ہوتی ہے، کیا یہ طریقہ شرعاً درست ہے؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی علمی خطبات ہمارے پاس یہاں نہیں ہے؛ اس لئے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر احادیث شریفہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ پیش خدمت ہے، احادیث مبارکہ سے دوران اقامت اور اقامت سے پہلے صفیں سیدھی کرانے کا ثبوت ملتا ہے؛ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اقامت شروع ہو جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھے ”صفوں کو سیدھا کرو“ اسی طرح کی روایت مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تکبیر شروع ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر صفیں درست فرمایا کرتے تھے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر، ذكر فأنصرف وقال لنا: مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا. (مسلم شريف، كتاب الصلوة، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهندية ۱/۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

عن أنس رضي الله عنه، قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. (بخاري شريف، كتاب الأذان، باب اقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ۱/۱۰۰، رقم: ۷۱۰، ف: ۷۱۹)

عن أنس، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء ظهري. (نسائي شريف، كتاب الصلاة، باب حث الإمام على رص الصفوف، والمقابلة بينها، النسخة الهندية ۱/۹۳، دارالسلام رقم: ۵/۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ صفر المظفر ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۰/۱۰۶۳۲)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۲/۱۴۳۳ھ

امام کا نماز سے قبل صفیں درست کروانا

سوال [۲۴۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد کے امام ہر نماز سے پہلے جماعت کھڑی ہونے کے وقت آواز سے ”صفیں درست کر لیں، نماز درست ہوگی ان شاء اللہ..... مل مل کر کھڑے ہوں“ پکارتے ہیں زید کو اس پر اعتراض ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ بدعت ہے؛ جبکہ بکر کا کہنا ہے کہ یہ درست اور مناسب ہے صفوں کو درست کرانا امام کا کام ہے، اللہ کے پیارے نبی ﷺ بھی صفیں درست فرماتے تھے اور حضرت عمرؓ بھی؛ لہذا شریعت مطہرہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ امام کو اس طرح صفیں درست کرنا چاہئے یا نہیں؟

المستفتی: حکیم محمد ایوب جامعی، حکیمی دواخانہ، کچھنچ (گجرات)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام صاحب کا نماز سے پہلے جماعت کھڑی ہونے کے وقت نمازیوں کو بلند آواز سے یہ کہنا کہ ”صفیں درست کر لو“ اس پر زید کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ بدعت ہے درست نہیں ہے؛ اس لئے کہ یہ آقائے نامدار ﷺ اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، یعنی حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ یہ سب حضرات کھڑے ہو کر بلند آواز سے صف سیدھی کرنے کا اعلان بھی کیا کرتے تھے اور اگر کوئی شخص

صف کے اندر آگے پیچھے نظر آتا اسے آواز دے کر سیدھے کھڑے ہونے کا حکم کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کام کے لئے چند آدمیوں کو مقرر کر رکھا تھا، آج کے ائمہ میں یہ کمی ہے کہ وہ صف سیدھی کرنے کا اعلان نہیں کرتے ہیں جو کہ ان کی ذمہ داری ہے۔

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. (صحيح مسلم الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، النسخة الهندية ۱/۱۸۲، بيت الأفكار رقم: ۴۳۳)

عن النعمان بن بشير، يقول: كان رسول الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، النسخة الهندية ۱/۱۸۲، بيت الأفكار رقم: ۴۳۶، المعجم الكبير للطبراني ۲۱/۱۰۶، رقم: ۱۱۵-۱۱۷) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۳/۱۸ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۶۵۵۳)

کیا صفوں کو سیدھا کرانا امام کی ذمہ داری ہے؟

سوال [۲۴۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو! صفوں کو برابر کیا کرو؛ کیونکہ صفوں کو سیدھی اور برابر کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جزو ہے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو زبانی یا ہاتھ سے برابر فرماتے، جب صفیں برابر ہو جاتیں تو آپ تکبیر تحریر یہ کہتے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلے اپنے دائیں طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھے ”سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں برابر کر لو“ پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں برابر کر لو۔ (ابوداؤد)

- (۱) محترم ان احادیث کی روشنی میں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کیا یہ امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صفوں کو درست کرنے کی غرض سے ہدایت دیں اور پہلی صف کی دائیں بائیں جانب دیکھ کر کم از کم پہلی صف کو درست یا برابر کر دیا کریں؟
- (۲) نماز جماعت سے متعلق امام صاحب کی کیا ذمہ داری یا فرائض ہیں؟

المستفتی: عبدالحق، بلد دانی نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) صفوں کو درست کرنے کے لئے اعلان کرنا اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر کے پہلی صف کی دائیں اور بائیں طرف دیکھ کر نگرانی کرنا امام کی ذمہ داری ہے اور امام کے اعلان کے بعد ہر صف کے مقتدیوں کو اپنی اپنی صف کو درست کرنا خود مقتدیوں کی ذمہ داری ہے اور امام کے اعلان کے بعد جو مقتدی آگے پیچھے ہو کر کے کھڑے ہوں گے وہ خود گنہ گار ہوں گے اور امام کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد اللہ! لتستون صفوفکم أولیٰ خالفن اللہ بین وجوہکم۔ (مسلم شریف، کتاب الصلوة، باب تسویة الصفوف، النسخة الهندیة ۱/۱۸۲، بیت الأفكار رقم: ۴۳۶)

إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال أقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب..... ولا تدرؤا فرجات للشیطان ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ (ابوداؤد شریف، کتاب الصلوة، باب تسویة الصفوف، النسخة الهندیة ۱/۹۷، دارالسلام رقم: ۶۶۶)

ثم إن استوی بعض الصف ولم يستو البعض فظني أن رجال ذلك

الصف والذین خلفه آثمون فإنه كان عليهم التسوية لا الذین قدامهم.

(معارف السنن، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، اشرفیة دیوبند ۲/۳۰۰)

(۲) نماز جماعت سے متعلق امام صاحب کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آنجناب نے وہ سب چیزیں پوچھی ہیں اور وہ سب باتیں کتب فقہ میں باب الامامت کے ذیل میں موجود ہیں اور حتمی جزئیات ہیں ان سب کو دیکھنا ہوگا؛ لہذا آپ کے سوال کے جواب میں کتاب الجماعت اور کتاب الامامت ہم نقل نہیں کر سکتے ان میں سے جو مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہو وہ واضح طور پر لکھتے پھر اس کا جواب لکھا جاسکتا ہے اور اگر آپ کو سب باتوں کی ضرورت ہے تو کتاب الامامت خود پڑھ کر دیکھتے پوری کتاب نقل کر کے مستفتی کو بتانا مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۷۵۷۱۰)

کیا صفوں کو سیدھا کرنا امام پر لازم ہے؟

سوال [۲۴۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب اپنے حجرے سے سیدھے مصلے پر آکر جماعت شروع کر دیتے ہیں، وہ صف کے بھی دائیں بائیں صفوں کی درستگی کی غرض سے نہیں دیکھتے، کیا صفوں کو درست کرنا امام صاحب کے فرائض میں سے نہیں ہے؟

المستفتی: عبدالحق، ہلدوانی، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صفوں کو درست کرنا خود مقتدیوں کی ذمہ داری اور انہیں کے فرائض میں شامل ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضور ﷺ مصلے پر

تشریف لے جاتے تھے، تو مؤذن تکبیر شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ کرامؓ اپنی اپنی صفوں کو خود درست فرمایا کرتے تھے، ہاں البتہ امام صاحب کا مصلے پر جا کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے اگلی صف کی طرف دائیں بائیں نظر ڈال لینا مستحب اور مسنون ہے، حضرات خلفاء راشدین کا عمل یہی تھا کہ وہ اگلی صفوں کی نگرانی فرماتے تھے۔

أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة، يقول أقيمت الصلاة فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فأنصرف وقال لنا مكانكم الحديث. (مسلم شريف، كتاب الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، النسخة الهنديه ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم، قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. (مسلم شريف، كتاب الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، النسخة الهنديه ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

أن عمر بن الخطاب كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف، فإذا جاءه، فأخبروه بتسويتها كبر. (موطا محمد، كتاب الصلاة، باب تسوية الصف ۸۸، رقم: ۹۷)

وينبغي للقوم إذا قاموا أن يتراصوا يسدوا الخلل ويسوا بين منابهم في الصفوف ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك. (هندي، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم، قديم زكريا ۱/ ۸۹، جديد ۱/ ۱۴۶، الدر المتقي مع مجمع الانهر، كتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالكتاب العلمية بيروت ۱/ ۱۶۵، شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ۲/ ۳۱۰، كراچي ۱/ ۶۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۱/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ شوال المکرم ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۴۸۸)

صفوں کی درستگی کا ذمہ دار کون ہے، امام صاحب یا مقتدی حضرات؟

سوال [۲۴۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا صفوں کا درست کرانا امام صاحب کے فرائض میں نہیں ہے، ہمارے امام صاحب کبھی بھی دائیں بائیں یا پیچھے مڑ کر صفوں کو درست کرانے کی غرض سے نہیں دیکھتے؛ بلکہ تکبیر مکمل ہونے پر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، بھلے ہی پہلی صف تک درست نہ ہوئی ہو؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صفوں کو درست کرنے کے اصل ذمہ دار مقتدی حضرات ہی ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھ کر صفیں درست کر لے اور اس طرح صفیں درست کرنا مقتدیوں پر واجب ہے؛ البتہ امام کے لئے پہلی صف کی نگرانی کرنا اور نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرنے کا اعلان کرنا مستحب اور مسنون ہے؛ لہذا اگر امام نے دائیں بائیں دیکھے بغیر نماز شروع کر دی ہے اور اعلان بھی نہیں کیا تو ایک مستحب عمل ترک ہوا، جس پر ملامت بھی نہیں؛ البتہ جو مقتدی صحیح قطار بنا کر کھڑے نہیں ہوئے، وہ خود صف سیدھی نہ کرنے کے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔

عن مالک بن أبي عامر الأنصاري أن عثمان بن عفان، كان يقول في خطبته: إذا قامت الصلاة، فاعدلوا الصفوف، وحاذوا بالمنكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلوة. (مؤطا محمد، كتاب الصلاة، باب تسوية

الصف ۸۸، رقم: ۹۸، مصنف عبد الرزاق ۳/۲۱۲، رقم: ۵۳۷۳، السنن الكبرى للبيهقي،

كتاب الجمعة، باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها دار الفكر ۴/۷۳، رقم: ۵۹۲۸)

عن أبي هريرة، قال: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم،

فیأخذ الناس مصافهم، قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه .
 (مسلم شریف، باب متى يقوم الناس للصلاة، النسخة الهندية ۱/۲۲۰، بیت الأفكار رقم: ۶۰۵)
 وعلی هذا فيكون تسوية الصف واجبا والتفريط فيه حراماً .
 (اعلاء السنن ۴/۳۳۵ بیروت)

وينبغي للقوم إذا قاموا أن يترصوا ويسدوا الخلل ويسوا بين
 منابهم في الصفوف، ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك . (هنديه، كتاب الصلاة،
 الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم، قديم زكريا ۱/۸۹، جديد ۱/۶۱ ۱۴ كتاب الصلاة،
 باب الإمامة بيروت ۱/۱۶۵، الدر المننقي، كتاب الصلاة، باب الامامة ۱/۱۶۵، شامي،
 كتاب الصلاة، باب الإمامة زكريا ۲/۳۱۰، كراچي ۱/۵۶۸، تبين الحقائق، كتاب الصلاة،
 باب الإمامة، امدايه ملتان ۱/۱۳۶)

وقال ابن مالک في شرحه: يدل على أن السنة للإمام أن يسوي
 الصفوف ثم يكبر . (اعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب سنية تسوية الصف
 ورسها ۴/۳۳۷ بیروت) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۲/۱۰/۲۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عقا اللہ عنہ
 ۲۲ شوال المکرم ۱۴۳۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۱۰۴۸۹/۳۹)

امام کے علاوہ دوسرے شخص کا صفوں کو سیدھا کرانا

سوال [۲۴۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ یہ ایک رواج ایسا ہو گیا ہے کہ جب مؤذن اقامت سے فارغ ہوتا ہے،
 تو ایک عام آدمی باواز بلند اعلان کرتا ہے کہ صفیں سیدھی کر لو، جس سے بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے
 اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں، تو کیا اس طرح سے ایک عام شخص کے لئے امام کی

اجازت کے بغیر تسویہ صفوف کا اعلان کرنا درست ہے؟ جبکہ دو رسالت میں حضور ﷺ نے صفوں کو سیدھا رکھنے پر نہایت زور دیا اور تولاً بھی فرمایا اور عملاً بھی صفیں سیدھی کرائیں؛ لیکن حضور ﷺ کی موجودگی میں کسی صحابی نے صفیں سیدھی نہیں کرائیں، تو کیا اس دور میں امام کی اجازت کے بغیر کسی عام آدمی کو صفیں سیدھی کرانے کا حق ہے، اگر امام صفیں سیدھی کرنے کا اعلان نہ کرے تو کیا امام پر زور اور دباؤ اس کے لئے ڈالا جائے گا یا امام کے حق کو کوئی شخص خود ہی انجام دے گا؟ مفصلاً جواب مطلوب ہے۔

(۲) ایک مولانا صاحب نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ یہ امام کا حق ہے کوئی شخص امام کی اجازت کے بغیر یہ اعلان نہیں کر سکتا ہے، تو مولانا صاحب کا یہ مسئلہ بیان کرنا صحیح ہے یا غلط اور لوگوں کا مولانا کے خلاف پروپیگنڈہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟

المستفتی: عبدالتین قاسمی، مدرس مدرسہ امدادیہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جماعت کی نماز کے لئے صف سیدھی کرنا تمام علماء کے نزدیک لازم اور ضروری ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں صفیں سیدھی کرنے کو تکمیل صلوٰۃ کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے۔

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. (صحيح مسلم، باب تسوية الصف وإقامتها، النسخة الهندية ۱/۸۲، بيت الأفكار رقم: ۴۳۳، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة ۱/۶۰، رقم: ۴۱۹، ف: ۲۳)

اور اکثر علماء نے تسویہ صفوف کو واجب کہا ہے، مگر حضور ﷺ اور خلفاء راشدین کے عمل سے واضح ہوتا ہے کہ تسویہ صفوف کی ذمہ داری امام کی ہوتی ہے یا امام نے جس کو اس کام کے لئے ذمہ دار بنایا ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے؛ کیونکہ اگر امام کی اجازت کے

بغیر دوسرے لوگ یہ کام انجام دیں گے تو نظام صلوٰۃ میں خلل آنے کا خطرہ ہے، حضور ﷺ از خود صف سیدھی فرماتے تھے۔

عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلوة، فإذا استوينا كبر. (ابو داؤد شريف، الصلاة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية ۱/۹۸، دار السلام، رقم: ۶۶۵، المعجم الكبير للطبراني ۱۰۷/۲۱، رقم: ۱۱۸)

اور حضرت عمرؓ نے اس کام کے لئے باقاعدہ چند آدمیوں کو متعین فرما رکھا تھا۔
عن عمرؓ أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. الحديث. (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في إقامة الصفوف، النسخة الهندية ۱/۳۱، دار السلام رقم: ۲۲۷)

اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ از خود یہ کام انجام دیتے تھے، کسی دوسرے کو ذمہ دار نہیں بنایا تھا۔

روي عن عليؓ، وعثمانؓ أنهما كانا يتعهدان ذلك ويقولان استووا. الحديث (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في إقامة الصفوف، النسخة الهندية ۱/۳۱، دار السلام رقم: ۲۲۷)

ان تمام روایات سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ تسویہ صفوف امام کا حق ہے، اگر کوئی دوسرا شخص یہ کام کرنا چاہے تو امام سے اجازت لینی ضروری ہے ورنہ نظام صلوٰۃ میں خلل آسکتا ہے؛ ہاں البتہ ہر شخص اپنے بغل والے کو صف سیدھی کر کے کھڑے ہونے کے لئے توجہ دلائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵/۳/۲۷ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۹۴۸)

امام کا صفیں درست کرائے بغیر نماز شروع کرنا

سوال [۲۴۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اکثر مساجد میں گھڑی دیکھ کر امام صاحب حجرہ سے سیدھے مصلے پر آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں؛ جبکہ ہدایات یہ ہیں کہ مسجد کا جائزہ لے کر مقتدیوں کی رعایت کے ساتھ صفوں کو درست کر کر ہی تکبیر تحریمہ کہی جائے، صفوں کا درست کرانا امام صاحب کے فرائض میں سے ہے یا سنت مؤکدہ میں سے (دارالعلوم) مگر ہمارے یہاں اگر پہلی صف میں بھی کوئی نماز میں ہے تب بھی توقف نہیں کیا جاتا افضل و مسنون کیا ہے؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: گھڑی دیکھ کر سیدھے مصلے پر آ کر نماز شروع کرنے کا کیا مطلب ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تکبیر ہو چکی ہے، اس کے بعد امام مصلے پر آ کر نماز شروع کر دیتا ہے، تو قابل توجہ بات ہے اور اگر یہ مطلب ہے کہ گھڑی دیکھ کر جماعت کھڑی ہونے کا جو ٹائم مقرر ہے، اسی ٹائم امام مصلے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مؤذن تکبیر شروع کرتا ہے تو کوئی اشکال اور اعتراض کی بات نہیں ہے کہ مؤذن کی تکبیر کے دوران مقتدی حضرات صفیں درست کریں اور امام صاحب مقتدیوں کی طرف منہ کر کے صفوں کی نگرانی کریں اور اعلان کرتے رہیں کہ صفیں درست کر لی جائیں، اس کے بعد امام صاحب نماز کی تکبیر تحریمہ باندھیں یہی مسنون طریقہ ہے اور نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہو چکا ہو یا قریب ہو تو پہلی صف میں سنتیں پڑھنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، ایسے لوگوں کو مسئلہ بتا دیا جائے کہ اپنی سنتیں پیچھے برآمدہ یا مسجد کے آخری گوشہ میں پڑھیں، صحیح حدیث پاک میں وارد ہے کہ مؤذن کی تکبیر کے دوران حضرات صحابہ کرام کھڑے

ہو کر اپنی صفیں درست فرمایا کرتے تھے اور امام صاحب نگرانی فرماتے تھے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة، يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا: مكانكم فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلّى بنا. (صحيح مسلم، الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

وعن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام مقامه. فأوماً إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلّى بهم. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، النسخة الهندية، ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

وعن أبي هريرة أيضاً إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم، قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه الخ. (مسلم شريف، كتاب الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵) فقط واللّه سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۱/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۸۴۱/۳۸)

تکبیر اولیٰ میں امام صاحب کا مصطلح پر بیٹھنا

سوال [۲۴۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ تکبیر اولیٰ میں امام کا مصلے پر بیٹھنا کیسا ہے اور کھڑا ہونا کیسا ہے، صحابہ کے عمل سے اس کا جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: حافظ زاہد حسین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مؤذن کے تکبیر کہتے وقت امام کا مصلے پر بیٹھ جانا حدیث سے ثابت نہیں؛ بلکہ حدیث سے یوں ثابت ہے کہ مؤذن کے تکبیر کہتے وقت سب لوگ کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کر لیا کرتے تھے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في صلاة قبل أن يكبر. الحديث (مسلم شريف، كتاب الصلوة، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵ھ/۱۲۹

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۴۶/۳۱)

صحابہ کرام مؤذن کے تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے

سوال [۲۴۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کے لئے حضور ﷺ اور صحابہ کرام کس وقت کھڑے ہوتے تھے، تکبیر کے شروع میں یا حی علی الصلوة پر، جو بھی ثابت ہو حدیث نقل فرمائیں؟

المستفتی: محمد اقبال آسام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حضور ﷺ اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

معمول یہ تھا کہ جب مؤذن تکبیر کہنا شروع کر دیتا، تو سب لوگ اول اقامت میں کھڑے ہو کر صف درست کرنے لگتے تھے اور مؤذن کے حی علی الصلوٰۃ کہنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور اقامت میں کھڑے ہو کر صف درست کرنے لگتے تھے۔

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في صلاة قبل أن يكبر. الحديث (مسلم شريف كتاب الصلوة، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر يقيم الصلاة يقوم الناس إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى يعدل الصفوف. (مصنف عبد الرزاق ۱/ ۵۰۷، رقم: ۱۹۴۲)

عن البراء بن عازب، قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً قبل أن يكبر. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في الصلاة تقام، ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً، النسخة الهندية ۱/ ۷۹، دار السلام رقم: ۵۴۳، بذل المجهود بيروت ۳/ ۳۷۲) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۴ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ
(الف فتاویٰ نمبر: ۱۱۴۲۲/۴۰)

فقہاء نے ”حی علی الصلوة“ پر کھڑے ہونے کو کیوں کہا؟

سوال [۲۴۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مؤذن تکبیر میں جب ”حی علی الفلاح“ پر پہنچے تب کھڑا ہونا چاہئے

یا تکبیر کی ابتداء میں ہی کھڑا ہو جانا چاہئے، شرعی حکم کیا ہے؟ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ ”حی علی الفلاح“ پر کھڑا ہونا چاہئے اس کا کیا مطلب ہے؟

المستفتی: محمد وحید اللہ، بیتا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: احادیث میں صف درست کرنے کی بہت تاکید آئی ہے؛ اس لئے افضل یہ ہے کہ تکبیر کی ابتداء میں ہی کھڑا ہو جائے؛ تاکہ نماز شروع ہونے سے پہلے باسانی صف درست ہو جائے اور ”حی علی الفلاح“ پر بھی کھڑے ہونا جائز ہے اور کتب فقہ میں جو لکھا ہے کہ ”حی علی الفلاح“ پر کھڑا ہونا چاہئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ضرور کھڑا ہو جانا چاہئے اور اس سے تاخیر نہیں کرنا چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۴۷۵/۵، میرٹھ ۴۷۹/۱۷)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام في مصلاه، قبل أن يكبر. وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة وذهب مالک وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حدّ وكذا قيس بن أبي حازم وحماد بن سعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤمن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف. (عمدة القاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رآوا الإمام، زكريا ۲۱۵/۴، بيروت ۱۵۳/۵)

والظاهر أنه احتراز عن التأخير لا التقديم حتى لو قام أول الإقامة لأبأس .
(طحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة قبيل باب الإقامة، كوثه ۲۱۵/۱)

أن بلا لا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رآه قاموا فلا يقوم في مكانه، حتى تعتدل صفوفهم، قلت: ويشهد مارواه عبد الرزاق،

أن الناس كانوا ساعة يقول المؤمنون: اللهم اكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعادل الصفوف .
(بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام، بيروت ۳/ ۳۶۴،
مكتبة ميرٹھ قديم ۱/ ۳۰۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۱۸/۴۰)

صف کب سیدھی کریں؟

سوال [۲۴۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام کا تکبیر شروع ہونے سے پہلے مصلے پر پہنچنا اور مقتدیوں کا تکبیر سے پہلے کھڑا ہونا کیسا ہے، اگر امام مصلے پر بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے ان میں سے سنت طریقہ کیا ہے؟
المستفتی: محمد یعقوب غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مجمع بہت بڑا ہے صفوں کی درستگی میں کافی وقت لگ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں امام صاحب تکبیر شروع کرنے سے پہلے صفیں سیدھی کرنے کا اعلان کر دیں اور جب صفیں سیدھی ہو جائیں اس کے بعد تکبیر شروع کی جائے، تو یہ طریقہ بہتر اور افضل ہے اور اگر مجمع بہت بڑا نہیں ہے؛ بلکہ صرف چند صفوں کا مجمع ہے، تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ تکبیر شروع ہونے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں، مؤذن صاحب تکبیر کہتے رہیں اور مقتدی صفیں درست کرتے رہیں، تکبیر کہتے کہتے صفیں درست ہو جائیں اور تکبیر ختم ہونے کے بعد امام نماز شروع کر دے، حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے۔

وروي عن عمر^{رض} أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف ولايكبر حتى
 يخبر أن الصفوف قد استوت. (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في إقامة
 الصفوف، النسخة الهنديه ۳۱/۱، دارالسلام رقم: ۲۲۷)

روي عن علي^{رض}، وعثمان^{رض} أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استوا.
 (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في إقامة الصفوف، النسخة الهنديه
 ۵۳/۱، دارالسلام رقم: ۲۲۷)

وعن أبي هريرة^{رض}، قال: أقميت الصلاة و صف الناس صفوفهم،
 وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام مقام، فأوما إليهم بيده
 أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم.
 (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهنديه،
 ۲۲۰/۱، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

وعن أبي هريرة^{رض} إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه
 وسلم، فيأخذ الناس مصافهم، قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
 (مسلم شريف، كتاب الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهنديه ۲۲۰/۱،
 بيت الأفكار رقم: ۶۰۵)

تکبیر شروع ہونے سے پہلے امام کا مصلے پر جا کر بیٹھنا قرآن و حدیث، نبی کریم ﷺ،
 حضرات خلفاء راشدین، تمام صحابہ کرامؓ اور چاروں ائمہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ،
 اور امام احمد بن حنبلؒ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ صرف اس زمانہ کے بدعتیوں کا
 اپنا گڑھا ہوا عمل ہے، جو حدیث و فقہ کے مخالف ہے؛ بلکہ حدیث میں یہ بات ہے کہ امام کی
 ذمہ داری یہ ہے کہ مصلے پر کھڑے ہو کر صفوں کو درست کرے۔

وروي عن عمر^{رض} أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف ولايكبر حتى
 يخبر أن الصفوف قد استوت. روي عن علي^{رض}، وعثمان^{رض} أنهما كانا يتعاهدان

ذکر و یقولان استتروا۔ (ترمذی شریف، کتاب الصلاة، باب ماجاء إقامة الصفوف،

النسخة الهندیہ ۱/۵۳، دار السلام رقم: ۲۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ صفر المظفر ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۲۲۸

(الف فتویٰ نمبر: ۷۵۲۸/۳۶)

مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں؟

سوال [۲۴۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ بریلوی حضرات کا ”حي على الصلاة“ پر کھڑے ہونے کا معمول ہے

اور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اس مسئلہ پر بھی زیادہ سے زیادہ شہر ضلع میں تکبیر شروع ہوتے ہی

لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیا اس مسئلہ میں ہمارے بزرگان دین توبہ توبہ لاعلم تھے؟

المستفتیان: نیاز احمد شمس، ریاض خان علوی، حکمت علی قادری لکھنؤ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر صفوں کی درستگی ہو چکی ہے اس کے بعد تکبیر

میں ”حي على الصلاة“ پر کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے؛ ہاں البتہ

”حي على الصلاة“ پر کھڑے ہونے کی صورت میں تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ کہنے سے

پہلے پہلے صفوں کی درستگی نہیں ہو پاتی ہے، تو شروع تکبیر میں کھڑے ہو جانا چاہئے؛ تاکہ

تکبیر اولیٰ سے پہلے پہلے صفیں سیدھی ہو جائیں؛ کیونکہ تکبیر اولیٰ سے پہلے پہلے صفیں سیدھی نہ

ہوں، تو صفوں کو درست کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔

عن أنس بن مالک أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سووا

صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة،

باب إقامة الصف من تمام الصلاة ۱/۱۰۰، رقم: ۷۱۴، ف: ۷۲۳)

عن أنس بن مالک، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا

صفوفکم، فإن تسوية الصف، من تمام الصلاة. (صحيح مسلم الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، النسخة الهنديه ۱/۱۸۲، بيت الأفكار رقم: ۴۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۳۹۱/۲۵)

صفوں کی ترتیب کا مسنون طریقہ

سوال [۲۴۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی دیواریں جو پتھر کی بنی ہوئی ہیں، جن کی موٹائی قریب ساڑھے چار فٹ ہے، دو صفوں کے بعد برآمدے کے لئے تین در ہیں، ہر در میں برسوں سے دود و نمازی کھڑے ہوا کرتے تھے؛ کیونکہ نہ کھڑا ہونے پر ایک صف سے دوسری صف کا فاصلہ چھ فٹ کے قریب ہو جاتا تھا، اس پر آج تک کسی عالم کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا؛ جبکہ اکثر کسی نہ کسی نماز میں کوئی نہ کوئی عالم ہر روز ہی رہا ہے، اب سوال یہ ہے کہ صفوں کی ترتیب کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی ایک صف سے دوسری صف کا زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہونا چاہئے؟

دروں کو خالی چھوڑنا افضل ہے یا دروں میں کھڑا ہونا افضل ہے؛ جبکہ دو صفوں کے بیچ

کا فاصلہ چھ فٹ ہو جاتا ہو؟

اگر دروں میں نماز نہیں ہوتی تو کیا دروں میں کھڑے ہونے والوں کو اپنی کچھلی

نمازیں دہرائی ہوگی؟

ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ دو صفوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا نہیں ہونا چاہئے جتنی چوڑائی

میں ایک سواری گذر جائے، مولانا محترم مفتی کفایت اللہ صاحب نے کتاب الصلاة کے

ص: ۱۲۲ پر فرمایا ”دروں میں کھڑے ہونے والوں کی نماز ہو جاتی ہے“ فتاویٰ محمودیہ کی جلد

۲۴۶۲ میں فرمایا گیا، دوچار آدمیوں کا دروں میں کھڑا ہونا درست ہے ایک آدمی کا درست نہیں۔

دوسرے مولوی صاحب کا فرمانا ہے کہ دروں میں کھڑے ہونے والوں کی نماز نہیں ہوتی؛ جبکہ مسجد میں اور بھی جگہ ہو، انہوں نے سختی سے دروں سے مصلے اٹھا دیئے، دوسری مسجد جس کے دروں میں محرابیں نہیں؛ بلکہ ڈیڑھ فٹ چوکور پلر ہیں اور ان دروں میں چھ سات آدمی کھڑے ہوتے تھے (اور اس مسجد میں ہمیشہ مستند عالم رہے) ان میں بھی نماز ہونی بند ہوگئی؛ کیونکہ ہوتی نہیں؛ جبکہ چٹائی بچھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے دو صفوں کا فاصلہ ساڑھے چار فٹ ہو جاتا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنی صفوں کے بعد کوئی قباحت نہیں؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق ہلدوانی، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک صف اور دوسری صف کے درمیان مکمل ایک صف کو بلا وجہ خالی چھوڑنا مکروہ ہے؛ لیکن دروں کو خالی چھوڑنا مکروہ نہیں ہے؛ بلکہ دروں کو خالی چھوڑ کر صفوں میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے اور اگر دروں میں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک در میں دو دو، تین تین آدمی ہوں تو یہ بھی جائز ہے، مگر افضل نہیں ہے اور صرف ایک آدمی کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، اب سوال نامہ میں جو مسئلہ متنازع فیہ ہے، اس کا مدار صرف افضلیت اور غیر افضلیت پر ہے اور جن علماء نے دروں میں کھڑے ہونے کا سلسلہ باقی رکھا ہے وہ صرف نفس جواز کی وجہ سے اور جن علماء نے دروں سے صفوں کو اٹھا دیا ہے وہ صرف افضل نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ افضل شکل یہ ہے کہ دروں میں کھڑا نہ ہو جائے؛ بلکہ صفوں میں کھڑا ہو جائے؛ لہذا دونوں قسم کے علماء کے عمل میں تضاد نہیں ہے، اب اس تمہید کے بعد ہر سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔

الف: ایک صف اور دوسری صف کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہئے کہ دوسری صف والے آسانی کے ساتھ رکوع و سجدہ کر سکیں؛ لہذا اس طرح سے صف بچھائی جائے کہ پہلی اور دوسری صف سب ملی ہوئی ہوں جیسا کہ عام مسجدوں میں صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔

ولا بد من وجود فرجة بين الصفين أكثر من قدر مقام الرجل.

(شامی، کتاب الصلاة، باب الإقامة مطلب في الكلام على الصف الأول، کراچی ۵۷۳/۱، زکریا ۲/۳۱۷)

ب: جماعت کے وقت دروں کو خالی چھوڑنا افضل ہے؛ کیونکہ دروں کی وجہ سے صفوں کے درمیان مانع اتصال نہیں ہے۔

ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف مايلى الإمام في داخلها، وما اتصل به من طرفيها خارجا عنها من أول الجدار إلى آخره، فلا ينقطع الصف بينائها كما لا ينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر. (شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة مطلب في الكلام على الصف الأول کراچی ۵۶۹/۱، زکریا ۲/۳۱۱)

عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا، قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في كراهية بين السوراي، النسخة الهندية ۵۳/۱، دارالسلام رقم: ۲۲۹)

(ج) دروں میں کھڑے ہونے والوں کی نماز بلاشبہ ہو جاتی ہے صرف افضلیت کے خلاف ہے؛ اس لئے دروں میں پڑھی گئیں کچھلی نمازوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا اور مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ کہ ”دروں میں نماز ہو جاتی ہے“ صحیح ہے، دروں میں دوچار آدمی کھڑے ہو جائیں تو بلا کراہت درست ہے اور تنہا ایک آدمی کھڑا ہو تو یہ مکروہ ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک صف میں تنہا ایک آدمی کھڑا ہو جائے، مفتی محمود صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ تنہا جو کھڑا ہو اس کی نماز درست نہیں ہے؛ بلکہ یہ کہا ہے کہ مکروہ ہے، جو اپنی جگہ درست ہے اور ایک صف اور دوسری صف کے درمیان سواری گزرنے کی جو بات آئی اس میں مسئلہ کے سمجھنے میں کچھ مسامحت ہوئی ہے، جہاں فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد پوری ہو گئی ہے اور مسجد کے بعد عام راستہ جو لوگوں کی عام گزرگاہ ہے اور سواریاں بھی

چلتی ہیں، اس راستہ کو چھوڑ کر پیچھے کی زمین یا مکان پر اقتداء کی جائے تو اقتداء درست نہیں ہے؛ اس لئے کہ عام گذرگاہ اتصال اور اقتداء کو مانع ہے اور اگر حد و مسجد کے اندر ایک صف یا اس سے زیادہ مکمل چھوڑ کر کے پیچھے کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے یا اسی طرح کھلے میدان میں نماز ہو رہی ہے، اس میں تسلسل صفوف کو چھوڑ کر ایک دو صف خالی چھوڑ کر پیچھے اقتداء کی جاتی ہے تو یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں اور ستونوں کے درمیان کے دروں کو اس فاصلہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس طرح کے فاصلہ کا حکم بالکل الگ ہے اور دروں کا حکم اس سے ہٹ کر بالکل دوسرا ہے؛ اس لئے یہ قیاس درست نہیں ہے۔

والاصطفاف بین الاسطواناتین غیر مکروہ لأنه صف فی حق کل فریق، وإن لم یکن طویلاً وتخلل الاسطواناتة بین الصف، کتخلل متاع موضوع، أو کفرجة بین رجلین، وذلك لا یمنع صحة الاقتداء، ولا یوجب الکراهة. (مبسوط سرخسی، باب صلوة الجمعة، دارالکتب العلمیة بیروت ۳۵/۲)

لوقام الإمام فی الطریق واصطف الناس خلفه فی الطریق علی طول الطریق، إن لم یکن بین الإمام و بین من خلفه فی الطریق مقدار ما یمر فیہ العجلة جازت صلاتهم، وكذا فیما بین الصف الأول والثانی إلى آخر الصفوف-المانع من الاقتداء ثلاثة أشياء منها طریق عام یمر فیہ العجلة والأوقار-ومنها نهر عظیم-ومنها صف تام من النساء، هكذا فی شرح الطحاوی. (عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحة الاقتداء وما لا یمنع، قدیم زکریا ۸۷/۱، جدید ۱۴۵/۱)

(۲) چھوٹی مسجد جس کا مربع چالیس ذراع یا اس سے کم ہو تو ایسی چھوٹی جگہ میں نمازی کے سامنے سے گذرنا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ قریب سے گذرے یا دور سے، اگر بڑی مسجد یا میدان میں کوئی شخص خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ کی جگہ پر نگاہ جما کر نماز پڑھ رہا ہو اور کسی کو اس کے سامنے سے گذرنے کی ضرورت پیش آئے تو نمازی کی نظر جہاں تک جاتی ہے

اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے، جس کا اندازہ تین صف کی مقدار کا لگایا گیا ہے۔
(مستفاد: ایضاح المسائل: ۵۸، احسن الفتاویٰ ۳/۴۰۹، امداد الاحکام ۲/۵۸۷)

وأصح ما قيل فيه أن المصلي لو صلى بخشوع، فيألي الموضوع الذي
يقع بصره على المار يكره المرور بين يديه وفيما وراء ذلك لا يكره.

(مسيبوط سرخسي، باب الحدث في الصلاة، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۱۹۲)

فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد الصغير، فالمرور أمام المصلي
حيث كان يوجب الإثم؛ لأن المسجد الصغير مكان واحد فأمام المصلي
حيث كان في حكم موضع سجوده. (شرح وقاية، كتاب الصلوة، باب ما يفسد
الصلوة وما يكره فيها، اشرفي ۱/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۶/۷۷۲)

صفوں کو سیدھا کرنے سے متعلق چند سوالات

سوال [۲۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: (۱) کہ نماز میں قطار و صف سیدھی کرنا کس درجہ کا واجب ہے۔

(۲) بہت بڑی جماعت میں صف کی درستگی کرنے کی کیا صورت ہے؟

(۳) اگر جم غفیر والی جماعت میں صف درست کرنے کے لئے یہ صورت اختیار

کی جائے کہ ہر صف کے اوپر بطور علامت کوئی رسی یا اس کے ساتھ رنگین کاغذ وغیرہ معلق

کر دیا جائے، مصلی جس کو دیکھ کر صف سیدھی کر سکے گا، کیا یہ کام از روئے شرع درست ہوگا

یا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟

المستفتی: ڈاکٹر امان اللہ کسانئی خانہ، برہمپور، گورا بازار، مرشد آباد (مغربی بنگال)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) نماز میں صفوں کو سیدھا کرنا ایسا واجب ہے جس میں فقہاء و محدثین کے درمیان اختلاف ہے، بعض فقہاء اور محدثین کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایسی سنت مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے اور حنفیہ میں سے بعض محدثین واجب کہتے ہیں اور بعض سنت کہتے ہیں اور شوافع میں بھی ایسا ہی ہے کہ ابن حجر عسقلانی اس کو واجب کہتے ہیں اور دوسرے شوافع اس کو سنت کہتے ہیں اور واجب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں صف سیدھی کرنے کے بارے میں وعید کے انداز سے تاکید حکم وارد ہوا ہے؛ لیکن صف سیدھی کرنا کسی کے نزدیک بھی ایسا واجب یا ایسی شرط نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد یا واجب الاعادہ ہوتی ہو؛ بلکہ نماز سب کے نزدیک کراہت کے ساتھ درست ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: درس ترمذی زکریا ۱۸۵/۲۸۵)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد الله لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. (مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، النسخة الهنديه ۱/۱۸۲، بيت الأفكار رقم: ۴۳۶)

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقميوا الصفوف وحاذا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم..... ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. (ابو داؤد، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهنديه ۱/۹۷، دارالسلام رقم: ۶۶۶)

وهو واجب عندنا تكره الصلوة بترکه تحريما. (فيض الباري، كتاب الصلاة، باب تسوية الصف عند الإقامة وبعدها ۲/۲۳۴، كوئته)

والجمهور أنها سنة وليس الإنكار للزوم الشرع بل للتغليظ والتحريض على الإتمام. (قسطلاني، كتاب الصلاة، باب إثم من لم يتم الصفوف، دارالفكر بيروت ۲/۴۱۵، رقم: ۷۲۴)

قلت والظاهر من كلام أصحابنا أنها سنة مؤكدة لإطلاقهم الكراهة على ضدها. (اعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب سنية تسوية الصف ورضها بيروت ۳۳۲/۴، كراچی ۳۱۵/۴، عمدة القاري، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة بيروت ۲۵۴/۵، زكريا ۳۵۴/۴، اوجز المسالك، العمل في غسل يوم الجمعة، تسوية الصفوف قديم ۳۴۱/۱، دمشق ۲۹۵/۳)

وعلى هذا وهو واجب والتفريط فيه حرام. (فتح الباري، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها قديم بيروت ۲۲۴/۲، اشرفيه ۲۷۴/۲، تحت رقم الحديث ۷۱۷، الموسوعة الفقهية ۳۶/۳۷، بيروت)

الأمر بتسوية الصفوف وهي سنة الصلوة عند أبي حنيفة[ؒ]، والشافعي[ؒ]، ومالك[ؒ]. (عمدة القاري زكريا ۳۵۴/۴، بيروت ۲۵۴/۵)

إن تعديل الصفوف من سنة الصلوة وليس بشرط في صحتها عند الأئمة الثلاثة الخ. (اوجز المسالك، العمل في غسل الجمعة، تسوية الصفوف قديم ۳۴۱/۱، جديد دمشق ۲۹۵/۳)

الصواب أن يقول: فلتكن التسوية واجبة بمقتضى الأمر؛ لكنها ليست من واجبات الصلوة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته، أو نقصتها، غاية ما في الباب إذا تركها يَأْتَم. (اوجز المسالك ۲۹۵/۳، دمشق الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۶/۲۷)

اگر نمازیوں کا مجمع بہت بڑا ہے تو صفیں سیدھی کرنے کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ امام صفیں سیدھی کرنے کا اعلان کر دے اور نماز شروع کرنے میں تھوڑی دیر توقف کر لے؛ تاکہ سب لوگ اپنی اپنی صفیں درست کر لیں اور اعلان میں اس طرح کے الفاظ کہے کہ ”صفیں درست کر لیں، صفیں سیدھی کر لیں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، سب لوگ اپنی ایڑیوں اور قدموں کو دیکھیں“، اس طرح کے اعلان کے ذریعہ سے صفیں سیدھی کر لیں، اس کے بعد نماز شروع کی جائے، حضرت عمرؓ نے چند آدمیوں کو متعین کر رکھا تھا کہ صفوں کی

درستگی کی نگرانی کر لیں حضرت علیؓ اور عثمانؓ از خود صفیں درست کروایا کرتے تھے، اس لئے امام کو مقتدیوں کی طرف منہ کر کے صفوں کے درست کرنے کا اعلان کرنا چاہئے اور دائیں بائیں دیکھ لینا چاہئے۔

سووا صفوفکم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. (مسلم شریف،

باب تسوية الصفوف وإقامتها، النسخة الهندية ۱/۸۲، بیت الأفكار رقم: ۴۳۳)

عن نعمان بن بشير^{رض}، يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثاً، والله لتقيمن صفوفكم أوليخالفن الله بين وجوهكم، فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. (ابوداؤد شریف، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية ۱/۹۷، دارالسلام رقم: ۶۶۲)

(وحاذوا بالمناكب) أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازياً لمنكب الآخر، ومسامتاً له، فتكون المناكب، والأعناق، والأقدام، على سمتٍ واحد. (اعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب سنية تسوية الصف ورضها بيروت ۴/۳۳۶، كراچی ۴/۳۱۹)

عن عمر^{رض} أنه كان يوكل رجلاً بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي^{رض}، وعثمان^{رض} أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استتوا وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. (ترمذي شریف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في إقامة الصفوف، النسخة الهندية ۱/۵۳، دارالسلام رقم: ۲۲۷)

(۳) یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صفوں کو سیدھا کرنے کے لئے رسی یا رنگین کاغذ لگانے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؛ جبکہ ہر صف میں اس کا نشان موجود ہوتا ہے کہ مساجد میں جو صفیں بچھی رہتی ہیں ان میں سے ہر ایک صف کا آخری کنارہ از خود ایک نشان ہوتا ہے، اسی طرح اگر قائلین بچھتی ہے تو اس کا آخری کنارہ از خود علامت ہے، پھر اس میں رسی یا رنگین

کاغذ لگانا بے ضرورت ہے؛ بلکہ لوگوں کو توجہ دلانا چاہئے کہ صفیں سیدھی کر لیں اور صفوں کے آخری کنارے پر ایڑی رکھیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. (مسلم شریف، باب تسوية الصفوف وإقامته، النسخة الهندية ۱/۸۲، بیت الأفكار رقم: ۴۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۱۲/۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱/الحج ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۶۸/۳۹)

امام کے پیچھے کون کھڑا ہو؟

سوال [۲۴۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام کے پیچھے کس شخص کو بیٹھنا چاہئے؟

المستفتی: گکلام، بکر قصاب والی مسجد، مغپورہ، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام کے پیچھے اگر آسانی سے ہو سکے تو پڑھا لکھا عالم ہو یہ بھی اس وقت ہے کہ پڑھا لکھا آدمی پہلے سے آکر جگہ گھیر لے؛ لیکن اگر دوسرے آدمی نے صف اول میں امام کے پیچھے جگہ لے لی ہے، تو اس کو ہٹانا بھی نہیں چاہئے بہتر یہی ہے کہ پڑھا لکھا دینی مسائل سے واقف کار باشرع شخص پہلے آکر امام کے پیچھے جگہ لے لیا کرے۔
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ليليني منكم أو لو الأحلام والنهي. ثم الذين يلونهم ثلاثا الحديث.

(صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية ۱/۸۱، بیت الأفكار رقم: ۴۳۲، سنن الترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء ليليني منكم أو لو الأحلام والنهي،

النسخة الهندية ۱/۵۳، دارالسلام رقم: ۲۲۸، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ۱/۷۵۶،
رقم: ۱۵۷۲، صحيح ابن حبان، دارالفكر ۳/۲۳۸ رقم: ۲۱۷۷، المعجم الكبير للطبراني،

داراحياء التراث العربي ۱۰/۸۸، رقم: ۱۰۰۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ

۱۴۱۷/۳/۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۹۳۲/۴)

جماعت کے لئے کس وقت کھڑے ہوں؟

سوال [۲۴۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک مسجد میں چند احباب اس بات کے قائل ہیں کہ اقامت میں جب ”حی علی الفلاح“ کہتے تب کھڑا ہونا چاہئے اور چند احباب اس بات کے قائل ہیں کہ ابتداء ہی میں کھڑے ہونا چاہئے ازراہ کرم بتلائیں کہ کون صحیح پر ہے کون غلط پر ہے؟ یا افضل وغیر افضل کا اختلاف ہے؟ امید ہے کہ جواب سے نواز کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں گے؟

المستفتی: محمد گجراتی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اقامت کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جانا افضل ہے؛

اس لئے کہ صفوں کو درست کرنا واجب ہے اور تکبیر اولیٰ حاصل کرنا بھی افضل ہے، تو اگر اقامت کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو صفوں کو درست کر کے تکبیر اولیٰ حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور اگر علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے تو صف سیدھی کر کے تکبیر اولیٰ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں حضرات صحابہ کرام اقامت

کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔

عن أبي هريرة رضي يقول: أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل

أن يخرج إلينا رسول الله عليه وسلم. (مسلم شريف، كتاب الصلوة، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵، المعجم الأوسط، دارالفكر ۶/ ۳۹۷، رقم: ۹۱۹۲)

عن أبي هريرة إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم، قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه الخ. (مسلم شريف، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۰/۱۱/۱۴۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ شوال المکرم ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۲۷/۲۳۲۸)

نماز کے لئے کس وقت کھڑا ہونا چاہئے؟

سوال [۲۴۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے کہا کہ ”حی علی الصلاة“ پر کھڑا ہونا چاہئے اور وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے کہ يقوم الإمام والقوم عند حی علی الصلاة ویشرع عند قد قامت الصلاة. (شرح وقایہ ۱۳۶)

اس کے بارے میں مفصل جواب دیں اور بکر کہتا ہے کہ تکبیر سے پہلے کھڑا ہونا چاہئے اور وہ بھی اپنی دلیل بیان کرتا ہے، جب دونوں حدیثیں ہیں، تو دونوں حدیثوں کی تشریح فرمائیے اور واضح فرمائیے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہے؟ اور ایک کو ماننا، دوسرے کو نہ ماننا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

المستفتی: حبیب الرحمن، گڈا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرح وقایہ کی عبارت جو سوال نامہ میں نقل کی گئی ہے،

وہ اپنی جگہ درست ہے اس عبارت میں دو مسئلے بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) حسی علی الصلاة پر کھڑا ہونا۔

(۲) تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز شروع کر دینا یہ دونوں مسئلے کتب فقہ میں ایک جگہ ایک ساتھ ایک ہی درجہ میں بیان کئے جاتے ہیں اور اس قسم کی عبارتوں کو دیکھ کر بعض لوگ حسی علی الصلاة تک بیٹھے رہنے پر اصرار کرتے ہیں، اس سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کھڑے ہونے والوں پر تکبیر کرتے ہیں؛ لیکن یہ لوگ عبارت کے پہلے جز یعنی ”حسی علی الصلاة“ پر کھڑے ہونے پر اصرار کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں مگر عبارت کے دوسرے جز ”قد قامت الصلوة“ پر نماز شروع کرنے کا جو حکم ان کتابوں میں لکھا ہے اس پر نہ کبھی عمل کرتے ہیں اور نہ ہی مسئلہ بتاتے ہیں اور نہ ہی اس مسئلہ پر کوئی توجہ ہے، آخر ایسا کیوں ہے؛ جبکہ دونوں مسئلے ایک ہی درجہ کے ہیں اور بعض لوگ ”قد قامت الصلوة“ پر کھڑے ہونے کا التزام نہیں کرتے؛ بلکہ تکبیر ہونے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر صرف سیدھی کرتے ہیں؛ اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ صفیں سیدھی کرنا نہایت لازم ہے، خلفاء راشدین تکبیر کے وقت کھڑے ہو کر اہتمام کے ساتھ صفیں سیدھی کرتے تھے؛ اس لئے کہ صفیں سیدھی کرنا واجب ہے، اب اگر ”حسی علی الصلاة“ تک انتظار کرتے رہیں گے اور ”قد قامت الصلوة“ پر امام تکبیر تحریمہ کہہ دے گا، توفیق کے مذکورہ جزئیہ پر تو عمل ہو جائے گا، مگر اس سے دو خرابی لازم آئیں گی۔

(۱) صفیں سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملتا جو واجب ہے۔

(۲) قد قامت الصلوة پر تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے خود تکبیر کہنے والا مؤذن اسے امام کیساتھ تکبیر تحریمہ میں شرکت کا موقع نہ ملے گا؛ اس لئے فقہ کی عبارت کے دونوں جزیوں کو ترک کر دیا گیا ہے اور فقہ کی مذکورہ عبارت کے دونوں جزیوں پر عمل کرنے میں ترک واجب وغیرہ کی خرابی لازم آئے گی؛ اس لئے ہم کو حضور ﷺ، خلفاء راشدین اور صحابہ کرامؓ کے عمل کو دیکھنے

کی ضرورت پیش آئی تو ذخیرہ حدیث کے اندر ”حی علی الصلاة“ پر کھڑے ہونے اور امام کے تکبیر کے درمیان مصلے پر جا کر بیٹھ جانے کے متعلق کوئی بھی حدیث نہیں ہے؛ بلکہ تکبیر شروع ہونے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کرنے کے متعلق صحیح حدیثیں ملتی ہیں۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

وعن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام مقامه. (صحیح مسلم، المساجد، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهندية، ۲۲۰/۱، بیت الأفكار رقم: ۶۰۵)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه. (مسلم شريف كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلوة، النسخة الهندية ۲۲۰/۱، بیت الأفكار رقم: ۶۰۵)

ان روایت کے اندر تکبیر کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کرنے کا حکم مذکور ہے، مگر ”حی علی الصلوٰۃ“ تک انتظار کرنے کے بارے میں کوئی حدیث ہم کو نہیں ملی ہے؛ لہذا سوال نامہ میں یہ جو لکھا گیا ہے، کہ دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہے یا نہیں یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے؛ اس لئے صحیح حدیث شریف صرف اقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے متعلق ہے، ”حی علی الصلوٰۃ“ تک انتظار کرنے کے بارے میں نہیں ہے؛ لہذا فقہ کے جزئیہ پر عمل کرنا مشکل ہونے کی وجہ سے حدیث ہی پر عمل کرنا مناسب سمجھا گیا ہے؛ اس لئے تکبیر کے ساتھ تمام مقتدیوں کو کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کر لینی چاہئے اور امام کو مصلے پر جا کر نہ بیٹھنا چاہئے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۶/۱۴۲۰ھ

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۲۰/۳۴)

نماز میں قیام کا صحیح طریقہ

سوال [۲۴۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز میں لوگ اتنا پیر پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہر دو نفر کے بیچ میں جگہ خالی ہو جاتی ہے، اس طرح نماز ہوتی ہے یا نہیں، میں پیر نہیں پھیلاتا ہوں ایک رکعت بعد مجھ کو پیر پھیلا نا پڑتا ہے، اگر نہ پھیلاؤں تو درمیان میں جگہ خالی ہو جائے گی؟

المستفتی: شیخ احمد، اعظمی، بحرین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپس میں ایک دوسرے کے بازو ملنے چاہئے پیروں کا ملنا ضروری نہیں ہے؛ اس لئے پیروں کو بلا عذر چار پانچ انگل سے زیادہ نہیں پھیلا نا چاہئے۔

عن أنس[ؓ]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا صفوفكم، فإنني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه. (بخاري شريف، كتاب الأذان، باب الزاق المنكب بالمنكب ۱/۱۰۰، رقم: ۷۱۶، ف: ۷۲۵)

عن علقمة، قال: كنا نصلي مع عمر[ؓ]، فيقول سدوا صفوفكم، لتلتقي منا كبكم لا يتخللکم الشيطان كأنها بنات حذف. (مصنف عبد الرزاق ۲/۴۶، رقم: ۲۴۳۳)

عن أبي شجرة..... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم..... ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. (ابوداؤد شريف، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية

۱/۹۷، دارالسلام رقم: ۶۶۶)

وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. (شامي، باب صفة الصلوة، مبحث القيام زكريا ۲/۱۳۱، كراچی ۱/۴۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵/ذی الحجۃ ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۹۱۶)

نماز میں ٹانگیں چیر کر کھڑا ہونا

سوال [الف: ۲۴۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں ٹانگیں چیر کر کھڑا ہونا کیسا ہے؟

المستفتی: مطلوب احمد، سیوہارہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں ٹانگیں چیر کر کھڑا ہونا خلاف سنت ہے، کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کندھے کو کندھے سے ملا کر اس طرح کھڑے ہونا چاہئے کہ بیچ میں کوئی خلانہ نہ رہے، یہی ان احادیث کا مطلب ہے جن میں قدم کو قدم سے ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور ٹانگیں چیر کر کھڑے ہونے کی صورت میں کندھے سے کندھے مل نہیں سکتے جو خلاف سنت ہے اور کندھے سے کندھے اسی وقت مل سکتے ہیں؛ جبکہ آدمی اپنی ہیئت پر کھڑا ہو۔

عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا صفوفكم، فإنني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. (بخاري شريف، كتاب الأذان، باب الزايق المنكب بالمنكب ۱/۱۰۰، رقم: ۷۱۶، ف: ۷۲۵)

وعن أبي عثمان، قال: رأيت عمر إذا تقدم إلى الصلاة نظر إلى المناكب والأقدام. (مصنف عبد الرزاق ۲/۴۷، رقم: ۲۴۳۶)

عن علقمة، قال: كنا نصلي مع عمر، فيقول سدوا صفوفكم، لتلثقي منا كبكم لا يتخللکم الشيطان كأنها بنات حذف. (مصنف عبد الرزاق ۴۶/۲، رقم: ۲۴۳۳)

عن أبي شجرة..... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا الصفوف وحاذاوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم..... ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. (ابوداؤد شريف، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية ۹۷/۱، دارالسلام رقم: ۶۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۲/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ صفر المظفر ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: رجسٹر خاص)

دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کے فاصلہ کی شرعی حیثیت

سوال [ب: ۲۴۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کے لئے جب مصلی کھڑا ہوتا ہے تو دونوں پیروں کے درمیان جو چار انگلیوں کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، وہ کس حدیث سے ثابت ہے، اگر کسی صحابی یا تابعی کا فعل ہو تو رہنمائی فرمائیے؟

المستفتی: انوار حسین، وارثی نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کے اندر کھڑے ہونے میں دونوں پیروں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ رکھنے کی جو بات ہے، اس سلسلے میں کوئی حدیث شریف صراحت کے ساتھ نظر سے نہیں گزری؛ ہاں البتہ نماز کے اندر خشوع و خضوع اور طہائنت کا حکم ہے اور یہ خشوع و خضوع اور یکسوئی اس وقت حاصل ہوگی جب کہ آدمی اپنی ہیئت پر کھڑا ہو

اور درمیانی بدن کا آدمی جب اپنی ہیئت پر کھڑا ہوتا ہے تو دونوں پیروں کے درمیان تقریباً چار انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے؛ اس لئے فقہاء و محدثین نے چار انگل کے فاصلہ کو افضل بتایا ہے اور اگر موٹا آدمی ہے تو وہ چار انگل سے زیادہ فاصلہ پر کھڑا ہوگا؛ اس لئے کہ وہی افضل ہے اور دونوں پیروں کو ملا کر کھڑے ہونے سے بعض روایت میں ممانعت آئی ہے؛ اس لئے دونوں پیروں کو ملا کر کھڑے ہونے کی صورت میں آدمی اپنی ہیئت پر نہیں رہ سکتا اس سلسلے میں اشرحہ و تابعین ملاحظہ فرمائیے:

سألت عطاء عن ضم المرء قدميه في الصلاة، فقال أما هكذا حتى تماس بينهما فلا ولكن وسطاً من ذلك، فقال ابن جريج، ولقد أخبرني نافع، أن ابن عمر كان لا يفرسح بينهما، ولا يمس إحداهما الأخرى، قال: بين ذلك. (مصنف عبد الرزاق ۲/۲۶۴، رقم: ۳۳۰۰)

اس سے متعلق فقہی جزئیات ملاحظہ فرمائیے:

ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى الخشوع، هكذا روى عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، قبيل، فصل في القراءة ۲/۵۵، رقم: ۱۷۲۰، مثله في الشاميه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مبحث القيام كراچی ۲/۱۳۱، زكريا و معارف السنن، كتاب الصلاة، بيان تسوية الصف، وصف القدمين، اشرفيه ۲/۲۹۹، رقم: ۳۰۰)

ويسن تفریح القدمين في القيام قدر أربع أصابع؛ لأنه أقرب إلى الخشوع (وتحتته في الطحطاوي) نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافاً. (طحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، فصل في بيان سننها جديد ۲۶۲، قديم ۱۴۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۳/۱۳۳۶/۱۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۰۴/۲۱)

صحت اقتداء کے لئے اتصال صفوف شرط ہے؟

سوال [۲۳۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے اس کے متصل قریب ہی میں ایک دینی مدرسہ ہے، جمعہ کے دن اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے مدرسہ کے طلباء کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جگہ نہیں ملتی ہے، اس بنیاد پر طلباء مدرسہ کے کمرہ میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، طلباء میں بالغ نابالغ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ ان طلباء کی جمعہ کی جماعت الگ سے کی جائے یا کمرہ میں نماز پڑھتے ہوئے مسجد کے امام صاحب کی اقتداء کی جائے؟

نوٹ: مسجد اور کمرہ کے درمیان تقریباً ۳۰ فٹ کا فاصلہ ہے یہ جگہ صف بندی سے خالی رہتی ہے، حضرت والا سے درخواست ہے کہ جواب مدلل عنایت فرمائیں؟

المستفتی: روشن اکوڑی متعلم دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کمرہ میں رہ کر اقتداء صحیح ہونے کے لئے اتصال صفوف شرط ہے اور مذکورہ صورت میں اتصال صفوف نہیں ہے؛ اس لئے کمرہ میں رہ کر اقتداء کرنے والوں کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔

لواقتدی خارج المسجد بإمام في المسجد، إن كانت الصفوف متصلة جاز وإلا فلا لأن ذلك الموضوع بحکم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد. (بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، باب تقدم الإمام علی المأموم زکریا ۱/۳۶۲، قدیم کراچی ۱/۴۶)

ویجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام. (ہندیہ، کتاب الصلاة، الفصل الرابع في بیان ما يمنع صحة الإقتداء وما لا يمنع، قدیم زکریا ۱/۸۸، جدید ۱/۴۶)

نیز ان طلبہ کے لئے الگ سے اسی مسجد کے احاطہ میں دوسرا جمعہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا؛ اس لئے کہ جمعہ کی معنویت ختم ہو جاتی ہے، ان کو پہلے سے ہی تیاری کر کے مسجد کے اندر جگہ لے لینا چاہئے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ذی الحجہ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۰۲/۲۵)

صحت اقتداء کے لئے اتصال صفوف شرط ہے؟

سوال [۲۴۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، آخری صف کے بعد وضو کرنے کی چھوٹی سی ایک نالی ہے اس کے بعد تقریباً چھ صفوں کی کھلی جگہ ہے، جن میں شدید دھوپ پڑتی ہے، اس کے بعد سائے دار درخت ہیں، مسجد سے باقی بچے لوگ انہیں درختوں کے نیچے اپنی صفیں بنا کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں؛ جبکہ ان لوگوں کے اور مسجد کے درمیان میں تقریباً چھ صفوں کا فاصلہ ہے تو کیا ان لوگوں کی نماز ادا ہو جائے گی؟ (عذر دھوپ کا پیش کرتے ہیں) امید کہ جواب تفصیل سے عنایت فرمائیں گے؟

المستفتی: محمد اقبال خان، مدرسہ جامعہ اسلامیہ کمرالہ بدایوں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب وضو کی نالی کے ماوراء اور بعد کا حصہ حدود مسجد سے خارج ہے، تو اس میں کھڑے ہو کر اقتداء صحیح ہونے کے لئے اتصال صفوف شرط ہے اور جب چھ صفوں کی مقدار جگہ چھوڑ کر اقتداء کی جائیگی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی؛ لہذا درختوں کے نیچے جا کر اقتداء کرنے والوں کی اقتداء درست نہ ہوگی، اگرچہ گرمی کی شدت کیوں نہ ہو۔

ولو اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد إن كانت الصفوف متصلة جاز وإلا فلا لأن ذلك الموضوع بحكم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد الخ (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب تقدم الإمام على المأموم زكريا ۳۶۲/۱، کراچی ۱/۴۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ رزی الحجہ ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۰۴۲)

نماز باجماعت میں ٹخنوں سے ٹخنے ملانا

سوال [۲۴۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فرض نماز میں نمازیوں کا ٹخنوں سے ٹخنوں کا ملانا صحیح ہے یا غلط؟
المستفتی: مبین احمد چاند پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حدیث شریف میں کندھے سے کندھا ملانے کی روایت آئی ہے۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذرُوا فرجات للشيطان. (مسند أحمد بن حنبل ۲/۹۸، رقم: ۵۷۲۴، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية ۱/۹۷، دار السلام رقم: ۶۶۶، المعجم الكبير للطبراني ۱۳/۳۱۹، رقم: ۱۴۱۱۳)

اور کعب سے کعب ملانے کی روایت بھی آئی ہے۔

عن أبي القاسم الجدلي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول:

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثاً، والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. (ابوداؤد شريف، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية ۹۷/۱، دارالسلام رقم: ۶۶۲)

اور کندھے سے کندھا ملانے والی روایت اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے اور کعب سے کعب ملانے والی روایت حقیقت پر محمول نہیں ہے؛ بلکہ اس سے مراد صف سیدھی کر کے کھڑا ہونا ہے؛ لہذا ٹخنوں سے ٹخنا کا ملانا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ اپنی ہیئت پر آسانی سے کھڑا ہونا چاہئے، جس میں دیر تک کھڑے رہنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور مونڈھے سے مونڈھا ملا دینا چاہئے، یہی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔

يلزق أي يلمس منكبه بمنكب صاحبه الخ ولعل المراد بالإلحاق المحاذاة، فإن إلزاق الركبة بالركبة والكعب بالكعب في الصلاة مشكل وأما إلزاق المنكب بالمنكب فمحمول على الحقيقة. (بذل المحهود، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف ۳۳۰/۴، قديم مطبوعه ميرٹھ ۳۶۰/۱، جديد دارالبشائر بيروت ۶۰۹/۳، العرف الشذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في إقامة الصفوف ۵۷/۱)

المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. (فتح الباري، كتاب الصلاة، باب إلزاق المنكب بالمنكب قديم بيروت ۲۴۷/۲، جديد اشرفيه ديوبند ۲۶۸/۲، تحت رقم الحديث: ۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۴/۱۸ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۲۵۷۵)

کیا دروں کے موٹے پردے صحت اقتداء کے لئے مانع ہیں؟

سوال [۲۳۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں گرمیوں میں (اے سی) کی ٹھنڈ کو روکنے کے موٹے پردے ڈال دیئے جاتے ہیں، جو باہر کے حصہ کے بیچ میں دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں، ایک صاحب کا کہنا ہے کہ باہر سے سلسلہ جوڑنے کے لئے کم از کم بیچ سے ایک پردہ جماعت کے وقت ضرور ہٹا دینا چاہئے، ورنہ باہر والوں کی جماعت کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دروں اور دروازوں پر پلاسٹک کی پٹی وغیرہ جائل ہونے کی وجہ سے باہر کے لوگوں پر امام صاحب کی امامت اور آگے والوں کی نقل و حرکت مشتبہ نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے بلا کراہت سب کی نماز درست ہو جاتی ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ باہر والوں کی نماز مکروہ ہوتی ہے، وہ بے ثبوت اور بلا دلیل ہے۔

والسائل لا یمنع الإقتداء إن لم یشتبه حال إمامه بسمع، أو رؤية ولو من باب مشبک یمنع الوصول فی الأصح. (در مختار، کراچی ۱/۵۸۶، زکریا ۲/۳۳۳) وفي الشامیة: وإن صلی علی سطح بیته المتصل بالمسجد لا یكون أشد حالاً من منزل بیته وبين المسجد حائط، ولو صلی رجل فی مثل هذا المنزل وهو یسمع التكبير من الإمام، أو المکبر یجوز، فکذا القیام علی السطح. (شامی، زکریا ۲/۲۳۵، کراچی ۵۸۷، طحطاوی علی الدر کراچی ۱/۲۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶ھ/۲۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۲۰۱۰۶)

مقتدی کا وسط صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۴۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو جماعت کی حالت میں جماعت کے دوران صف کے بیچ میں بیٹھے یا کنارے اگر بیچ میں بیٹھتا ہے تو نماز میں خلل ہوگا یا نہیں؟

(۲) اگر خلل ہوتا ہے تو اس کو کنارے بیٹھانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے امام پر یا مقتدیوں پر؟

(۳) اگر امام پر ہوتی ہے اور امام کسی خاص وجہ سے یا احتراماً کہنے سے مجبور ہے یا بیچ میں بیٹھنے والا صدی ہے تو دونوں کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد مظل حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) صورت مسؤلہ میں ایسے شخص کے لئے بہتر یہ ہے کہ صف کے ایک کنارہ پر بیٹھے تاکہ صفوں کے بیچ میں ترتیب کا توازن صحیح رہے؛ اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام، وسدوا الخلل. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف، النسخة الهندية ۱/۹۹، دارالسلام رقم: ۶۸۱)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان. (مسند أحمد بن حنبل ۲/۹۸، رقم: ۵۷۲۴، سنن أبي داود، كتاب الصلاة،

باب تسویۃ الصفوف، النسخة الهندية ۱/۹۷، دارالسلام رقم: ۶۶۶، المعجم الكبير للطبراني ۱۳/۳۱۹، رقم: ۱۴۱۱۳)

توسطوا الإمام وسدوا الخلل . (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة قبيل

مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب، زكريا ۲/۲۱۰، كراچي ۱/۵۶۸)

(۲) ایسے شخص کو خود ہی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ میرے بیچ میں بیٹھنے کی وجہ سے خلل نہ ہو، اگر اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو نہایت نرم انداز اور غایت درجہ کی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو مسئلہ بتا دیا جائے؛ چونکہ صفیں سیدھی کرنے کی ذمہ داری امام پر ہوتی ہے؛ اس لئے اس کو کنارہ بیٹھنے کے لئے کہنے کا حق بھی امام ہی کو ہے۔

عن سَمَّاك بن حربؓ، قال: سمعت النعمان بن بشيرؓ، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأي أي أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام، حتى كاد يكبر، فرأي رجلا بادي صدره من الصف، فقال: عباد الله! لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، النسخة الهندية ۱/۱۸۲، بيت الأفكار رقم: ۴۳۶)

عن أنسؓ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا قام إلى الصلاة أخذ به يمينه ثم التفت فقال اعتدلوا، سووا صفوفكم، ثم أخذ به يساره فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف ۱/۹۸، دارالسلام رقم: ۶۷۰)

وينبغي أن يأمرهم بأن يترأصوا ويسدوا الخلل، ويسووا مناكبهم. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ۲/۳۱۰، كراچي ۱/۵۶۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۵/۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۳۸/۳۵)

معذور شخص کا پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۴۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہے، تو اسے کون سی صف میں بیٹھنا چاہئے کیا معذور کو پہلی صف چھوڑ کر بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، ہلدوانی، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسا معذور شخص جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ کسی بھی صف میں کنارہ پر بیٹھ کر نماز پڑھے، چاہے پہلی صف میں ہو، یا دوسری صف میں ہو یا تیسری صف میں ہو، کسی بھی صف کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور کنارہ پر اس لئے بیٹھنا بہتر ہے کہ درمیان میں بیٹھنے میں بظاہر اہتطاع ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لئے کنارہ پر بیٹھنا بہتر ہے۔

عن ابن عباسؓ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ترک الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا، أضعف اللہ له أجر الصف الأول. (المعجم الأوسط، دارالفکر بیروت ۱/۱۶۵ رقم: ۵۳۷)

إذا قام خلف صف فيه فرجة، فإن ذلك مکروه. (اعلاء السنن، کتاب

الصلاة، باب کراهية التأخر عن الصف المقدم، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/۳۴۰)

الأفضل أن يقف في الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد. (شامی،

کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في کراهية قيام الإمام في غير المحراب کراچی ۱/۵۶۹، زکریا ۲/۳۱۰، فتح القدير، کتاب الصلاة، باب الإمامة کوئٹہ ۱/۳۰۹،

زکریا ۱/۳۶۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۱/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۳۱ھ محرم الحرام

(الف فتویٰ نمبر: ۹۸۴۳۲۳۸)

پہلی صف مکمل ہونے سے قبل دوسری صف بنانا

سوال [۲۳۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جماعت کی پہلی صف میں کئی آدمیوں کی جگہ خالی ہوتے ہوئے بھی لوگ پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پیچھے صف بنانے والوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ صف میں کتنی عمر کے بچے شامل ہو سکتے ہیں؟

المستفتی: انصار احمد، قاضی ٹولہ مسجد رحیم اللہ والی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) صف اول میں جگہ خالی ہونے کے باوجود پیچھے صف بنانے والوں کی نماز تو بہر حال ہو جاتی ہے؛ لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے اجتناب و احتراز لازم ہے، جب تک صف اول میں جگہ خالی ہو، دوسری صف نہ بنائی جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۲۵/۳، فتاویٰ رحیمیہ ۲/۴۱۳)

عن علي بن شيبان و كان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم -إلى- فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: حين انصرف، قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. (سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، النسخة الهندية ۱/۷۰، دارالسلام رقم: ۱۰۰۳، صحيح ابن خزيمة، المكتب الاسلامي ۱/۷۵۴، رقم: ۱۵۶۹، مسند أحمد بن حنبل ۴/۲۳، رقم: ۱۶۴۰۶)

ولو صلى على رفوف المسجد ان وجد في صحنه مكانا كره، كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة. (درمختار على الشامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأول كراچی ۱/۶۴۷، زكريا ۲/۳۱۲، هندیہ، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، جديد زكريا ديوبند

۱۰۶/۱، حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالکتاب دیوبند ۱/۳۶۱

(۲) بچوں کے سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچے اگر ایک سے زائد ہیں تو ان کی باضابطہ مردوں کے پیچھے صف بنا دی جائے اور اگر ایک ہی بچہ ہے اور جماعت شروع ہوتے وقت صف اول میں جگہ خالی ہے، تو اس بچہ کو مرد اپنی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں؛ جبکہ بچہ سمجھ دار ہو، اس سے پیچھے کی صف میں کھڑے لوگوں کی نماز میں کسی قسم کی کراہت نہ ہوگی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۳۱/۳)

ویصف الرجال، ثم الصبیان ظاہرہ تعددہم، فلو واحدا دخل الصف. (درمختار علی الشامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة کراچی ۱/۵۷۱، زکریا ۲/۳۱۴، البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة زکریا ۱/۶۱۸، کوئٹہ ۱/۳۵۳، حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالکتاب دیوبند ۳۰۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۴/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۱۶۲۳۵)

کیا ستون کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟

سوال [۲۴۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، مسجد کے بیچ میں دو ستون ہیں اور وہ دونوں ستون تین صفوں کے پیچھے ہیں، تیسری صف میں ستون سے آگے اگر نمازی کھڑا ہوتا ہے تو رکوع کی حالت میں صف سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو اس سے نماز میں کوئی خرابی ہوگی یا نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس جگہ یعنی ستون کے آگے کی جگہ کو

نہ چھوڑا جائے، اس جگہ آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ کہتا ہے کہ صف کے بیچ کوئی جگہ نہ چھوڑی جائے؛ کیونکہ شیطان گھس جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ستون کے آگے کی جگہ کو چھوڑ دیا جائے؛ کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا واجب ہے، تو ایسی صورت میں آیا جگہ کو چھوڑ کر رکھا جائے یا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد ظہیر الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ستون کے آگے آدمی نہ کھڑا ہو؛ بلکہ ستون کی جگہ چھوڑ دی جائے؛ تا کہ صف ٹیڑھی نہ ہو، اب رہا شیطان کا صف میں گھس جانا تو ستون کی وجہ سے جگہ باقی نہیں رہی؛ لہذا شیطان نہیں گھس سکتا۔

وتخلل الأستوانة بین الصف، كتخلل متاع موضوع أو كفرة جنة بین رجلین، وذلك لا یمنع صحة الإقنداء ولا یوجب الكراهة الخ (مبسوط سرخسی، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/رجب المرجب ۱۴۲۰ھ

۱۷/۷/۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۷۱۳۳)

ایک صف چھوڑ کر دوسری میں نماز پڑھنا

سوال [۲۴۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ لوگ جماعت میں شریک ہوئے؛ لیکن ایک صف چھوڑ کر کھڑے ہوئے، تو کیا اس شکل میں ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد طیب قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بلا ضرورت ایک صف چھوڑ کر صف بندی کرنا،

اگلی صف اور پچھلی صف کے درمیان پوری ایک صف بلا ضرورت چھوڑ دینا مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ پچھلی صف والوں کی نماز ہو جائے گی۔

ولوصلی علی رفوف المسجد إن وجد فی صحنہ مکانا کرہ کقیامہ فی صف خلف صف فیہ فرجۃ. (درمختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فی الکلام علی الصف الأول کراچی ۱/۶۴۷، زکریا ۲/۳۱۲)

ویکرہ القیام خلف صف فیہ فرجۃ للأمر بسد. (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالکتاب دیوبند جدید ۳۶۱)

ویکرہ القیام خلف صف فیہ فرجۃ أي فی ذلک الصف فرجۃ. (مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل فی المکروهات، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۱۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۲۶۹۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۲۳/۱۴۲۵ھ

دائیں بائیں جانب جگہ چھوڑ کر صرف بیچ میں صف بچھانا

سوال [۲۴۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے جس کی توسیع کی گئی ہے، تو کیا اس مسجد کے اندر دائیں بائیں جانب صفوں میں کچھ جگہ چھوڑ دی جائے اور بیچ بیچ میں صفوں کو بچھایا جائے، کیا ایسا کرنے میں کوئی کراہت وغیرہ تو نہیں؟

المستفتی: افتخار، ہری دواری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دائیں بائیں سے حدود مسجد کے اندر صفوں کی جگہ چھوڑ کر کے بیچ و بیچ صفوں کو بچھا دینا اور دائیں بائیں جگہ کو خالی رکھنا مکروہ ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ اگلی صف میں جگہ چھوڑ کر پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نیت باندھنا؛ ہاں البتہ مسجد بہت

بڑی ہے جیسے کہ دلی کی جامع مسجد کا صحن، بھوپال کی تاج المساجد کا صحن، ایسی مسجدوں میں جمعہ کے علاوہ نمازوں میں دائیں بائیں کی صفوں کا پر کرنا بہت مشکل ہے؛ اس لئے ایسی مسجدوں میں اس بات کی گنجائش ہوسکتی ہے کہ بیچ و بیچ صفیں بچھادی جائیں اور نمازیوں کو اس نمازی کے درجے میں قرار دیا جاسکتا ہے، جو نمازی امام کے رکوع کے وقت صفوں میں پہنچ رہا ہے اور اگر وہ صفوں کے دائیں اور بائیں جانب پہنچ کر نیت باندھے گا تو اس کی رکعت چھوٹ جائے گی، تو اس کے لئے پیچھے کی صف میں کھڑے ہو کر نیت باندھنا بلا کراہت جائز ہے۔

نیز اتنی بڑی مسجد کی صفوں کو پانچوں وقت کے لئے بچھانا اور پھر صفوں کو اٹھانا خدام مسجد کے لئے بہت ہی دشوار کن ہے؛ اس لئے بیچ کے حصہ میں مشقت سے بچنے کے لئے گنجائش ہوسکتی ہے۔

عن زید بن وہب، قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود^{رض} من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله وركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين، حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم. (السنن الكبرى ۲/ ۴۱۱، رقم: ۲۶۴۱)

روي عنه عليه السلام أنه قال يكتب للذي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في المحارب الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة. (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإقامة زكريا ۱/ ۶۱۹، كراچی ۱/ ۳۵۴)

لا تذرو فرجات للشيطان من وصل صفا وصله الله. الحديث (ابوداؤد، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، النسخة الهندية ۱/ ۹۷، دار السلام رقم: ۶۶۶، بحر، كتاب الصلاة، باب الإمامة زكريا ۱/ ۶۱۸، كوئٹہ ۱/ ۳۵۳)

وعن جابر بن سمرة^{رض}، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث طويل، فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة - إلى قوله - يتمون

الصفوف الأولى ویتراصون في الصف. (مسلم شریف، کتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، النسخة الهندية ۱/۸۱، بیت الأفكار رقم: ۴۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ رذی الحجہ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۴۰/۱۰۸)

بارش کی بناء پر دو تین صفوں کا خلا کرنا

سوال [۲۴۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: (۱) کہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے نماز عید مدرسہ میں ادا کی گئی ہے، مگر شکل یہ ہوئی کہ امام صاحب اور ان کے پیچھے دو صف متصل تھیں، پھر دو تین صف کا فاصلہ بیچ میں چھوڑ کر پیچھے کی صفیں متصل تھیں، کیا پیچھے والوں کی اقتداء درست ہوگی؛ جبکہ درمیان میں اتنا فاصلہ خالی تھا۔

(۲) ایک دوسرے مدرسہ میں نماز عید ہوئی مگر اس کی شکل یہ تھی کہ امام کے پیچھے کی صفیں تو متصل تھیں، مگر امام کے دائیں طرف اور بائیں طرف چند چند مقتدی تھے، پھر ۲ یا ۳ صف کا فاصلہ چھوڑ کر مقتدی کھڑے تھے، عمارت کی ترتیب ہی کچھ اس طرح تھی اور متصل اس لئے نہ ہو سکے کہ بارش ہو رہی تھی اور وہاں پر صحن کھلا تھا؛ اس لئے بارش کی وجہ سے وہاں نہ کھڑے ہوئے، معلوم یہ کرنا ہے کہ جس طرح امام کے پیچھے کی صفوں کا اتصال ضروری ہے، کیا ایسے ہی امام کے دائیں بائیں جانب بھی اتصال ضروری ہے؟ کیا ان دائیں بائیں جانب کے مقتدیوں کی نماز اور اقتداء درست ہوگی جو درمیان میں دو یا تین صف کا فاصلہ چھوڑ کر کھڑے تھے؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی، سیڈھا بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) حنفیہ کے یہاں نماز باجماعت میں اتصال

صفوف لازم ہے؛ اس لئے جب بلا کسی عذر کے درمیان میں صفیں چھوڑ کر پھر صفیں بنانی جائیں، تو بعد میں جو صفیں بنائی گئی ہیں ان سے اگلی صف والوں کی نماز مکروہ ہوتی ہے؛ لیکن سخت بارش بھی ایک اہم عذر ہے؛ اس لئے اس عذر کی وجہ سے دو تین صف کے بقدر جو جگہ چھوڑ دی گئی ہے، جس میں بارش کی بوندیں پڑ رہی ہوں اس کی وجہ سے اتصال صفوف کی کراہت لازم نہیں آئے گی؛ جبکہ اس سے اگلی صف والوں کے رکوع، سجود سب نظر آرہے ہوں یا مانگ کی آواز پہنچ رہی ہو۔

ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كرهه،
كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة. (الدر المختار مع الشامی، كتاب الصلاة،
باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأول كراچی ۱/۶۴۷، زکریا ۲/۳۱۲)
لايمنع من الإقتداء الفضاء الواسع في المسجد وقيل: يمنع فإنه
وإن أفاد أن المعتمد عدم المنع لكنه محمول على غير المسجد الكبير
جدا كجامع خوارزم والقدس بدليل ما ذكرنا. وفي..... القهستاني: البيت
كالصحراء والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الإقتداء فيه بلا اتصال
الصفوف كما في المنية، وذكر في البحر عن المجتبي أن فناء المسجد له
حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيعونية
بالإمام في المحراب صحيح، وإن لم تتصل الصفوف؛ لأن الصحن فناء
المسجد، وكذا اقتداء من بحلاوي السفلية صحيح؛ لأن أبوابها في فناء
المسجد. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الكافي للحاكم جمع كلام
محمد كراچی ۱/۵۸۵، زکریا ۲/۳۳۲)

والفضاء الواسع في المسجد لايمنع وإن وسع صفوفًا؛ لأن له حكم
بقعة واحدة..... فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب
جاز..... والظاهر أن ذلك لا شتباہ حال الإمام على المأموم لا لا اختلاف

المكان ومصلى العيد كالمسجد. (طحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالكتاب ديوبند جدید ۲۹۳)

والحائل لا يمنع الإقتداء إن لم يشتهه حال إمامه بسماع أو رؤية، ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح ولم يختلف المكان حقيقة كمسجد وبيت في الأصح. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الكافي للحاكم جمع كلام محمد..... كراچی ۵۸۶/۱، زكريا ۲/۳۳۳)

(۲) دوسرے سوال کا جواب بھی پہلے سوال کے جواب میں آچکا ہے کہ بارش کی وجہ سے اتصال صفوف لازم نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹/۰۳/۱۴۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ شوال المکرم ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۲۵۶۲۰)

تین صفوں کے بقدر راستے مانع اتصال ہیں

سوال [۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں نماز جمعہ میں کثیر تعداد کے سبب مسجد پر ہو جاتی ہے؛ اور کافی حضرات شرکت سے رہ جاتے ہیں مسجد سے متصل دوسری کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں نماز ادا کر سکیں، ہاں مسجد کے شمال اور مشرق کی جانب دورا سے ہیں، پھر مکانات ہیں راستوں کے درمیان گندے پانی کی نالی ہے جو صف بچھنے میں مانع ہے ایک جانب مسجد کا دروازہ ہے، ایک جانب دیوار ہے دریافت یہ کرنا ہے کہ مذکورہ راستوں کے فاصلے جو تقریباً تین صف کے ہیں اقتداء درست ہوگی یا نہیں؟ اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟

المستفتی: عتیق الرحمن، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال مذکور میں اگر راستہ کی نالی کے کچھ حصہ کو

درست کر کے راستوں پر بھی صفیں بنالیں، تو ان کے اتصال کی وجہ سے مکانات میں اقتداء کرنے سے اقتداء درست ہو جائے گی؛ البتہ ہر صف میں تین آدمیوں کا ہونا لازم ہے اور اگر راستوں پر صف بندی نہ کی جائے اور پورا راستہ چھوڑ کر کے اقتداء کی جائے تو اقتداء درست نہ ہوگی۔
(مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۳۰۸)

عن مالک عن الشقة عنده، أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون فيها الجمعة، قال وكان المسجد يضيق على أهله، فيتوسعون بها، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد؛ ولكن أبوابها شارة في المسجد. (السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب موقف الإمام والمأموم، دارالفكر جديد ۴/۲۷۸، رقم: ۵۳۵۱، دارالمعرفة بيروت ۳/۱۱۱)

ويجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد، وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام وإن كان طريق عام؛ ولكن سدّته الصفوف جاز الاقتداء لمن في بيته بإمام المسجد كذا في التاتارخانية ناقلا عن الحجة الخ (هندي، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع زكريا ۱/۸۸، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۴۶، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السادس ۲/۲۶۷، رقم: ۲۳۸۷)

وللمثلاثة حكم الصف بالاجماع الخ (هندي، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع، قديم زكريا ۱/۸۷، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۴۶)

لو اقتدى خارج المسجد، بإمام في المسجد إن كانت الصفوف متصلة جاز، وإلا فلا؛ لأن ذلك الموضوع بحكم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب تقدم الإمام على المأموم زكريا

۳۶۲/۱، کراچی ۱/۴۶ (۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵ھ/۷/۲

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۱۰۲/۳۱)

صفوں کے درمیان میں وضو کی نالی کا فاصلہ

سوال [۲۳۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر درمیان میں وضو کی نالی اور نالی کے ساتھ اور بھی ایک دو صفوں کی جگہ خالی ہو اور پھر اس کے پیچھے صفیں بنا کر لوگ نماز پڑھیں تو اتنا گپ درست ہے یا نہیں؟

المسئفتی: شاہد حسین، بیگم پوری، امام مسجد کھجور والی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سلسلہ صفوں کے درمیان وضو کی نالی اور ایک دو صف کی مقدار کا فاصلہ ہو جائے، تو صحت اقتداء کو مانع نہیں ہے، اقتداء درست ہو جاتی ہے۔
وإن كان بين الإمام والمقتدي نهر صغير لا يجزي فيه السفن
والزوارق لا يمنع الاقتداء وهو المختار الخ (تاتارخانیہ، کتاب الصلاة،
الفصل السادس ما يمنع صحة الإقتداء وما لا يمنع زكريا ۲/۲۶۳، رقم: ۲۳۷۵،
کراچی ۱/۶۱۳، عالمگیری، کتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة
الإقتداء وما لا يمنع، قديم زكريا ۱/۸۷، جديد زكريا ديوبند ۱/۴۶)

ولو كان في المسجد الجامع نهر يجزي، إن كان صغيرا لا يمنع.

(الفتاویٰ التاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل السادس ما يمنع صحة الإقتداء وما لا يمنع

زكريا ۲/۲۶۴، رقم: ۲۳۷۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱ھ/۲/۱۹

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ صفر المظفر ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۱۲۴/۲۶)

حرم شریف میں جماعت سے نماز پڑھنے کے متعلق چند سوالات

سوال [۲۵۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) حرم کی میں باب عبدالعزیز کے سامنے مسفلہ کی طرف جوحن ہے، اس کے آخری کنارے پر جو مسجد ابو بکر ہے دوسری منزل پر، کیا اس مسجد میں ایام حج میں باقاعدہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز ہوتی ہے یا حرم شریف کی اذان و اقامت اور جماعت کے ساتھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟

(۲) اگر اس مسجد میں حرم شریف کی جماعت سے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو بعض مرتبہ مجمع کم ہونے کی وجہ سے باہر صحن کی صفیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتیں، کیا ایسی صورت میں اس مسجد میں اقتداء کرنے والوں کی نماز درست ہو جائے گی؟

(۳) باب عبدالعزیز، باب فہد، باب فتح، باب عمرہ، باب صفا کے سامنے جوحن ہے یہ مسجد سے خارج ہے یا داخل ہے، اگر اس صحن میں صفوں کا اتصال نہ پایا گیا درمیان میں کافی فاصلہ کے بعد جس میں دو گاڑیاں بیک وقت گذر سکتی ہیں اتنے فاصلہ کے بعد پیچھے صف بنالیتے ہیں، کیا ان صفوں میں اس طرح اقتداء درست ہو جائے گی؟

المستفتی: اہل ہستی سیڑھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) آپ نے جس مسجد کا سوال میں ذکر فرمایا یہ شریکہ مکہ جو ہیل ٹاؤن سے بھی موسوم ہے، اس کی تیسری یا چوتھی منزل میں یہ مسجد ہے، حج کے موسم میں حرم شریف کی اذان و اقامت کے ساتھ یہاں نماز ہوتی ہے اور مذکورہ عمارت کی دیوار تک اور آگے سڑکوں تک حج کے موسم میں صفیں بن جاتی ہیں اور اتصال صفوں کی بنا پر حرم شریف کے امام کی اقتداء صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔

وإن قام علی الجدار الذی بین دارہ و بین المسجد ولا یشتبہ

حال الإمام صحح الاقتداء، ولو قام علی دکان خارج المسجد متصل بالمسجد يجوز الاقتداء؛ لكن بشرط اتصال الصفوف ويجوز اقتداء جار المسجد، بإمام المسجد وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام، وإن كان طريق عام؛ ولكن سدته الصفوف جاز الاقتداء، لمن في بيته بإمام المسجد. (عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع زكريا ۱/۸۸، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۴۶)

(۲) جب مجمع کم ہو جاتا ہے اور پورا صحن خالی پڑا رہتا ہے، تو اس وقت بھی مسجد میں امام حرم کی اقتداء میں نماز پڑھی جاتی ہے؛ لیکن ایسی صورت میں شریکہ مکہ سے الگ مکان آخر ہونے کی وجہ سے حضرات حنفیہ کے نزدیک صحت اقتداء کے لئے اتصال صفوف لازم ہے اور مجمع کم ہونے کی صورت میں اتصال صفوف نہیں ہوتا؛ اس لئے سامنے کے صحن کے خالی رہنے کی صورت میں حنفیہ کے نزدیک وہاں سے اقتداء درست نہیں؛ لیکن امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک اتصال صفوف لازم نہیں ہے صرف امام و کبیر کی آواز سنائی دینا کافی ہے؛ اس لئے ان کے نزدیک ہر صورت میں اقتداء درست ہے۔

ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف

المكان. (شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة کراچی ۱/۵۸۶، زکریا ۲/۳۳۴)

(۳) وہاں کے اہم لوگوں سے معلوم ہوا کہ صحن مسجد میں سے سفید حصہ مسجد حرام میں داخل ہے، اگر سفید حصہ مسجد حرام میں داخل ہے تو حائضہ اور نفساء کے لئے وہاں سے گزرنا جائز نہیں؛ مگر سفید حصہ میں اتصال صفوف نہ ہونے کی صورت میں اقتداء حنفیہ کے نزدیک کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی اور حنابلہ کے نزدیک بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ نیز کئی معتبر واسطوں سے امام سبیل کی بات موصول ہوئی ہے کہ سفید حصہ تو مسجد میں ہے، مگر صفامروہ کے درمیان مسعی پہلی حالت میں خارج مسجد میں ہی رکھا گیا ہے۔

فقال: وجهاوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لأحل المسجد لحائض، ولا جنب. (ابو داؤد شریف، کتاب الطہارۃ، باب فی الجنب یدخل المسجد،

النسخة الهندية ۳۰/۱، دار السلام رقم: ۲۳۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۶/۲۳ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۴۰/۳۸)

جو پہلے آکر بیٹھ جائے وہی اس جگہ کا حقدار ہے

سوال [۲۴۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ زید ان پڑھ ہے اور ہمیشہ مصلے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اگر کسی طرح بکروہاں آجاتا ہے تو زید ان کے ساتھ دھکا مکا کرتا ہے اور زید خود کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

المسئتی: رستم علی مدرس مدرسہ انصار العلوم، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو بہر صورت امام

کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو دھکا مکا کر کے ہٹانے کا زید کو ہرگز حق حاصل نہیں ہے، جو اس جگہ پہلے آئے گا اسی کا حق ہوگا پس اگر زید پہلے آئے گا تو اس کا حق ہوگا کسی کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے کو کسی جگہ سے ہٹائے۔ نیز مسجد کے اندر دھکا مکا کرنا مسجد کے احترام کے سخت خلاف ہے۔

ویکرہ تخصیص مکان فیہ لصلاتہ، ولا یتعین بالملازمة، فلا یز عج

غیرہ لوسبقہ إلیہ. (الأشباه والنظائر، باب القول فی أحكام المسجد ۱/۳۲۱)

وتخصیص مکان لنفسہ، ولیس لہ إزعاج غیرہ منہ. (شامی، کتاب

الصلاة، مطلب فی الغرس فی المسجد زکریا ۲/۴۳۶، کراچی ۱/۶۶۲)

عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، النسخة الهندية ۱/۱۲۵، دارالسلام رقم: ۸۶۲، سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ماجاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه، النسخة الهندية ۱/۱۰۳، دارالسلام رقم: ۱۴۲۹، مسند دارمي ۲/۸۳۵، رقم: ۱۳۶۲، صحيح ابن خزيمة، ۱/۳۵۴، رقم: ۶۶۲، ۱/۶۴۶، رقم: ۱۳۱۷، صحيح ابن حبان دارالفكر ۳/۲۷۳، رقم: ۲۲۷۶، المستدرک، كتاب الصلاة ۱/۳۴۱، رقم: ۸۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتابہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۶ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۵۹۹۷/۳۴)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۰/۱/۲۵ھ

صف میں رومال رکھ کر وضو کے لئے جانا

سوال ۲۴۹۵: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نماز کا بہت پابند ہے صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ رومال سے صف اول میں جگہ گھیر کر وضو کرنے چلا ادھر جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا دوسرا شخص اس کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالرحیم، ٹاٹہ رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر وہ شخص جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وضو کر کے واپس آجائے تو دوسرا اس کی جگہ کھڑا نہ ہو؛ البتہ اگر جماعت کھڑی ہونے تک واپس نہیں آیا تو اس کی جگہ دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۳۴، فتاویٰ دارالعلوم ۳/۳۳۹)

کمالو قام للوضوء مثلاً ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده .
(شامی، کتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد، کراچی ۲۲۶/۱، شامی زکریا
۴۳۶/۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۶/۳۶) (۱)

ولو فرش له نحو سجادة..... لا يجوز تنحيتها، لأنه ربما يفضي
إلى الخصومة؛ ولأنه سبق إليه بالحجر فصار كحجر الأموات .
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، کتاب الصلاة، باب الجمعة، دارالكتاب ديوبند
جدید ۵۲۳، ۵۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۷۵/۳۵)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۵/۲۱ھ

صف اول میں رومال رکھ کر جگہ گھیرنا

سوال [۲۴۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ کچھ نمازی مسجد میں ایسا کرتے ہیں کہ اگلی یا کسی بھی صف میں جگہ گھیرنے کے
لئے رومال رکھ کر وضو کرنے یا پیشاب کرنے چلے جاتے ہیں، ایسے حضرات کا اس طرح کا
فعل درست ہے کہ نہیں؟

المستفتی: عبدالوہید، مؤذن مسجد بخاران، ساہن پور، بجنور
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو حضرات رومال وغیرہ رکھ کر وضو یا پیشاب
کرنے چلے جاتے ہیں؛ چونکہ ان کا مقصد ضرورت صلاۃ کے لئے جانا ہوتا ہے اور تھوڑی ہی
دیر میں واپس آنا ہوتا ہے؛ لہذا ان کا یہ فعل شرعاً درست ہے۔

وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة، كما لو

قام للوضوء مثلاً، ولاسيما إذا وضع فيه توبه لتحقق سبق يده. (شامي، كتاب الصلوة، مطلب في الفرس في المسجد، كراچي ۱/ ۶۶۲، زكريا ۲/ ۴۳۶، الموسوعة الفقهية، الكويتية ۳۶/ ۱۳۶)

ولو فرش له نحو سجادة..... لا يجوز تنحيتها؛ لأنه ربما يفضي إلى الخصومة؛ ولأنه سبق إليه بالحجر فصار كحجر الأموات. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الجمعة، دارالكتاب ديوبند جديد ۵۲۳-۵۲۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۸/۳۶۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۲۴۰/۳۸)

پہلی صف میں جگہ متعین کرنا

سوال [۲۴۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبد الرحمن بن شبل قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن یوطن الرجل المكان فی المسجد كما یوطن البعیر. (ابوداؤد، مشکوٰۃ ۸۲)

کسی شخص کا مسجد میں پہلی صف میں اپنے لئے کسی جگہ کو نماز کے لئے خاص کر لینا کہ دوسری جگہ نماز ہی نہ پڑھے اور رومال یا مصلے بچھا کر اس کو گھیرے رکھے اور حال یہ ہو کہ عین جماعت کے وقت اس جگہ پر آکر کھڑا ہوتا ہو، شرعاً مذکورہ حدیث شریف کی روشنی میں کیسا ہے؟

المستفتی: محمد عالم عقل احمد، حاجی پورہ، فیروز آباد (پو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد میں پہلے سے آکر صرف اول میں نماز کے لئے

جگہ لے لینا شرعاً مستحب اور مستحسن ہے؛ کیونکہ صف اول میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے؛ لہذا جو بھی صف اول میں پہلے آ کر بیٹھ جائے گا اس جگہ کا وہی آدمی زیادہ حقدار ہوگا؛ لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ صف اول میں کوئی متعین جگہ اپنے لئے خاص کر لے اور اس جگہ پر کسی دوسرے کو بیٹھنے اور نماز پڑھنے نہ دے اور جگہ گھیر کر اپنے کاموں میں لگ جائے اور نماز میں آ کر کے کھڑا ہو جائے، ایسی صورت میں وہ شخص اس حدیث کا مصداق بن جائے گا، جو سوال نامہ میں درج ہے؛ ہاں البتہ اگر صف اول میں پہلے آ کر جگہ گھیر لیا ہے اور مصلے یا کپڑا رکھ کر وضو کرنے کے لئے نکل آیا تو وہ اسی کی جگہ ہے؛ لیکن اپنے کاموں میں لگ جانے کی وجہ سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے۔

و تخصيص مكان لنفسه وليس له ازعاج غيره منه (تحتہ في الشامية) لأنه يخل بالخشوع..... قال في القنية: له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره، قال الأوزاعي له أن يزعه، وليس له ذلك عندنا، أي لأن المسجد ليس ملكاً لأحد بحر عن النهاية: قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة كما لو قام للوضوء مثلاً ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل. (شامي، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد، كراچی ۱/۶۶۲، زكريا ۲/۴۳۶، الموسوعة الفقهية ۳۶/۱۳۶)

وعندي في النهي عن توطين الرجل مكاناً معيناً في المسجد وجه آخر، وهو أنه إذا وطئ المكان المعين في المسجد يلازمه، فإذا سبق إليه غيره يزاحمه ويدفعه عنه وهو لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: لا، مني مناخ من سبق، فكما هو حكم مني، فهو حكم المسجد، فمن سبق إلى موضع منه، فهو أحق به، فعلى هذا لولا أن يقوم خلف الإمام قريباً منه؛ لأجل حصول الفضل، وسبق إليه من القوم أحد، لا يزاحمه ولا يدفعه،

فلا يدخل في هذا النهي . (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، دار البشائر الاسلاميه ۴/ ۱۵۰، تحت رقم الحديث: ۸۶۱، مكتبه ميرتھ قديم ۲/ ۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۱۲/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲/ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۱۱/۲۰)

مصلیٰ کا اپنے لئے جگہ مخصوص کرنا

سوال [۲۴۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چند مسائل میں شرعی رہنمائی درکار ہے، امید ہے کہ مستند رہنمائی فرما کر ممنون فرمائیں گے۔

سوالات سے پہلے بعض واقعات و پس منظر پیش کر دیئے جاتے ہیں؛ تاکہ سوالات کی اہمیت اور بات کی اچھی طرح وضاحت ہو سکے۔

یہاں کی ایک مشہور و معروف علم دین اور دعوت و تبلیغ کے مرکز سے متصل مسجد کے دو نمازیوں میں اس قدر جھگڑا ہوا کہ ایک نے دوسرے کے سر پر رحل سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، یہ سب کچھ مسجد میں اپنی مخصوص جگہ محفوظ کرنے اور دوسرے کو اپنی جگہ برداشت نہ کرنے پر مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہونے کے وقت بھری مسجد میں ہوا۔

سوال: کیا مسجد میں کسی کے لئے اپنی جگہ مخصوص کرنا درست ہے؟ متولیان مسجد، امراء، رہبران قوم، مؤذنین، اونچے درجے کے تجار وغیرہ سب کا حکم یکساں ہے یا ان میں فرق ہے؟ اور فتاویٰ ہندی کی عبارت یکرہ للإنسان أن یخص لنفسه مکانا فی المسجد أن یصلی فیہ. عام ہے یا اس سے کچھ لوگ مستثنیٰ ہیں؟ کراہت تحریمی مراد ہے یا تنزیہی ہے بالخصوص اس جزئیہ سے امام تو مستثنیٰ ہے، کیا مؤذن بھی مستثنیٰ ہے؟ استثناء کی دلیل کیا ہے؟

یہ وضاحت اس لئے مطلوب ہے کہ جب کوئی اپنی جگہ مخصوص نہیں کر سکتا تو مؤذن کے لئے امام کے محاذ اقامت میں اس سے متصل پیچھے ہی مصلیٰ کیوں بچھا کر ان کی جگہ کی تخصیص کی جاتی ہے؟ کیا یہ عمل ثابت و جائز ہے یا بدعت و نادرست ہے؟ اس کی وضاحت اس لئے بھی مطلوب ہے کہ اس پر عمل میں بہت شدت ہے، سخت اہتمام و التزام ہے اور کچھ مساجد میں باعث نزاع و خلفشار بنا دیا جاتا ہے، فقہاء کی تصریحات اس سلسلے میں ہمارے سامنے حسب ذیل ہیں:

فتاویٰ محمودیہ میں سوال ۲۲۶۵/۱ اقامت کہنے والا دوسری یا تیسری صف میں ہو تو کیا حکم ہے؟ تب بھی درست ہے، احسن الفتاویٰ میں ہے، اقامت کے لئے صف اول یا امام سے قریب ہونے کی کوئی قید نہیں (۱۹۵۱) خیر الفتاویٰ میں ہے، امام سے پیچھے کھڑے ہونا ضروری نہیں جہاں جگہ ہو کھڑے ہو سکتے ہیں، ایسے ہی پہلی صف میں ہونا بھی ضروری نہیں (۲۱۴۱) حسب ضرورت اور حسب موقعہ جس طرح اور جس موقعہ پر کبتر کھڑے ہو کر تکبیر کہے درست ہے، کسی جانب کی تخصیص نہیں ہے جس طرح بھی کھڑا ہو شرعاً یکساں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۲۱۹/۲)

مختصر اپنا نچ کتابوں کے حوالے آپ حضرات کی سہولت کے لئے پیش کر دیئے گئے ہیں، بڑے شہروں کی مساجد میں خصوصاً ممبئی میں یہ عمل ایسا بن گیا ہے کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مؤذن کا حق اور جائز سمجھ کر ان کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا بچھے ہوئے مصلے کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس جگہ بیٹھ سکیں، کیا مؤذن صاحب اگر اپنی جگہ موجود نہ ہوں تو کوئی اور ان کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر انہوں نے امام کی طرح مستقل مصلے بچھا رکھا ہے، تو اس پر کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے؟ مسجد میں وقف جانمازوں کو مؤذن کے لئے بھی بچھانے کی شرعاً اجازت ہے؟ برائے کرم مدلل و مفصل جوابات سے مستفید فرمائیں تاکہ معروف و منکر کا امتیاز ہو سکے؟ و جزاکم اللہ.

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے اندر کسی جگہ کو اپنے لئے مخصوص کر لینا اور اس جگہ پر کسی کو بیٹھنے نہ دینا مکروہ تحریمی ہے اور یہ حکم تمام لوگوں کے لئے یکساں ہے، خواہ وہ امراء اور رہبران قوم ہوں یا تاجر حضرات اور مؤذن صاحبان ہوں، کسی کو بھی مسجد میں اپنے لئے کوئی جگہ مخصوص کرنے کا حق نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی شخص تکبیر شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، پھر مسجد سے باہر تھوکنے کے لئے یا حدت لاحق ہونے کی وجہ سے وضو کرنے کیلئے اپنی جگہ کپڑا وغیرہ رکھ کر چلا جاتا ہے اور تکبیر شروع ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاتا ہے، تو اس جگہ پر اس کو حق تقدم حاصل ہے، اس کا کپڑا ہٹا کر دوسرے کو بیٹھنے کا حق نہیں، اسی طرح اگر مؤذن صاحب نماز سے پہلے امام کے پیچھے مصلے یا کپڑا رکھ کر مسجد کے کسی کام میں مشغول ہو جائیں، تو اس جگہ کسی شخص کے لئے کپڑا یا مصلے ہٹا کر بیٹھنے کا حق نہیں ہے؛ ہاں البتہ مؤذن صاحب کا ہر وقت مصلے بچھا رہنے دینا اسی طرح کراہت کے دائرہ میں داخل ہے جس کا بیان اوپر ہوا؛ لہذا مؤذن صاحب جس جگہ مصلے بچھاتے ہیں وہاں کوئی شخص بیٹھ جائے تو مؤذن صاحب کے لئے اس شخص کو وہاں سے ہٹانا مکروہ تحریمی ہوگا۔

عن عبد الرحمن بن شبلي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد
كما يوطن البعير. (ابوداؤد شريف، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه
في الركوع، والسجود، النسخة الهندية ۱/۲۵، دار السلام رقم: ۸۶۲، مسند الدارمي
۲/۸۳۵، رقم: ۱۳۶۲، صحيح ابن خزيمة ۱/۳۵۴، رقم: ۶۶۶، ۱/۶۶۶، رقم: ۱۳۱۷)
وكره تخصيص مكان لنفسه وليس له إزعاج غيره، ولو مدرسا. وفي الشامي:
قال في القنيتة: له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره.
قال الأوزاعي: له أن يزعجه، وليس له ذلك عندنا، أي لأن المسجد ليس
ملكاً لأحد قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه علي نية العود بلامهلة

کما لو قام للوضوء مثلاً ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده. (شامي،

كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد، كراچی ۱/۲۶۲، زكريا ۲/۴۳۶)

ويكره أشد كراهة أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في موضعه في الجمعة وغيرها، قال الكرمانى وظاهر النهى الوارد فيه التحريم، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به..... ولو فرش له نحو سجادة ففيه وجهان فقيل يجوز لغيره تنحيتها والجلوس في موضعها، لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش ولا يجوز الجلوس عليها بغير رضاه الخ (طحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، دارالكتاب ديوبند جديد ۵۲۳)

وعندي في النهى عن توطين الرجل مكانا معيناً في المسجد وجه آخر، وهو أنه إذا وطئ المكان المعين في المسجد يلازمه، فإذا سبق إليه غيره، يزاحمه، ويدافعه عنه، وهو لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: لا، منى مناخ من سبق، فكما هو حكم منى، فهو حكم المسجد، فمن سبق إلى موضع منه، فهو أحق به، فعلى هذا لولا أن يقوم خلف الإمام قريباً منه؛ لأجل حصول الفضل، وسبق إليه من القوم أحد لا يزاحمه ولا يدافعه، فلا يدخل في هذا النهى. (بذل المجهود، الصلاة، باب صلاة من

لا يقيم في الركوع والسجود، دار البشائر الاسلاميه ۴/۱۵۰، رقم: ۸۶۱، ميرتهه قديم

۷۶/۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۶/۱۳۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۳۸/۹۶۲۸)

امام کے دونوں جانب قرآن سیکھنے والے طلبہ کا کھڑا ہونا

سوال [۲۳۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں صرف تین صف کی جگہ ہے، اگر امام صاحب والی صف کو چھوڑ دیا جائے، تو صرف دو صف کی جگہ ہے، اور اس صورت میں امام صاحب کے پیچھے والی صف اول کہلائے گی اور اس مسجد میں گاؤں کے بچے بچیوں کی تعلیم و تربیت یعنی درس قرآن بھی ہوتا ہے، تو مسئلہ زیر طلب یہ ہے کہ جس صف میں امام صاحب ٹھہرتے ہیں، امام صاحب کے دونوں بازو (دونوں جانب) میں قرآن سیکھنے والے طلباء ٹھہرتے ہیں اور صف اول یعنی امام سے الگ پیچھے صف میں بڑے لوگ ٹھہرتے ہیں اور پھر آخری صف میں بچے، بچیاں ٹھہرتی ہیں؛ کیونکہ نمازی کی تعداد بہت ہی کم رہتی ہے، چند ہی آیا کرتے ہیں، تو اس صورت میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور کیا ایسا ٹھہرانا مکروہ ہے؟ اگر مکروہ ہے، تو کیا تحریمی ہے یا تنزیہی؟ جبکہ تربیت کا معاملہ بھی ہے، اور جگہ کی تنگی کا سوال بھی ہے اور پھر بڑوں کی صف کے اندر کوئی بچہ بھی نہیں ٹھہرتا اور یہ صرف ایک ہی وقت مغرب کی بات ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شریعت میں دو حکم الگ الگ ہوتے ہیں:

(۱) وہ حکم جو باب احکام سے متعلق ہوتا ہے، اس کے اندر احکام شرعیہ کا پورا پورا لحاظ

رکھنا ہوتا ہے۔

(۲) وہ حکم جو بات تربیت سے متعلق ہوتا ہے، اس میں احکام شرعیہ کے ہر گوشہ کا من

وعن لحاظ رکھنا لازم نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ باب تربیت میں بہت سی ایسی چیزیں جائز ہوتی ہیں،

جو باب احکام میں جائز نہیں ہوتیں اور بعض دفعہ بہت سی ایسی چیزیں جو باب احکام میں جائز

اور مشروع ہیں؛ لیکن باب تربیت میں ان کی اجازت نہیں ہوتی مثلاً بخاری شریف کا سبق سننا

اور بخاری شریف کی حدیث پڑھنا باب احکام کے لحاظ سے جائز اور کار ثواب ہے؛ لیکن باب

تربیت میں درجہ فارسی کے طالب علم کے لئے فارسی کا سبق چھوڑ کر بخاری شریف کے سبق میں

شرکت کرنا اور اس کی حدیثیں سننا جائز نہیں، تو زیر بحث مسئلہ بھی باب تربیت سے متعلق ہے؛

اس لئے سوال نامہ میں بچوں کی تربیت اور نماز کا عادی بنانے کے لئے مذکورہ شکل کو اگر بہتر اور مفید سمجھا گیا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ / محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۳۴ / ۶۴۷)

۱۴/۱۳ رسالہ لڑکے کا صف اول میں کھڑا ہونا

سوال [۲۵۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً ۱۴ رسال ہے اور وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے؛ جبکہ بظاہر بلوغ کے کوئی آثار نہیں ہیں اور کچھ لوگ اس کو نابالغ سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں؛ جبکہ عمر دراز لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ جس سے پہلی صف پوری ہو جاتی ہے، کیا ایسی صورت میں اس لڑکے کے پہلی صف میں کھڑے ہونے پر کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

دوسرا لڑکا جس کی عمر تقریباً ۱۳ رسال ہے، مگر دیکھنے میں ۱۵ رسال سے زائد لگتا ہے، کیا یہ لڑکا پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد صلاح الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ۱۴ رسال کے بچے کے لئے پہلی صف میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، اس کی وجہ سے پیچھے کے بالغین کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

ویصف الرجال، ثم الصبيان ظاہرہ تعددہم، فلو واحدا دخل الصف. (درمختار علی الشامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة کراچی ۱/ ۵۷۱، زکریا ۲/ ۳۱۴، البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة زکریا ۱/ ۶۱۸، کوئٹہ ۱/ ۳۵۳، حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالکتاب دیوبند ۳۰۸)

ہاں البتہ اگر نابالغوں کی تعداد زیادہ ہے اور جماعت کھڑی ہوتے وقت نابالغ بچے زیادہ تعداد میں موجود ہوں تو ان کا پیچھے کھڑے ہونا بہتر ہے ورنہ اگر ایک نابالغ بچہ ہو اور نماز کو پہچانتا ہو، تو اس کے پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

قال أبو مالک الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم. الحديث (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب مقام الصبيان من الصف، النسخة الهندية ۱/۹۸، دار السلام رقم: ۶۷۷، مسند أحمد بن حنبل ۵/۳۴۳، رقم: ۲۳۳۹۴، المعجم الكبير للطبراني ۳/۲۸۱، رقم: ۳۴۱۶)

ويقتضي أيضا أن الصبي الواحد لا يكون منفردا عن صف الرجال؛ بل يدخل في صفهم، وأن محل هذا الترتيب إنما هو عند حضور جمع من الرجال وجمع من الصبيان فحينئذ تؤخر الصبيان الخ. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ۱/۶۱۸، كوئٹہ ۱/۳۵۳)

ثم يصف الصبيان؛ لقول أبي مالک الأشعري: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وأقام الرجال يلونه، وأقام الصبيان خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك، وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال. (حاشية الطحطاوي على مراقبي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، دار الكتاب ديوبند ۳۰۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۳/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/ربیع الاول ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۲۳۲)

بڑوں کی صف میں بچہ کا کھڑا ہونا

سوال [۲۵۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر بڑوں کی صف میں نابالغ بچہ کھڑا ہو جائے تو بے ترتیبی تو ہو ہی جائے گی؛ لیکن دریافت طلب بات یہ ہے کہ بڑوں کی جماعت اور نماز میں کچھ فرق پڑے گا یا نہیں؟ اور کیا شرعاً بڑوں کی نماز ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد ایوب افضل گڈھ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بڑوں کی صف میں اگر کوئی نابالغ بچہ کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑوں کی نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، نماز اور جماعت دونوں بلا کراہت درست ہو جائیں گی۔

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس بن مالك..... فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، النسخة الهندية ۱/۲۳۴، بيت الأفكار رقم: ۶۵۸، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصى ۱/۵۵، رقم: ۳۷۸، ف: ۳۸۰)

وظاهر حديث أنس أنه يسوي بين الرجل، والصبي ويكونان خلفه فإنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه الخ. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ۱/۶۱۸، كوثنه، ۱/۳۵۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵ھ/۵/۲۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۴۰۳۱)

۹/۸ رسالہ بچہ کا مردوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہونا

سوال [۲۵۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جماعت کی نماز میں صف اول میں یا صف ثانی میں مردوں کے ساتھ نابالغ ۹/۸ رسالہ کے لڑکے کا کھڑا ہونا کیسا ہے کیا دیگر لوگوں کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: نواب اختر، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ۹/۸ رسالہ کا بچہ اگر نماز کو پہچانتا ہے اور تنہا ہے تو بالغوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، دوسرے مردوں کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور اگر ایک سے زائد بچے ہوں تو ان کی مردوں سے علیحدہ صف بنائی جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۹۰۱ء، جدید زکریا ۱۹/۵)

عن أنس رضي الله عنه، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقامت ويقيم خلفه، وأم سليم خلفنا. (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب صلاة النساء خلف الرجال ۱/ ۱۲۰، رقم: ۸۶۳، ف: ۸۷۱)

قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب مقام الصبيان من الصف، النسخة الهندية ۱/ ۹۸، دار السلام رقم: ۶۷۷، مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۳۴۳، رقم: ۲۳۲۹۴، المعجم الكبير للطبراني ۳/ ۲۸۱، رقم: ۳۴۱۶)

إن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال. (حاشية

الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالكتاب ديوبند ۸۰/ ۳۰)

إن الصبي الواحد لا يقوم منفردا عن صف الرجال؛ بل يدخل في صفهم الخ.

(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زکریا ۱/ ۶۱۸، کوئٹہ ۱/ ۳۵۳)

فلو واحداً دخل في الصف الخ. (شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة
زکریا ۲/۳۱۳، کراچی ۱/۵۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

۲۰/۴/۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۸۶۷۷۷)

کتنی عمر کا بچہ صف اول میں کھڑا ہو سکتا ہے؟

سوال [۲۵۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کتنی عمر کا بچہ نماز کے اندر اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے اور کس طرف کھڑا ہو سکتا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب اور کتنی عمر کا بچہ صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا جواب سے نوازیں؟
المستفتی: نسیم اختر جامع مسجد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اتنا بڑا نابالغ لڑکا ہو جو نماز کے ارکان اور وضو سے واقف ہو اور تہا ہو، تو اس کا صف اول میں کھڑا ہونا جائز اور درست ہے؛ لیکن مستحب یہ ہے کہ بڑوں کی آخری صف میں کھڑا کر دیا جائے اور اگر لڑکے زیادہ ہیں تو ان کو پیچھے کی صف میں کھڑا کرنا مستحب ہے اور صف میں کھڑے ہونے کے لئے عمر کی قید نہیں ہے؛ بلکہ تمیز کی قید ہے اور جو بچہ ارکان صلوٰۃ اور وضو اور احترام صلوٰۃ سے واقف نہیں ہے، اس کو مسجد میں لانا اور صف میں کھڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۲۸۰)

عن واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم. الحديث (سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، أبواب المساجد، باب ما يكره في المساجد، النسخة الهندية ۱/۴۶، دار السلام رقم: ۷۵۰، المعجم الكبير

للطبراني ۱۳۲/۸، رقم: ۷۶۰۱، ۱۷۳/۲۰، رقم: ۳۶۹، ۵۷/۲۲، رقم: ۱۳۶)

عن أنس بن مالك، قال: صليت أنا وبيتي في بيتنا، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب المرأة وحدها تكون صفا ۱/۱۰۱، رقم: ۷۱۸، ف: ۷۲۷)

قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان. الحديث (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب مقام الصبيان من الصف، النسخة الهندية دار السلام رقم: ۶۷۷، مسند أحد بن حنبل ۵/۳۴۳، رقم: ۲۳۲۹۴، المعجم الكبير للطبراني ۳/۲۸۱، رقم: ۳۴۱۶)

ويصف: أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك..... الرجال ثم الصبيان، ظاهره، تعددهم فلو واحدًا دخل الصف. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، كراچی ۱/۶۸-۵۷۱، زكريا ۲/۴۰۹-۳۱۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ ذی قعدہ ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۷۲۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۲/۱۱/۱۴ھ

مسجد سے متصل گھر میں عورت امام کی اقتداء کر سکتی ہے؟

سوال [۲۵۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے پاس کوئی گھر ہو اور معمولی سافل ہو، تو کیا عورت امام کی اطلاع کے بغیر اقتداء کر سکتی ہے؟

المستفتی: محمد حبیب، سمدھن فرخ آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو معمولی سافل ہے وہ اگر اتصال صفوف کو مانع ہو تو اقتداء صحیح نہیں اور اگر مانع نہیں تو صحیح ہے۔

لو اقتدی خارج المسجد بإمام في المسجد، إن كانت الصفوف متصلة جاز، وإلا فلا. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب تقدم الإمام على المأموم زكريا ۱/۳۶۲، کراچی ۱/۱۴۶)

ويجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الإقتداء وما لا يمنع قدم زكريا ۱/۸۸، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۴۶)

عن مالك عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون فيها الجمعة. (السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر جديد ۴/۲۷۸، رقم: ۵۳۵۱) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ رشوال المکرم ۱۳۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳/۴۲۸۵)

عورت کا شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا

سوال [۲۵۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد فرحان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: برابر میں کھڑی ہو کر نماز جائز نہیں ہے؛ جبکہ جماعت کی جارہی ہو، اور اگر بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے تو دونوں کی جماعت جائز ہے۔

قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. (سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الإمامة الجماعة إذا كانوا ثلاثة، رجل وصبي وإمرأة،

النسخة الهندية ۹/۱، ۶/۱، دار السلام ۸۴۲، صحيح ابن حبان دارالفکر ۳/۴۵۰، رقم: ۲۲۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۹۰۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۳/۱۴۱۵ھ

ایک مرد و عورت جماعت کریں تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی؟

سوال [۲۵۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تہجد یا کسی بھی نفل و فرض میں اگر بیوی یا ماں یا بہن کے ساتھ جماعت کرنی ہو تو عورت کو مرد کی طرح امام کی دائیں جانب ایک بالشت پیچھے کھڑی ہونا چاہئے یا کہ ایک صف کی مقدار پیچھے کھڑی ہو۔ نیز اگر بیوی تہجد میں نہیں اٹھتی ہے تو اس کو پانی کی چھینٹ مار کر جگانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: مسرور احمد ریاض، سعودیہ عربیہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک صف کی مقدار پیچھے کھڑی ہوا کرے گی۔

قال ابن عباسؓ: صلیت إلی جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و عائشة

خلفنا تصلي معناه، وأنا إلی جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم أصلي معه.

(صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ۱/۷۴۳، رقم: ۱۵۳۷، مسند أحمد بن حنبل

۱/۳۰۲، رقم: ۲۷۵۱، مصنف عبد الرزاق المجلس العلمي ۲/۴۰۷، رقم: ۳۸۷۵)

أما الواحدة فتأخر (وفي الشامية) وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت

برجل لا بامرأة مثلها الخ (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة زكريا

۲/۳۰۷، كراچی ۱/۵۶۶، كوئٹہ ۱/۴۱۹، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب

الصلاة، باب الإمامة، دارالكتاب ديوبند جديد ۲۰۰۵)

نیز تہجد کے لئے شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو جگانے کے لئے پانی کی چھینٹ مارنا حدیث سے ثابت ہے۔

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل، فصلي وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبي نضحت في وجهه الماء. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة باب الحث على قيام الليل، النسخة الهندية ۲۰۵/۱، دارالسلام رقم: ۱۴۵۰، سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة ماجاء في قيام شهر رمضان، باب ماجاء فيمن أيقظ أهله من الليل، النسخة الهندية ۱/۹۴، مسند أحمد بن حنبل ۲/۲۵۰، رقم: ۷۴۰۴، ۲/۴۳۶، رقم: ۹۶۲۵، مسند البزار ۱۵/۳۵۵، رقم: ۸۹۲۸، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ۱/۶۸، رقم: ۱۱۴۶، مشكوة شريف ۱۰۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۳/۹۴۳)

امام کا محراب سے باہر کھڑا ہونا

سوال [۲۵۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اصل محراب کو چھوڑ کر جو کہ مسجد کے اندر ہی ہے باہر نماز پڑھنا کیسا ہے، یعنی کہ محراب کے بعد امام اور اس کے بعد مقتدی حضرات پہلی صف پر امام صاحب پیچھے والی صف پر مقتدی یہ کیسا ہے؟

المسفتی: محمد بدرالدین، میدان والی مسجد، رفعت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر محراب کے برابر وسط صف میں کھڑا ہوتا ہے تو جائز ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وسطوا الإمام، وسدوا الخلل. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف، النسخة الهندية ۱/۹۹، دارالسلام رقم: ۶۸۱)

السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب، كوئثه ۱/۴۲۰، كراچی ۱/۵۶۸، زكريا ۲/۳۱۰، امداد المفتين ۱/۱۶۳، فتاویٰ دارالعلوم زكريا ۳/۳۶۱، امداد الفتاویٰ مطبوعة تالیفات اولیاء ۱/۴۱۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۶/۱۹۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ رجب الثانی ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۵/۲۳)

امام کا مقتدیوں کی صف سے کچھ آگے کھڑا ہونا

سوال [۲۵۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر مسجد میں محراب کی جگہ بہت کم ہے اتنی کم ہے کہ امام رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا تو امام اگر صف اول میں مقتدیوں سے کچھ آگے ہو کر کھڑا ہو جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو بالتفصیل تحریر فرمائیے۔

المستفتی: خاکسار محمد اختر امام مسجد نور پور پیر غیب مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں محراب کی سیدھ میں صف

اول میں امام کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی امام کے پیچھے، دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو بلا کراہت نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ امدادیہ (غیر مبوب قدیم) ۱/۳۵۸،

امداد الفتاویٰ کراچی ۲۸۳/۱، زکریا ۳۳۰/۱، فتاویٰ دارالعلوم زکریا ۳۶۰/۳)

عن أنس رضي الله عنه قال: صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقامت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا. (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب صلوة النساء خلف الرجال ۱/۱۲۰، رقم: ۸۶۳، ف: ۸۷۱)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف، النسخة الهندية ۱/۹۹، دارالسلام رقم: ۶۸۱)

السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحارِب ما نصبت إلا وسط المساجد، وهي قد عينت لمقام الإمام الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في كراهية قيام الإمام في غير المحراب، زكريا ۲/۲۱۰، كراچی ۱/۵۶۸) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ جمادی الثانی ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۵۱/۲۴)

امام کا مقتدیوں کی صف میں کچھ آگے کھڑا ہونا

سوال [۲۵۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد صف دو صف کی ہے اور اس کے بعد ایک صف کا صحن ہے، سردی کی وجہ سے سب لوگ اندرونی حصہ میں نماز پڑھتے ہیں، اس طریقہ سے کہ امام صاحب محراب سے نیچے صف اول میں مقتدیوں کے ساتھ مل کر مقتدیوں سے کچھ ہی آگے ہو کر نماز پڑھتے ہیں؛ چونکہ محراب بہت ہی چھوٹی ہے کہ رکوع وسجدہ اس میں نہیں کر سکتے؛ لہذا اس طریقہ سے نماز پڑھانا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: خاکسار محمد اختر امام مسجد نور پیر غیب مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مقتدیوں کی تعداد دو سے زائد ہو تو امام کا ایک صف کی بقدر مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا واجب ہے، مقتدیوں کی صف میں کچھ آگے ہو کر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی اور سردی و گرمی مقتدیوں کی صف میں قیام کے جواز کی علت نہیں بن سکتی۔

عن أنسؓ، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقامت ويقيم خلفه، وأم سليم خلفنا. (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب صلاة النساء خلف الرجال ۱/ ۱۲۰، رقم: ۸۶۳، ف: ۸۷۱)

فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر. وفي الشامية: أفاد أن تقدم الإمام أمام الصف واجب الخ (الدر المختار مع الشامی، كتاب الصلاة، باب الإمامة قبيل مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش، زكريا ۲/ ۳۰۹، كراچی ۱/ ۵۶۷)

ولو كانوا جماعة فينبغي للإمام أن يتقدم، ولو لم يتقدم إلا أنه قام على يمينه الصف أو على يسرته أو قام في وسط الصف، فإنه يجوز ويكره الخ (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة زكريا ۱/ ۶۱۷، كوئٹہ ۱/ ۳۵۲، منحة الخالق ۱/ ۲۵۲)

وأما بيان مقام الإمام والمأموم فنقول إذا كان سوى الإمام ثلاثة يتقدمهم الإمام لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الأمة بذلك وروي عن أنس بن مالكؓ، أنه قال: إن جدتي مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا لأصلي بكم فأقمني واليتيم من ورائه وأمي أم سليم من ورائنا؛ ولأن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها عن غيره ولا يشتهه على الداخل؛ ليتمكنه الاقتداء به ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم. (بدائع الصنائع،

کتاب الصلاة، فصل في بيان مقام الإمام والمأموم زكريا قديم ۱/۵۸، زكريا جديد
ديوبند ۱/۳۹۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۱۲۵۳)

امام کا ایک بالشت اونچائی پر کھڑے ہونے کا حکم

سوال [۲۵۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام مقتدیوں سے ایک بالشت اونچائی پر کھڑا ہوتا ہے، تو کیا اس حالت میں امام مقتدی سے الگ ہو جائے گا، نماز ہوگی یا نہیں؟ لشفی بخش جواب عنایت کریں۔

المستفتی: حسیب الرحمن امام مسجد بخاروں والی گلی، نئی بہتی مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام اگر ایک بالشت اونچائی پر کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم زکریا ۳۳۳/۳)

وانفراد الإمام علی الدکان للنهی وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس
بمادونه الخ (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما لا یفسد مطلب إذا
تردد الحکم بین سنة وبدعة زکریا ۲/۴۱۵ کراچی ۱/۶۴۶، مصری ۱/۶۰۴)

ویکره قیام الإمام فی المحراب أو علی مکان بقدر ذراع علی
المعتمد وتحتہ بقدر ذراع اعتبارا بالسنة، وقیل: ما یقع به الإمتیاز. (حاشیہ
الطحطاوی علی المراقی، کتاب الصلاة، فصل فی المکروہات قديم ۱۹۸، جدید دار
الکتاب دیوبند ۱/۳۶۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ شوال المکرم ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۲۴۲۲)

مقتدی امام کے مقابلے ایک بالشت اوپر کھڑے ہوں تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۵۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام مقتدیوں کے مقابلے میں تھوڑا نیچے کھڑا ہوا ہے، جس کی مقدار ایک بالشت سے کم ہے اور مقتدی حضرات اتنے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس امام کی اقتدا کرنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد وسیم، رام پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تنہا امام کا ایک ذراع اونچائی پر کھڑے ہونے کی ممانعت میں حدیث وارد ہوئی ہے، اسی سے حضرات فقہاء نے تنہا امام کا ایک ذراع اونچائی پر کھڑے ہونے کو مکروہ لکھا ہے، اسی طرح حضرات فقہاء نے تنہا امام کے نیچے کھڑے ہونے کو بھی مکروہ لکھا ہے اور یہ حکم بھی اسی حدیث شریف سے مستنبط ہے اور ایک ذراع سے کم اونچائی پر مکروہ نہیں ہے، تو ایک ذراع نیچائی پر کھڑا ہونا بھی مکروہ نہیں ہوگا اور مسئلہ صورت میں صرف ایک بالشت نیچائی پر کھڑے ہونے کا ذکر ہے؛ لہذا جس طرح ایک بالشت اونچائی پر کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے، اسی طرح ایک ایک بالشت نیچائی پر کھڑا ہونا بھی مکروہ نہ ہوگا اور یہ مسئلہ ذیل کے جزئیات سے مستفاد ہوتا ہے۔

وانفراد الإمام علی الدکان للنہی، وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونہ..... وکرہ عکسہ فی الأصح. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، زکریا ۲/۴۱۵، کراچی ۱/۶۴۶)

فإن انفرد الإمام عن القوم بالمكان الأسفل اختلف المشائخ فيه أي في كراهة انفرد به، قال الطحاوي: لا يكره لعدم التشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم لا يفعلونه وظاهر الرواية الكراهة؛ لأن فيه ازدراء

بالإمام حيث ارتفع كل الجماعة فوفية. (كبيرى شرح غنية المستمل، سهيل اكيڈمي ۳۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶ھ/۷/۱

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
کیم رجب المرجب ۱۴۳۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۱/۲۱ ۱۳۰)

امام صاحب کا مصلے دوانچ او نچا بنانا

سوال [۲۵۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام کا مصلے دوانچ او نچا ہو، مقتدی حضرات دوانچ نیچے نماز پڑھ رہے ہوں امام کے ساتھ، اور وہ جگہ برآمدے کی ہو کبھی کبھی نماز وہاں بھی ہو جاتی ہو تو کوئی حرج تو نہیں؟
المستفتی: مصلیان مسجد حزرہ لاجپت نگر مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں نماز بلا کراہت صحیح ہو جائے گی ایک زراع یا اس سے زیادہ او نچا ہونے کی صورت میں کراہت آتی ہے، دو تین اونچ او نچا ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

عن عدي بن ثابت الانصاري: حدثني رجل، أنه كان مع عمار بن ياسرؓ بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا أم الرجل القوم، فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.

(سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، النسخته الهندية

وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه الخ (در مختار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما لا یفسد مطلب إذا تردد بالحکم بین سنة وبدعة زکریا ۵/۲، ۴۱، کراچی ۶۴۶/۱، طحطاوی علی المراقی، کتاب الصلاة، فصل فی المکروهات قدیم ۱۹۸، جدید دار لکتاب دیوبند ۳۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۶ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۸۲۳/۳۱)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۱۵/۱/۱۶ھ

امام کتنی اونچائی پر کھڑا ہو سکتا ہے؟

سوال [۲۵۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام اونچائی پر کھڑا ہے، تو کتنی اونچائی درست ہے، مع حوالہ تحریر فرمائیں؟
 المستفتی: محمد اختر امام مسجد نور، بیرٹنوب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک ہاتھ سے کم اونچائی پر کھڑا ہونا امام کے لئے بلا کراہت درست ہے، اس سے زیادہ کمروہ ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳/۳۳۳)

عن عدي بن ثابت الانصاري: حدثني رجل، أنه كان مع عمار بن ياسر^{رض} بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا أم الرجل القوم، فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.

(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، النسخة الهندية ۸۸/۱، بيت الأفكار رقم: ۵۹۶)

وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه، وقيل ما يقع به الإمتياز وهو الأوجه. (درمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يفسد الصلاة زكريا ٤١٥/٢، كراچي ١/٦٤٦)

وقيل بمقدار الذراع اعتبارا بالستره وعليه الاعتماد. (عالمگیری، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، قديم زكريا ١/١٠٨، جديد زكريا ديوبند ١/١٦٧) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ٣/ جمادی الثانیہ ١٤٠٩ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ١٢٥١/٢٣)

دوانچ اونچے فرش پر امام کے کھڑے ہونے کا جواز

سوال [٢٥١٣]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محلہ قانون گویان مراد آباد مسجد کھلوان والی کے اندر کی جگہ کا فرش برآمدہ اور صحن کے فرش سے دوانچ اونچا ہے، اندر کی جگہ میں تین دروازے ہیں، بیچ کے دروازہ میں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ تھوڑا باہر نکال دی گئی ہے، جس کی وجہ سے امام صاحب کی ایڑیاں محراب کے باہر رہتی ہیں، اس طریقہ کار سے یعنی دوانچ اونچے فرش پر نماز پڑھانا جائز اور درست ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی از روئے شرع بحوالہ احادیث مدلل جواب سے مستفیض فرمائیں؟

المستفتی: عزیز الرحمن خاں، محلہ قانون گویاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دوانچ اونچے فرش پر امام کا تنہا کھڑا ہونا بلاکراہت جائز ہے، اس سے امام اور مقتدی میں سے کسی کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، زکریا ١٢٢/١٢٣)

وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بمادونه، وقيل مايقع به الإمتياز وهو الأوجه الخ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومالايفسد مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، زكريا ۲/ ۴۱۵ كراچي ۱/ ۶۴۶، مصري ۱/ ۶۰۵، شرح النقاہ، كتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة ومالايفسد اعزازه ديوبند ۱/ ۹۴)

فقيل: قدر ارتفاع قامة الرجل الذي هو متوسط القامة، فلا بأس بمادونها، ذكره في المحيط، وكذا ذكره الطحاوي، وهكذا روي عن أبي يوسف وقيل: إنه مقدر بقدر مايقع الإمتياز، وقيل مقدر بذراع اعتبارا بالستر، قال: قاضي خان وعليه الاعتماد. (البنای، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها فصل في العوارض اشرفيه ۲/ ۴۵۲، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب مايفسد الصلاة، فصل في المكروهات، دارالكتاب ديوبند ۱/ ۳۶۱)

وقيل بمقدار الذراع اعتبارا بالستر وعليه الاعتماد. كذا في البتين وفي غاية البيان هو الصحيح كذا في البحر الرائق (هندية، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، قديم زكريا ۱/ ۱۰۸، جديد زكريا ديوبند ۱/ ۱۶۷) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ شوال المکرم ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۶۰/۲۵)

دریا محراب میں امام کا قدم باہر ہونا

سوال [۲۵۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے یہاں زید امام صاحب مسجد میں فرض نماز جس در میں چاہتے ہیں یعنی مسجد کے مختلف دروں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، بکر کے دل میں ایک دن کچھ خلیجان سا پیدا ہوا کہ امام صاحب کا در سے ایک قدم یا کچھ حصہ باہر کھڑا ہونا چاہئے، تو خالد نے کہا کہ نہیں پوری مسجد میں محراب صرف ایک ہوتی ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، دوسرے دروں میں

کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو اس بارے میں اب بکر جاننا یہ چاہتا ہے کہ در چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس میں امام نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں، اگر پڑھا سکتا ہے تو امام صاحب کا در سے باہر نکلا ہوا ہونا چاہئے یا در کے برابر ہو، برائے مہربانی مفصل و مدلل جواب بحوالہ جلد دینے کی زحمت گوارا فرمائیں عین کرم ہوگا؟

المستفتی: خلیل احمد شوق، گودھنا سدھولی، سیتاپور (پوٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام محراب سے ہٹ کر در میں کھڑا ہوتا ہے تو محراب کے سامنے کے در میں کھڑا ہونا ضروری ہے ورنہ مکروہ ہوگا۔ نیز در یا محراب میں جب کھڑا ہو تو قدم باہر ہونا چاہئے چاہے در یا محراب کشادہ ہو یا نہ ہو، ورنہ مکروہ تنزیہی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، زکریا ۳۵۲/۳۵۲، احسن الفتاویٰ، زکریا ۳۱۰/۳۱۰، مکروہات صلوة)

قیام الإمام في المحراب لاسجوده فيه الخ (الدر المختار، باب ما یفسد الصلاة وما لا یفسد، مطلب إذا تردد الحكم بین سنة و بدعة، زکریا ۴/۲، ۶۰۴/۱، مصری ۶۴۵/۱، کراچی ۶۰۴/۱)

ولو قام في أحد جانبي الصف يكره (إلى قوله) والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال اكره أن يقوم بين الساريتين. أو في زاوية أو في ناحية الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش منها، زکریا ۳۱۰/۲، کراچی ۵۶۸/۱)

وقیام الإمام لاسجوده في الطاق أي يكره قیام الإمام في الطاق وهو المحراب ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائما خارج المحراب. (تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد، مكتبة امدادية ملتان ۱/۱۶۵، البنايه، باب ما یفسد الصلوة وما یكره فيها، فصل في العوارض، اشرفیه ۲/۴۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱/۲/۱۴۱۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱/۲/۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۱۳۰)

جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام کا مقتدیوں کے بیچ میں ایڑی کے برابر آگے کھڑا ہونا

سوال [۲۵۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام مقتدیوں کی صفوں کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں امام مقتدیوں سے کتنا آگے کھڑا ہوگا؟

المستفتی: محمد اختر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جگہ کی تنگی کی وجہ سے جب امام صاحب کو مقتدیوں کی صف کے درمیان کھڑا ہونا پڑ جائے، تو ایسی صورت میں امام کی ایڑی کا مقتدیوں کی ایڑی سے آگے ہونا کافی ہے اور امام کا صرف ۳/۴ انگل آگے ہونا ہی اقتداء کے درست ہونے کے لئے کافی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈائجیل ۶/۳۹۳، میرٹھ ۹/۲۷۱)

عن الأسود وعلقمة، قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلي هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا؟ قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، النسخة الهندية ۱/۲۰۲، بيت الأفكار رقم: ۵۳۴)

ولو كانوا جماعة فينبغي للإمام أن يتقدم ولو لم يتقدم إلا أنه قام على يمينه الصف أو على يسرته أو قام في وسط الصف، فإنه يجوز ويكره..... وأشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو لا للقدم للرأس، فلو كان الإمام أقصر من المقتدي تقع رأس المقتدي قدام الإمام يجوز بعد أن يكون محاذيا بقدمه أو متأخرا قليلا. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ۱/۶۱۷، كوئٹہ ۱/۳۵۲، خلاصة الفتاوى ۱/۱۵۷، شامی زكريا،

کتاب الصلاة، باب الإمامة قبیل مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش منها
۳۰۸/۲، کراچی ۱/۵۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۷۷/۲۰)

گرمی کی وجہ سے امام کا مقتدیوں کی صف میں کھڑا ہونا

سوال [۲۵۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز مغرب تیار ہے صفیں استادہ ہیں جگہ کی کوئی معقول تنگی نہیں ہے صرف گرمی محسوس کی جا رہی ہے امام صف اول کے درمیان میں کھڑا ہے؛ البتہ امام نصف فٹ صف سے آگے ہے، اسی طرح نماز پڑھادی تو نماز امام و مقتدی حضرات کی درست ہوگئی یا نہیں؟ امام کا اس طرح بین الصف کھڑے ہو کر نماز پڑھانا کیسا ہے، امام کا مقتدیوں کے آگے ہونے کا کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہئے؟

المستفتی: محمد اکبر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام کا محض گرمی کی وجہ سے مقتدیوں کی صف میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، امام کا اصل مقام مقتدیوں سے کم از کم ایک صف آگے کھڑے ہونے کا ہے۔

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس بن مالك: فقمتم إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، و صففت أنا

والیتیم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتین، ثم انصرف. (صحيح مسلم، کتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، النسخة الهندية ۱/۲۳۴، بيت الأفكار رقم: ۶۵۸، صحيح البخاري، کتاب الصلاة، باب الصلاة على العصير ۱/۵۵، رقم: ۳۲۷۸، ف: ۳۸۰)

فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر. (الدر المختار، باب الإمامة، مطلب الإساءة دون الكراهة أو أفحش منها، زكريا ۲/۳۰۸، كراچی ۱/۵۶۷)

والأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد. (فتح الباري، كتاب الآذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعله، اشرفيه ديوبند ۲/۲۱۲، قديم بيروت ۲/۱۹۶، شرح النقاية، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصلاة اعزازه ديوبند ۱/۸۹، تحت رقم الحديث: ۶۸۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۸۲۸)

جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام و مقتدی کا ایک صف میں کھڑے ہونا

سوال [۲۵۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اندر جمعہ کے روز بجائے دو کے تین صفیں کر لیتے ہیں، تو ممبر کی جگہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو پاتا اور امام کی ایڑی اور مقتدیوں کے پیر کا انگوٹھا تقریباً مل جاتے ہیں، نماز میں تو کوئی خلل نہیں ہے؟

المستفتی: شاہد حسین، بیگم پوری امام مسجد کھجور والی انخوان پور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں امام کی ایڑی مقتدیوں کی ایڑیوں سے آگے اور مقدم ہونا لازم ہے اور اگر مقتدی کا پیر لمبا ہونے کی وجہ سے امام کی ایڑی

مقدم ہونے کے باوجود مقتدی کی انگلی امام کی انگلی کے برابر ہو جائے، تو نماز میں خرابی نہیں آتی ہے؛ کیونکہ شرط امام کی ایڑی کا مقتدی کی ایڑی پر مقدم ہونا ہے۔

عن الأسود وعلقمة، قالاً: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا؟ قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. (صحيح مسلم، المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، النسخة الهندية ۱/۲۰۲، بيت الأفكار رقم: ۵۳۴)

وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المأموم حتى لو تقدم أصابعه لطول قدمه لا يضر الخ (مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة قديم ۱/۱۵۸، جديد دار الكتاب ديوبند ۲۹۰)

ومعنى المحاذاة بالقدم المحاذاة بعقبه، فلا يضر تقدم أصابع المقتدي على الإمام حيث حاذاه بالعقب ما لم يفحش التفاوت بين القدمين. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة قبيل مطلب هل الأساءة دون الكراهة أو أفحش منها، كراچی ۱/۵۶۷، زكريا ۲/۳۰۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹ صفر المظفر ۱۴۱۱ھ

۱۹/۲/۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۱۲۳)

جگہ کی تنگی کے باعث امام و مقتدی کا ایک صف میں کھڑا ہونا

سوال [۲۵۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مدرسہ میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں، جس طرح امام اور مقتدی نماز پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد اصغر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مدرسہ میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے امام و مقتدی کا ایک ہی صف میں کھڑا ہونا جائز ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی؛ لیکن مدرسہ میں اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی تو ہوگی، جہاں جماعت کی جاسکے اور امام مقتدیوں سے ممتاز جگہ پر کھڑا ہو سکے؛ لہذا ایسی ہی جگہ تجویز کرنی چاہئے۔

عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة، قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلي هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا؟ قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، النسخة الهندية ۲۰۲/۱، بيت الأفكار رقم: ۵۳۴)

والأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد. (فتح الباري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعله، اشرفيه ديوبند ۲۰۱۲/۲، قديم بيروت ۱۹۶/۲، شرح النقاہ، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصلاة اعزازه ديوبند ۸۹/۱، تحت رقم الحديث: ۶۸۳)

ويقوم المؤتمر الزائد على الواحد خلفه أي خلف الإمام..... عن أبي يوسف يقوم الإمام بين الإثنين لماروي مسلم عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود، فقام بينهما..... ماروي عن ابن مسعود وأبي يوسف، فمحمول على بيان الجواز وعلى عذر كضيق المكان. (شرح النقاہ، كتاب الصلاة،

باب القراءة في الصلاة، اعزازه ديوبند ۸۹/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۳/۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عقاب اللہ عنہ

۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۹۷۷)



(۱۱) باب ملرک، مسبوق، لاحق

امام کی تکبیر سے قبل تکبیر کہنے والے مقتدی کی نماز درست نہیں

سوال [۲۵۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب اقامت ختم ہونے پر دعاء میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھ کر کہ امام نے تکبیر کہہ لی ہے نیت باندھ لیتے ہیں اور امام صاحب کچھ دعاء کے بعد نیت باندھتے ہیں، تو کیا جن مقتدیوں نے امام سے پہلے نیت باندھی ان کی نماز ہوگی یا نہیں اور فقہ حنفی میں اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کا شرعی وقت کیا ہے؟ مفصل تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد شعیب، شاہ آباد، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ سے قبل دعاء میں

مصروف ہو جانا نصوص شرعیہ سے ثابت نہیں ہے، جو لوگ لا باس بآن یشتغل بالدعاء عند الإقامة جیسی عبارتوں سے استدلال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ اس سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ تکبیر اقامت کے وقت کہی جائے؛ اس لئے کہ اقامت ختم ہوتے ہی متصلاً تکبیر تحریمہ کا حکم ہے۔

و شروع الإمام منذ قبيل قد قامت الصلاة الخ (البحر الرائق، کتاب الصلاة،

باب صفة الصلاة، قبیل فصل إذا اراد الدخول في الصلاة كبر، زکریا ۱/۵۳، کوئٹہ ۱/۳۰۴) نیز جن مقتدیوں نے دھوکہ میں امام سے قبل تکبیر تحریمہ کہہ لیا ہے ان کی نماز نہیں ہوگی، لوٹانا واجب ہوگا۔

فلو كبر قبله لم يصر شارعا وتحتہ في مجمع الأنهر، ولو قال المؤتم قبل الإمام الله أكبر الأصح، إنه لا يكون شارعا فيها وأجموا على أنه لو فرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام لا يكون شارعا إلى آخره. (الدرالمنتنقى ١ مع مجمع الانهر، كتاب الصلاة، فصل إذا اراد الدخول في الصلاة كبر قديم ١/٩٢، جديد بيروت ١/٣٩) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۷ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۲۵)

مسابوق کا تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا

سوال [۲۵۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب سجدہ کی حالت میں ہیں فرض نماز ہے، ایک صاحب وضو کر کے آئے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سجدہ ہی میں چلے گئے، جس طرح سجدہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ میں تکبیر کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کیا اس طرح جبکہ تکبیر تحریمہ مقتدی کی سجدہ میں جا کر پوری ہوتی ہے، اقتداء صحیح ہوگی یا تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض تھا، تب سجدہ میں جاتے؟

المستفتی: عبدالرشید، قاسمی سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورة مسؤلہ میں مسبوق مقتدی کی نماز شروع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ اس نے حالت قیام میں تکبیر تحریمہ نہیں کہی؛ حالانکہ تکبیر تحریمہ بحالت قیام کہنا فرض ہے، اس فرض کے ترک کی وجہ سے مقتدی کی نماز درست نہ ہوگی اسے چاہئے تھا کہ اطمینان کے ساتھ بحالت قیام تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہوتا۔

لو أدرك الإمام راكعاً، فقال الله في حال القيام، ولم يفرغ من

قوله أكبر إلا وهو في الركوع لا يصح شروعه؛ لأن الشرط وقوع التحريمة في محض القيام. (حلبی کبیر، کتاب الصلاة فرائض الصلاة الأول تكبيرة الإفتتاح ۲۶۰)

وكذا لو أدرك الإمام في الركوع وقال: ”الله أكبر“ إلا أن قوله: ”الله“ كان في قيامه، وقوله أكبر وقع في الركوع، لا يكون شارحاً في الصلاة عندهم. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني تكبيرة الإفتتاح، زكريا ۲/۵۳، رقم: ۱۷۱۲)

أدرك الإمام راكعاً فقال: ”الله“ قائماً وأكبر راكعاً لم يصح في الأصح، (تحته في الشامية) أي بناء على ظاهر الرواية، وأفاد أنه كما لا يصح اقتداءه، لا يصير شارحاً في صلاة نفسه أيضاً، وهو الأصح كما في النهر عن السراج. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۲/۱۷۸، كراچی ۴۸۰/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰/زی قعدہ ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۷۰۲)

مفتدی کا امام کے ساتھ ساتھ تکبیر کہنا اور انتقال رکن کرنا

سوال [۲۵۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کرا انتقال رکن امام صاحب کی تکبیر کے بعد کرنا افضل ہے یا امام کے ساتھ ساتھ یا امام کے الٰہ یا اللہ کہتے ہی شروع کر دینا چاہئے، ہمسری یا اقتداء میں افضل کیا ہے؟ جبکہ مسلم شریف میں امام کے بعد انتقال رکن کا حکم ہے؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی یمنی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: افضل اور اولیٰ امام ابوحنیفہؒ سے یہی ثابت ہے

کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی تکبیر کہے اور امام کے ساتھ ساتھ رکوع وسجود کرتا جائے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا.

(صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، ۱/۱۰۰،

رقم: ۷۱۳، ف: ۷۲۲)

قال في البدائع: منها أن يكبر المقتدي مقارنة لتكبير الإمام، فهو

أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، بيان سنن الصلاة،

زكريا ديوبند ۱/۴۶۶، قديم كراچی ۱/۲۰۰)

ومنها أي من سنن الجماعة أن يكبر المقتدي مقارنة لتكبير الإمام،

فهو أفضل باتفاق الروايات ن أبي حنيفة؛ لأن الاقتداء مشاركة، وحققة

المشاركة المقارنة، إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة.

(الموسوعة الفقهية الكويتية ۶/۳۰، ۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۱/۱۸ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ محرم الحرام ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۹۴۲۱/۳۸)

درمیان صلوٰۃ مکبر کا زور سے تکبیر کہنا

سوال [۲۵۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ زید کی مسجد چار صفوں کی چھوٹی مسجد ہے، مگر دمنزل ہے کبھی کبھی نمازی

زیادہ ہونے کی صورت میں نمازی اوپر والے منزل میں چلے جاتے ہیں اور اس پر ایک اسپیکر لگا ہے، جو نماز کے وقت کھول دیا جاتا ہے، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجلی درمیان نماز میں چلی جاتی ہے، تو ایک شخص تکبیر بلند آواز سے کہنے لگتا ہے تو تکبیر کہنے والے کی نماز اور دیگر نمازیوں کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: عطاء الرحمن مدرس درجہ ناظرہ مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مکبر اور دیگر نمازیوں میں سے سب کی نماز

بلاکراہت درست ہو جائے گی اور اگر بلا ضرورت تکبیر کہتا ہے تو مکروہ ہے۔

اعلم أن التبلیغ عند عدم الحاجة إلیه بأن بلغهم صوت الإمام مکروه

(إلی قوله) وأما عند الاحتیاج إلیه فمستحب الخ (شامی، کتاب الصلاة، مطلب

فی التبلیغ خلف الإمام، زکریا ۲/۱۷۲، کراچی ۱/۴۷۵)

أن التکبیر عند عدم الحاجة إلیه بأن یبلغهم صوت الإمام

مکروه- إلی- وأما عند الاحتیاج إلیه، بأن كانت الجماعة لا یصل إلیهم

صوت الإمام إما لضعفه، أو لکثرتهم فمستحب. (حاشیة الطحطاوی علی

مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی بیان سننها، دارالکتاب دیوبند جدید ۲۶۲)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۲۱/۲۷)

امام کے قرأت شروع کر دینے کے بعد مقتدی کا ثناء پڑھنا

سوال [۲۵۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام صاحب کے تکبیر کہنے کے بعد ایک شخص نماز میں شریک ہوا جیسے ہی اس نے ثناء پڑھنا شروع کیا فوراً امام نے قرأت شروع کر دی، تو کیا شریک ہونے والا شخص اپنی ثناء پوری کرے یا امام کی قرأت سنتے ہی خاموش ہو جائے؟

المستفتی: فیروز احمد، کرلا مہنی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر جہری نماز ہے تو امام کے قرأت شروع کر دینے پر مقتدی کو ثناء وغیرہ کا سلسلہ ختم کر دینا چاہئے اور امام کی قرأت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہئے اور سری نماز میں مقتدی بہر حال ثناء پڑھ سکتا ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۳۸۲)

إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء.

(ہندیہ، کتاب الصلاة، الفصل السابع في المسبوق، واللاحق زكريا ۱/۹۰، حديد ۱/۴۸)

وينبغي أن يأتي به في السرية، ويترك في الجهرية. (شرح النقاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، اعزازه ديوبند ۱/۷۳)

إلا إذا كان مسبوqa وإمامه يجهر بالقراءة، فإنه لا يأتي به وصححه في الذخيرة وعليه الفتوى، كما في المضمرة. (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۱۴۲، قديم مصري ۱/۹۴، الموسوعة الفقهية ۱۶۱/۳۷)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۵/۳/۳۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۳۹۲۲)

نماز کے فرائض و سنن و نوافل میں امام کی متابعت

سوال [۲۵۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید امامت کرتے ہیں اور مسجد کے متعین امام ہیں زید بحالت امامت قرأت

میں بھی جلدی کرتے ہیں اور تسبیحات میں بھی اور تشہد درود، دعاء میں بھی جلدی کرتے ہیں اور مقتدی ایسی حالت میں درود، تشہد و دعاء اخیر رکعت میں پوری نہیں کر پاتے دور رکعت کے قعدہ میں بھی اکثر ایسی حالت میں مقتدی التحیات پوری کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا سلام پھیر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں مقتدی کے لئے کیا حکم ہے اور امام کے لئے کیا حکم ہے؟

المستفتی: عبدالکریم، کاشی پور نبی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام و مقتدی کے مسئلہ میں حکم یہ ہے کہ ہر وہ امر جس کا کرنا واجب یا فرض ہے، اس میں اس امر کو مکمل کر لینے کے بعد امام کی اتباع کی جائے اور جو امر از قبیل سنن یا نوافل ہے، اس میں اس امر کی تکمیل کئے بغیر امام کی اتباع لازم ہے اور تشہد پڑھنا امر واجب ہے؛ لہذا اگر مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے قبل امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے یا سلام پھیر دے تو یہ مقتدی اولاً تشہد مکمل کر کے پھر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے یا اخیر میں سلام پھیر دے اور ایسی صورت میں مقتدی کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔

لورفع الإمام رأسه من الركوع، أو السجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الثلاث و جب متابعتہ، و کذا عکسہ، فیعود و لا یصیر ذلک رکوعین بخلاف سلامہ أو قیامہ لثالثۃ قبل تمام المؤتمر التشهد، فإنه لا یتابعہ؛ بل یتمہ الخ. (در مختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب فی إطالة الركوع للجائي، کراچی ۱/۴۹۶، زکریا ۲/۹۹، ہندیہ، کتاب الصلاة، باب الإمامة، الفصل السابع فی المسبوق واللاحق، زکریا ۱/۹۰، الفتاوی التاتاریخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الثالث فی کیفیت الصلوة، زکریا ۲/۹۱، رقم: ۲۱۰۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵ھ/۱۲/۲۵

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ ذی الحجہ ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳۳۳۵۵۵)

کیا امام کی اتباع سنن و مستحبات میں ضروری ہے؟

سوال [۲۵۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مقتدی کے لئے سنت اور مستحبات میں امام کی اتباع کرنا ضروری ہے یا نہیں، اگر ضروری ہے تو مقتدی اگر امام کے بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے بائیں طرف کے سلام سے فارغ ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: سیف الحق، آسامی، متعلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سنن و مستحبات میں امام کی اتباع کرنا فرض یا

واجب نہیں ہے؛ بلکہ بدرجہ سنت اور مستحب ہے۔

وأنه لا تجب المتابعة في السنن فعلا (إلى قوله) وتكون سنة في

السنن الخ. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب مهم في تحقيق متابعة

الإمام، زکریا ۲/۱۶۶، کراچی ۱/۴۷۰، ۴۷۱)

اور اگر امام کے بائیں طرف سلام پھیرنے سے قبل مقتدی سلام سے فارغ ہو جائے

تو مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، ہاں البتہ بلا عذر متابعت ترک کرنے کی وجہ سے مقتدی

کافیہ فعل مکروہ تحریمی ہوگا۔

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا

جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام،

فقد تمت صلاته. (سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم،

دار الكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۸، رقم: ۱۴۰۷)

لو أتم المؤتم التشهد، بأن أشرع فيه وفرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى

بما يخرجه من الصلاة كسلام، أو كلام، أو قيام، جاز أي صحت صلواته،

لحصولہ بعد تمام الأركان؛ لأن الإمام وإن لم يكن أتم التشهد؛ لكنه قعد قدره (إلى قوله) وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قبيل مطلب في وقت ادراك فضلية الافتتاح، زكريا ۲/۲۴۰، كراچی ۱/۵۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۲۶۶۴)

ارکان فعلی و قولی میں امام کی اتباع کا حکم

سوال [۲۵۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام کے ارکان فعلی و قولی کی اتباع واجب ہے یا نہیں؟ یا ان دونوں میں سے کس کی اتباع واجب ہے اور کس کی نہیں؟

المستفتی: منشی صفدر حسین، کرتپور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ارکان فعلی میں اتباع واجب ہے اور رکن قولی یعنی قرأت میں اتباع جائز نہیں ہے۔

لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية، وإن الركن القولی، وهو القراءة، فلا يتابعه فيه عندنا الخ (صغیري، مطبع مجتہبی، دہلی ۲۶۸)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا.

الحديث (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ۱/۱۰۰، رقم: ۷۱۳، ف: ۷۲۲)

ومتابعة الإمام، قال في شرح المنية: لاخلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية، إذ هي موضوع الإقتداء، واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة، فعندنا لايتابع فيها. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام، زكريا ۲/۱۶۵، كراچی ۱/۴۷۰، حاشية الطحطاوي على مراقبي الفلاح، كتاب الصلاة، قبيل فصل في بيان سننها، دارالكتاب ديوبند ۲۵۶، ۲۵۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۶۲۰)

تکبیرات انتقالیہ میں مقتدی کا امام سے سبقت کر جانا

سوال [۲۵۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب بڑے تکلف کے ساتھ تکبیرات کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مقتدی اپنے امام صاحب سے سبقت کر جاتے ہیں، خاص کر سماع اللہ..... اور پہلے سلام میں اس مسئلہ میں امام اور ان کے مقتدیوں کے لئے کیا ہدایات ہیں؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی مینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: امام صاحب کے لئے تکبیرات انتقالیہ وغیرہ میں اتنا مد کرنا کہ جس کی وجہ سے مقتدی امام سے سبقت کر جائیں درست نہیں ہے؛ بلکہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ تکبیر و تسبیح شروع کریں اور جو نہی دوسرے رکن میں پہنچیں آواز بند کر دیں، اسی طرح سلام پھیرتے ہوئے مد کرنے اور نہ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہئے، مد زیادہ لمبا بھی نہ ہو اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، ہاں البتہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ پہلے سلام کے مقابلہ میں

دوسرے سلام کو ذرا مختصر اور پست کیا جائے اور مقتدیوں پر ہر رکن میں امام کی پیروی کرنی لازم ہے اور امام سے تکبیر وغیرہ میں سبقت کرنا جائز نہیں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، ۱/۱۰۰، رقم: ۷۱۳، ف: ۷۲۲)

ثم كما فرغ يكبر مع الإنحطاط للركوع وفي الشامية: أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عن الخرورج وانتهاءه عند استواء الظهر. (در مختار مع الشامی، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن، كراچی ۱/۴۹۳، زكريا ۲/۱۹۶)

ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا وفي الشامية: قائلا سمع الله لمن حمده، وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع. (شامی، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحائي، كراچی ۱/۴۹۶، زكريا ۲/۲۰۰)

والسنة للإمام في السلام، أن تكون التسليمة الثانية أخفض أي أسفل من التسليمة الأولى من حيث الصوت، لأن ظاهره أنه يجهر بها جهراً دون الجهر بالأولى..... ومن المشائخ من قال يخفض الأولى من الثانية أي يخفض الأولى أزيد من الثانية وهذا غير صحيح..... والصحيح القول الأول، أنه يجهر بالثانية دون الجهر بالأولى. (كبيری، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، اشرفیه دیوبند و لاہور ۳۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۶/۱۵

(الف فتاویٰ نمبر: ۱۰۷۰۶/۳۹)

امام کی تکبیر کے مکمل ہونے سے قبل مقتدیوں کا انتقال رکن کرنا

سوال [۲۵۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اکثر مقتدی امام کی پوری تکبیر ختم ہونے سے پہلے ”اَلْیَا لَلّٰہُ“ ہی پر انتقال رکن کر جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، لائن نمبر آزاد گزٹ نیٹنی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مقتدیوں کو انتقال رکن میں اس قدر جلدی نہیں کرنی چاہئے کہ امام کے منہ سے تکبیر نکلتے ہی منتقل ہو جائیں؛ بلکہ امام کی تکبیر کے ساتھ منتقل ہونا چاہئے اور تکبیرات انتقالیہ میں مسنون یہی ہے کہ انتقال کی ابتدائی حرکت سے تکبیر شروع کرے اور انتقال مکمل ہوتے ہی تکبیر ختم کر دے، مثلاً قیام سے رکوع کرتے وقت جھکتے ہی تکبیر شروع کرے اور رکوع میں پہنچتے ہی تکبیر ختم کر دے اور ایسا کرنا خلاف سنت ہے کہ امام پہلے منتقل ہو پھر تکبیر کہے۔

وینبغی أن یکون ابتداء تکبیرہ عند أول الخور، والفراغ منه عند الاستواء. (کبیری، صفة الصلاة، اشرفیہ دیوبند، ۳۱۴، شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلوة، مطلب قراءة البسملة بین الفاتحة والسورة، کراچی ۱/۹۷، ۴، زکریا ۲/۱۹۶)

یسن التکبیر عند الخور وابتداءه عند أول الخور و فراغه عند الاستواء. (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۱/۵۵۰، کوئٹہ ۱/۳۱۵)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا، وإذا

قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا.
الحديث (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، ۱/ ۱۰۰،
رقم: ۷۱۳، ف: ۷۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۷۸۶/۳۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۷/۴/۱۴۲۶ھ

رکوع میں آنے والے مسبوق کا بغیر ہاتھ اٹھائے و باندھے امام کے ساتھ شریک ہو جانا

سوال [۲۵۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نماز میں اس وقت شریک ہو جب امام حالت رکوع میں تھا، آنے والے شخص نے رکوع پانے کے لئے بلا ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور بغیر ہاتھ باندھے رکوع کر لیا، تو کیا ایسی صورت میں شریک ہونے والے کی نماز درست ہو جائے گی؟

المستفتی: افروز احمد کرلا مبینی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آنے والے شخص نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی ہے، تو ایسی صورت میں بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اور بغیر باندھے رکوع میں جانے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوئی؛ بلکہ صحیح ہو گئی ہے واجب الاعادہ نہیں ہے؛ اس لئے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا مسنون ہے فرض یا واجب نہیں اور سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

وأما سنن الصلاة فمن جملتها رفع اليدين مقارنا؛ لتكبيرة الافتتاح.

(الفتاویٰ التاتاریخ حایة ۱۳۳/۲، رقم: ۱۹۵۵)

ورفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، الصحيح أنه سنة، فإن ترك

رفع الیٰدین یأثم، وقال: بعضهم لا یأثم، وقد روی عن أبی حنیفة ما یدل علی هذا القول، فإنه، قال: إن ترک رفع الیٰدین جاز، وإن رفع فهو أفضل. (الفتاویٰ التاتار خانیه، کتاب الصلاة، الفصل الثانی تکبیرة الافتتاح، زکریا دیوبند ۲/۴۸، رقم: ۱۶۹۱)

ترک السنة لا یوجب فسادا، ولا سهوا؛ بل إساءة لو عامدا غیر مستخف. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۲/۱۷۰، کراچی ۱/۴۷۴، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی بیان سنتها، دارالکتاب دیوبند جدید ۲۵۶)

فلو کبر قائما فرکع ولم یقف صح الخ (در مختار، باب صفة الصلاة، مبحث القیام، کراچی ۱/۴۴۵، زکریا ۲/۵۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
فتویٰ نمبر: الف/۳۱۳۲۲ (۳۹۲۲)

الجواب صح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۳/۱۴۱۵ھ

مقتدی کے رکوع میں جاتے ہی امام نے سر اٹھالیا

سوال [۲۵۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام رکوع میں ہے مقتدی نے آ کر حالت رکوع میں امام کو پالیا؛ لیکن مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر جیسے ہی رکوع میں گیا ویسے ہی امام تکبیر کہہ کر کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں مقتدی نے رکعت پالی یا نہیں، رکعت پالینے کی کیا مقدار ہے، کیا تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے پر رکعت ملتی ہے یا اس سے کم زیادہ پرواضح کر کے بیان کریں؟

المستفتی: محمد مطلوب، باندہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت میں مقتدی نے

رکعت پالی رکعت پانے کے لئے تسبیح کی کوئی مقدار متعین نہیں، بس صرف اتنا کافی ہے کہ رکوع کی حالت میں امام کو ایک سکنڈ کے لئے بھی پالیا ہو، تو شرعی طور پر یہ کہا جائے گا کہ اس نے رکوع پالیا اور جس نے رکوع پالیا اس نے رکعت بھی پالی۔

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرکها قبل أن يقيم الإمام صلبه. (صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ۷۶۸/۲، رقم: ۱۵۹۵، دارقطني ۳۳۹/۱، رقم: ۱۲۹۸، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفکر ۴۰۸/۲، رقم: ۲۶۲۹)

أدرک الإمام في الركوع فكبر قائمًا ثم ركع أو شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع اعتدبها. (تقريرات رافعي على الشامي زكريا ۹۶/۲) وقيل إذا شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع، فقد أدرکه في الركوع أيضا ويعتد بتلك الركعة. (حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب أدرک الفريضة، دارالكتاب ديوبند ۴۵۵)

وعن الشعبي قال قلت الرجل ينتهي إلى القوم وهم ركوع، وقد رفع الإمام رأسه قال بعضهم أئمة بعض. (مصنف ابن أبي شيبة ۲۴۴/۱، احسن الفتاوى، زكريا ۲۸۸/۳، كتاب الفتاوى ۲۹۲/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ شعبان المعظم ۱۴۲۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۹۳۸)

مقتدی کا امام سے قبل سجدہ کرنا

سوال [۲۵۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مقتدی امام سے پہلے سجدہ کرے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد سلیم مظفر ٹکری، امام مکی مسجد، غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مقتدی امام سے پہلے سجدہ میں چلا جائے، تو اگر مقتدی کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدہ میں چلا جائے، تو ایسی صورت میں مقتدی کی نماز درست ہو جائے گی اور اگر امام کے سجدہ میں جانے سے پہلے مقتدی سر اٹھالے تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی؛ ہاں البتہ اگر یہ مقتدی امام کے ساتھ دوبارہ سجدہ کا اعادہ کر لیتا ہے تو پھر درست ہو جائے گی۔

ويفسدھا مسابقة المقتدي بركن لم يشار كه فيه إمامه كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام، ولم يعده معه أو بعده. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، دار الكتاب ديوبند ۳۳۷، قديم ۱۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۴/۲۶ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۸۹/۳۷)

امام کے سلام مکمل کرنے سے پہلے مقتدی کا سلام پورا کر لینا

سوال [۲۵۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جماعت کی نماز میں امام صاحب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام صاحب کے ساتھ مقتدی بھی سلام پھیرتے ہیں؛ لیکن امام کی آواز پوری ہونے سے پہلے کچھ مقتدیوں کی سانس ٹوٹ جاتی ہے؛ کیونکہ کچھ مقتدیوں میں ضعیف اور کم سانس والے بھی ہیں، کیا مقتدیوں کو امام کی آواز تک سلام کھینچنا چاہئے اور اگر امام کی آواز پوری ہونے سے پہلے مقتدی کا سلام پورا ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز میں کوئی خرابی تو واقع نہ ہوگی ایک صاحب فرماتے ہیں کہ امام کے سلام کے برابر ہی سلام کھینچنا چاہئے، اگر پہلے ٹوٹ گیا تو نماز نہ ہوگی،

براہ کرم شریعت کی روشنی میں اس کو تھوڑا خلاصہ فرمادیں تاکہ مقتدیوں کی سمجھ میں آسکے؟

المستفتی: قاری زبیر عالم، پیرزادہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں امام کی متابعت صرف

لفظ السلام میں واجب ہے اور علیکم ورحمۃ اللہ میں نہیں؛ اس لئے اگر بعض مقتدیوں کی سانس امام کے السلام کہنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے تو ان کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۶۳۲، احسن الفتاویٰ ۳۱۲/۳)

ویجب لفظ السلام. (عالمگیری، کتاب الصلاة، الفصل الثانی فی واجبات

الصلاة، قدیم زکریا ۷۲/۱، جدید زکریا ۱۲۹/۱)

وقال في الدر المختار في بحث الواجبات ولفظ السلام

مرتين..... دون علیکم. (درمختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۲/۶۲،

کراچی ۱/۴۶۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۱/۳۱۶، ۲۷/۸۰)

ویجب لفظ السلام مرتین فی الیمین، والیسار للمواظبة. (حاشیة

الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی بیان واجبات الصلاة، دارالکتاب

دیوبند جدید ۲۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲/صفر المظفر ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۲/۴۶۹۳)

امام کے سلام پورا ہونے سے قبل مقتدی کا سلام پورا ہونا

سوال [۲۵۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام صاحب اتنا لمبا سلام پھیرتے ہیں کہ مقتدیوں کا سلام ختم ہو جاتا ہے

اور امام صاحب کا سلام جاری رہتا ہے یعنی کہ مقتدیوں کے سلام سے نصف ہو پاتا ہے،

تو عرض یہ ہے کہ فقہاء نے نماز کے سلام پھیرنے میں کتنی مقدار متعین کی ہے؟ کتنے الف کھینچا جائے مقدار کی صحیح تعیین ہو جائے؟ ایک صاحب جو حافظ و قاری ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے معتبر علماء سے سنا ہے کہ اگر امام اتنا لمبا سلام پھیرے کہ مقتدیوں کا سلام پہلے ختم ہو جائے، تو نماز میں خرابی آجاتی ہے۔

المستفتی: محی الدین، امام بڑی مسجد رام نگر، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رحمۃ اللہ میں اللہ کے الف میں مد عارض ہونے

کی وجہ سے ایک الف سے پانچ الف کی مقدار تک کھینچا جا سکتا ہے۔ (نوائد مکہ ۲۲)

اور لفظ السلام کہنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے؛ اس لئے سلام اول کی میم امام سے پہلے کہنا مکروہ ہے، اس کے بعد دیگر کلمات کو امام سے پہلے ختم کرنے سے نماز بلا کراہت درست ہو جاتی ہے اور اکثر امام؛ چونکہ رحمۃ اللہ کو لمبا کرتے ہیں؛ لہذا اس شخص کا مطلقاً نماز کو خراب کہنا درست نہ ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳۱۲/۳)

و تنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا. (در مختار مع

الشامية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلوة، مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، زكريا ۲/۶۲، كراچي ۱/۶۸، ۴، وكذا في مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان واجبات الصلوة قديم ۱۳۶، جديد دار الكتاب ديوبند ۲۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰۳۸)

مسبوق کا امام کے ساتھ سلام پھیر دینا

سوال [۲۵۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے کچھ لوگ بعد میں آکر نماز میں شریک ہوئے اتفاق سے امام صاحب کو آخری رکعت میں سہو ہو گیا اور وہ بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے، لوگوں کے اللہ اکبر کہنے پر واپس ہوئے؛ اب جبکہ امام صاحب نے تشہد پڑھ کر سلام پھیرا تو جو لوگ بعد میں آکر شریک ہوئے تھے انہوں نے بھی لاعلمی میں سلام پھیر دیا تو اس پر نماز کے بعد لوگوں میں تکرار ہو گئی، ایک صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں جو آئے اس کو سلام نہیں پھیرنا چاہئے، اگر ایسا کیا تو نماز نہ ہوگی اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے، تمہاری زبان سے سن رہے ہیں، آپ اس مسئلہ کا حل فرمادیں۔ نیز سلام نہ پھیرنے کا مسئلہ کن لوگوں سے متعلق ہے آیا جو لوگ سہو میں شریک رہے وہ بھی سلام نہ پھیریں؟

المستفتی: سراج الدین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو لوگ بعد میں آکر نماز میں شریک ہوں، خواہ امام کے سہو پیش آنے سے پہلے شریک ہوں یا بعد میں بہر دو صورت ایسے لوگوں کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا چاہئے؛ لیکن امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، اگر کسی نے بھول یا لاعلمی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی؛ البتہ قصداً ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقا سواء كان السهو قبل الاقتداء
أوبعدہ (درمختار) قيد بالسجود، لأنه لا يتابعه في السلام؛ بل يسجد
معه - فإن سلم كان عامدا فسدت وإلا لا. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود
السهو، كراچی ۲/۸۲، زکریا ۲/۵۴۶)

ثم المسوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام؛ بل ينتظر الإمام
حتى يسلم فيسجد، فيتابعه في سجود السهو، لافي سلامه، وإن سلم فإن
كان عامدا تفسد صلاته، وإن كان ساهيا لا تفسد ولا سهو عليه، لأنه مقتد،

وسهو المقتدي باطل، فإذا سجد الإمام للسهو يتابعه في السجود ويتابعه في التشهد، ولا يسلم إذا سلم الإمام، لأن السلام للخروج عن الصلاة وقد بقي عليه أركان الصلاة، فإذا سلم مع الإمام، فإن كان ذا كرا لما عليه من القضاء، فسدت صلواته، لأنه سلام عمد، وإن لم يكن ذا كره لا تفسد، لأنه سلام سهو، فلم يخرج عن الصلاة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه قديم كراچی ۱/۱۷۶، جدید زکریا ۱/۲۲۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۷۱۷)

خوف حدث وغیرہ کی بناء پر امام سے پہلے سلام پھیرنا

سوال [۲۵۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رسالہ مسائل امامت مصنفہ مولانا قاری محمد رفعت صاحب ص: ۲۲۷ پر لکھا ہے کہ ریح نکلنے کے خوف وغیرہ کی بنا پر پہل کرنے میں کراہت نہیں، یعنی امام سے پہلے ریح کے خوف سے سلام پھیرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ (بحوالہ احسن الفتاویٰ ۲۹۴/۱، بحوالہ درالمختار ۱/۲۹۰) دریافت طلب بات یہ ہے کیا اس میں اختلاف ہے، یا یہ مسئلہ درست ہے؟

المستفتی: اعجاز احمد دارالعلوم چلہ مروہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صاحب احسن الفتاویٰ مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مدظلہ اور مولانا قاری محمد رفعت صاحب مدظلہ کا حوالہ اپنی اپنی جگہ درست اور صحیح ہے کہ خوف حدث وغیرہ کی وجہ سے تشہد پورا ہونے کے بعد امام سے پہلے سلام پھیر دینا مکروہ نہیں ہے اور اس مسئلہ میں کوئی اختلاف بھی نظر سے نہیں گذرا۔

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته. (سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۸، رقم: ۱۴۰۷)

إنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر، فلو به كخوف حدث أو خروج وقت جمعة أو مرور ماربين يديه فلا كراهة الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قبيل مطلب في وقت إدراك فضيلة الإفتتاح، زكريا ۲/۲۴۰، كراچی ۱/۵۲۵، درمختار كراچی ۱/۵۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۷/۲۶۴۵)

مسبوق کا قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد خاموش رہنا

سوال [۲۵۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکر چار رکعت والی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، ایک رکعت بکر کی چھوٹ گئی ہے تو کیا آخری قعدہ میں بکر تشہد پڑھ کر خاموش بیٹھا ہے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے یا بکراتحیات درود شریف اور دعاء ماثورہ بھی امام کے ساتھ پڑھے، پھر جب امام سلام پھیرے تب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے۔ نیز ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد جابر خاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسا مقتدی جس کی امام کے پیچھے رکعت چھوٹ گئی ہو اور قعدہ اخیرہ میں بھی امام کے ساتھ شریک رہا ہو، تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ تشہد

پڑھ کر امام کے سلام کا انتظار کرے درود شریف اور دعاء وغیرہ نہ پڑھے؛ بلکہ تشهد کو امام کے سلام پھیرنے تک آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا رہے۔ نیز ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ (مستفاد: آپ کے مسائل اور ان کا حل جدید ۳/۵۲۵، فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۹/۳۲۲ھ، فتاویٰ رحیمیہ ۵/۵۳۵)

ومنها أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير، وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر التشهد أي قوله أشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد؛ حتى يفرغ عند سلام الإمام. (هنديہ، قبل الفاتحة، كتاب الصلاة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق ۱/۹۱، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۴۹)

وتسن التسمية أول كل ركعة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة فصل في سننها، دارالكتاب دیوبند جدید ۶۰، شامی، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة زکریا ۲/۱۹۲، کراچی ۱/۴۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ صفر المظفر ۱۳۳۵ھ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۰/۱۱۳۳۷)

مسبوق کے التحیات میں بیٹھتے ہی امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو مسبوق کیا کرے؟

سوال [۲۵۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مسبوق ہے امام کے ساتھ قعدہ کی حالت میں شریک ہو اور وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر التحیات میں بیٹھا ہی تھا کہ امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا، تو یہ تشهد پڑھے گا یا امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ شخص مسبوق ہے، اس کے لئے بغیر التحیات پڑھے امام کے ساتھ کھڑا ہو جانا مکروہ ہے؛ بلکہ التحیات پڑھ کر کھڑا ہونا لازم ہے، بغیر التحیات پڑھے کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۵۱۰/۱، ایضاح المسائل ۱۳۲، احسن الفتاویٰ ۶۳/۳۷)

إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي، أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي التشهد فالمختار أن يتم التشهد. (ہندیہ، کتاب الصلاة، باب الإمامة، الفصل السادس: فيما يتابع الإمام وفيما لا يتابعه، قديم زكريا ۱/۹۰، جديد زكريا ديوبند ۱/۴۷)

ولو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد أتم، وإن لم يتمه جاز، و في التجنيس يتمه—أي وجوبا. (حاشیہ الطحطاوي، کتاب الصلاة، فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ امامه، دارالكتاب ديوبند ۳۱)

كمن أدرك الإمام في القعدة الأولى فقعده معه، فقام الإمام قبل شروع المسبوق في التشهد فإنه يتشهد تبعا لتشهد إمامه. (حلبی کبیر، کتاب الصلاة، فصل في سجود السهو، اشرفیہ دیوبند ۹۵، التاتار خانیه، کتاب الصلاة، الفصل الثالث في كيفية الصلوة زكريا ۲/۱۹۱، رقم: ۲۱۰۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۵۱/۴۰)

قعدة اولیٰ میں بیٹھتے ہی امام کھڑا ہو جائے

سوال [۲۵۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے قعدة اولیٰ میں شرکت کی ابھی تشهد شروع بھی نہیں کیا تھا کہ امام صاحب

تیسری رکعت کے لئے تکبیر کہہ کر کھڑے ہو گئے، اب زید کیا کرے تشهد پڑھے گا یا امام کی اقتداء میں کھڑا ہوگا؟

المستفتی: محمد اصغر پرانا بازار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قعدہ اولیٰ میں شرکت کرتے ہی امام کھڑا ہو جائے تو زید تشهد پڑھ کر ہی کھڑا ہو تشهد پڑھے بغیر امام کی اقتداء میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۳۲)

لو اقتدی بہ فی أثناء التشهد الأول، أو الأخير فحين قعد قام إمامہ أو سلم ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم، وقوله: ولو لم يتم جاز أي صح مع كراهة التحريم. (شامی، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع

للجائی، کراچی ۱/۹۶، ۴، ذکر یا ۲/۲۰۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۱ھ جمادی الثانیہ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۷۱۵)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۶/۷ھ

قعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں مسبوق کے تشهد مکمل کرنے سے پہلے امام کا کھڑا ہونا

سوال [۲۵۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: بخدمت اقدس حضرت مفتی صاحب دامت برکاتکم العالیۃ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعده احقر بفضل اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہے، کئی خط قبل ازیں ارسال کر چکا ہوں، مگر جواب نہ پانے کی وجہ سے دلی اضطراب ضرور ہے، مگر خیال کر لیتا ہوں کہ عدیم الفرستی کی بناء پر جواب سے نہ نوازا ہو، استاذ و مربی کا جواب خط تسکین قلب کا باعث ہوتا ہے؛ اس لئے

حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وقت نکال کر تین چار سطور لکھ کر قلب کو مطمئن فرما دیا کریں، گستاخی معاف ہو، ایک ضروری تحریر اصلاح کے لئے بھیج رہا ہوں، یہ تحریر میں نے اس شخص کے پاس رقم کر کے بھیجی ہے جس سے میری زبانی گفتگو ہوئی تھی، مسئلہ مجسٹہ درمیان فریقین یہ تھا کہ قعدہ اولیٰ یا قعدہ اخیرہ میں مسبوق نے تشہد کا کچھ حصہ پڑھا ہو اور امام نے سلام پھیر دیا یا امام کھڑا ہو گیا، تو اب مسبوق کیا کرے، میں نے کہا کہ مسبوق تشہد پورا کر کے اٹھے گا، یہی قول مختار ہے؛ اگرچہ عدم اتمام کی صورت میں بھی نماز ہو جائیگی، وہ فرمانے لگے کہ نہیں؛ بلکہ مسبوق امام کی اتباع میں قعدہ اولیٰ میں بغیر تشہد پورا کئے کھڑا ہو جائے گا، کافی طویل گفت و شنید کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ کچھ کتابوں کے حوالہ جات اس مسئلہ پر تحریر فرمائیں، تو میں نے مجبور ہو کر مندرجہ ذیل تحریر ان کے پاس بھیجی ہے؛ چونکہ یہاں کتابیں کم ہیں؛ اس لئے جو مجھے مل سکا اور مطالعہ کر کے جس نتیجے پر پہنچا وہ ان کو تحریر کر دیا تھا، آپ باطاف کریمانہ اور بنظر غور پڑھ کر میرے اس رقوم کی اصلاح فرمائیں کہ صحیح ہے یا نہیں؟

احقر نے مسئلہ مجسٹہ درشوال کے متعلق فتاویٰ اور کتب فقہ کا مطالعہ کیا، جو کچھ میں نے سمجھا ہے تو اس کو بالفاظ مختصر مع عبارات عربیہ حوالہ کے ساتھ تحریر کرتا ہوں، عالم گیری اور شامی میں قول مختار یہی لکھا ہے، کہ مسبوق تشہد پورا کر کے اٹھے گا اگرچہ عدم اتمام کی صورت میں بھی نماز درست ہو جائیگی، مگر یہ بھی یاد رہے کہ علامہ شامی کی بعض تحریرات سے جواز صلوة مع الکرہت التحریمیہ کا ثبوت ملتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳/۲۸۰، فتاویٰ محمودیہ ۲/۲۵۷)

شامی کی عبارت ملاحظہ ہو:

وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به فى أثناء التشهد الأول أو الأخير،
فحين قعد قام إمامه أو سلم ومقتضاه، أنه يتم التشهد، ثم يقوم، ولم
أر صريحا، ثم رأيت فى الذخيرة ناقلا عن أبى الليث المختار عندى، أنه يتم
التشهد، وإن لم يفعل أجزاء الخ. (شامی کراچی ۱/۹۶، ذکر یاد دیوبند ۲/۲۰۰)

والدلیل الثانی لثبوت الدعوی الثانی عبارة الشامی حیث قال تحت قول الدر المختار ولو لم یتیم جاز أي صح مع کراهة التحریم كما أفاده الخ. (شامی کراچی ۱/۴۹۶، زکریا دیوبند ۲/۲۰۰)

فقولهم: ولو لم یتیم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية وبدل عليه أيضاً تعليلهم بوجوب التشهد الخ (شامی کراچی ۱/۴۹۶، زکریا دیوبند ۲/۲۰۰، ۱/۳۳۴)

میں بھی تشہد پورا کر کے اٹھنے کا فتویٰ موجود ہے، انہی حوالہ جات پر اکتفاء کرتا ہوں کہ عاقل و ذی فہم کے لئے یہی بہت ہیں۔

اور جناب آئیے! یہ شبہ جو ظاہر فرمایا تھا کہ اتباع امام اور تشہد دونوں واجب ہیں؛ لہذا امام ہی کی اتباع کرنی اولیٰ و مختار ہوگی، تو محترم میں یہ عرض کرنے کی جرأت و ہمت کروں گا کہ نماز میں اتباع امام رکن واجب و فرض میں بلاتا خیر کے جبکہ دوسرا فرض یا واجب معارض نہ ہو واجب ہے، اور تعارض کی صورت میں اتمام الواجب الذی ہو فیہ اولیٰ اور افضل ہے؛ اسی وجہ سے اتمام تشہد ہی کو مختار کہا ہے؛ البتہ اگر معارض سنت ہے تو امام کی اتباع ضروری اور واجب ہے۔

شامی میں ہے: لأن متابعة الإمام في السلام، وإن كانت واجبة فليست بأولى من إتمام الواجب الذي هو فيه الخ. (شامی نعمانیہ ۱/۳۵۲، کراچی ۱/۵۲۵)

وقال في موضع آخر الحاصل إن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يقوته؛ بل يأتي به ثم يتابعه الخ. (شامی ۱/۳۳۳، کراچی ۱/۴۹۶، زکریا دیوبند ۲/۲۰۰)

اور علامہ شامی نے اس کے بعد اس کی علت بھی بیان فرمادی ہے، خود دیکھ لیجئے گا، المختصر مذکورہ بالا عبارات سے مسبوق کے لئے اتمام تشہد کا مختار و اولیٰ ہونا معلوم ہو گیا،

كما لا يخفى على صاحب البصيرة والبصارة.

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ نمبر اول میں آپ کی رائے زیادہ صحیح ہے، کہ امام کی متابعت سنن میں علی الاطلاق واجب ہے، اور فرائض اور واجبات میں اس وقت واجب ہے؛ جبکہ کوئی فرض یا واجب معارض نہ ہو، بوقت تعارض متابعت کو مؤخر کر کے فرض یا واجب کو بجالانا ضروری ہے، عدم ادائیگی کی صورت میں نماز مع الکرہت درست ہو جائے گی۔

فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية. (حلبی کبیر، کتاب الصلوٰۃ، فصل الامامة، شروط المحاذات قدیم ۴۹۱، جدید اشرفیہ دیوبند ۵۲۷)

و الحاصل إن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة، فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابعه، لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها الخ (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب في إطالة الركوع للحائى، زكريا ۲۰۰/۲، كراچى ۴۹۶/۱) (وقوله) ولو يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية الخ. (شامی كراچى ۴۹۶/۱، زكريا ديوبند ۲۰۰/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ رزی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۷/۲۳۰)

تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بیٹھنے سے قبل امام سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے جماعت کی نماز میں شرکت کرنے کے لئے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے تھے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب سوال یہ ہے کہ شخص مذکور قعدہ کر

کے التحیات پڑھ کر چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے یا بغیر تعدہ کئے رکعتوں کو پورا کرے۔
نیز اس شخص کی شرکت جماعت کے ساتھ ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: قمرالحق دھام پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب تکبیر تحریمہ کہہ چکنے کے بعد امام نے سلام پھیر دیا ہے، تو مقتدی کی اقتداء صحیح ہوگی، اسی تحریمہ پر نماز پوری کرے گا؛ ہاں البتہ مقتدی مسبوق کے بیٹھنے سے قبل امام نے سلام پھیر دیا ہے؛ اس لئے بیٹھ کر التحیات نہیں پڑھے گا؛ بلکہ اسی قیام کے ساتھ نماز پوری کرے گا۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۳۲۲/۳، جدید زکریا ۴۳۸/۳، جدید زکریا مطول ۴۳۴/۴)

نية المؤتم الإقضاء (تحتہ فی الشامیة) أى الإقضاء بالإمام،
أو الإقضاء به فی صلاته، أو الشروع فیها، أو الدخول فیها، بخلاف نية
صلاة الإمام. وشرط النية، أن تكون مقارنة للتحريم (شامی، کتاب الصلاة،
باب الإمامة، زکریا ۲/۲۸۵، کراچی ۱/۵۵۰)

فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام تنقطع الأولى في
ضمن شروعه في صلاة الإمام (شامی، کتاب الصلاة، باب ادراك الفريضة،
مطلب قطع الصلاة يكون حراماً، و مباحاً، و مستحباً، و واجباً، زکریا ۲/۵۰۵،
کراچی ۲/۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۱/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۲۱۳/۳)

مسبوق نے حالت تشهد میں نماز میں شرکت کی اور امام تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو گیا

سوال [۲۵۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ گرامی قدر حضرت مفتی صاحب: اس وقت میرے مطالعہ میں آپ کی کتاب ایضاً المسائل ہے کافی حد تک اپنے حق میں مفید پایا؛ لیکن کتاب کے ص: ۱۳۲ پر مسبوق کے متعلق مسائل سے ایک قسم کی تشنگی پیدا ہو گئی ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص جماعت میں اس وقت شریک ہوا؛ جبکہ امام تشہد میں ہے اور اس کے بیٹھتے ہی امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا یا کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں جماعت میں شامل ہوا، اور اس کے بیٹھتے ہی امام نے سلام پھیر دیا، ان صورتوں میں مسبوق کیا کرے؟ قعدہ اولیٰ میں مسبوق التحیات مکمل کر کے امام کی اتباع کرے، اور قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرے، تو آپ نے ہر دونوں صورتوں میں التحیات پڑھنے کو واجب اور بغیر التحیات پڑھی جانے والی نماز کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے؛ جبکہ بدائع الصنائع اور بعض دوسری کتابوں میں امام کی اتباع کو واجب بتایا گیا ہے، اور ان مواقع پر التحیات پڑھنے والے کو مفسد نماز قرار دیا ہے، مہربانی فرما کر پوری وضاحت کے ساتھ حوالہ اور عبارت کی نشاندہی کے ساتھ مطمئن فرمائیں؟

المستفتی: ابو حارث عثمانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسبوق کے تشہد پڑھنے سے قبل امام کے

تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جانے یا چوتھی رکعت پر سلام پھیر دینے کے بعد مسبوق پر تشہد پڑھنا راجح قول کے مطابق واجب ہے، اگر بغیر پڑھے ہوئے کھڑا ہو گیا تو راجح قول کے مطابق اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور ان مواقع میں التحیات پڑھنے کو مفسد صلوة اور مکروہ کسی نے نہیں لکھا ہے، آنجناب نے ان مواقع میں التحیات پڑھنے کو مفسد صلوة بتایا ہے، بدائع الصنائع اور دیگر کتابوں کے حوالہ سے مفسد صلوة کہا ہے، ہم کو بدائع اور دیگر کسی کتاب میں ان مواقع میں التحیات پڑھنے کو مفسد صلوة قرار دینے کے جزئیات نہیں ملے؛ جیسے آنجناب نے

بدائع الصنائع وغیرہ کا ذکر کیا ہے، براہ کرم بدائع یا دیگر کتب فقہیہ کا جزئیہ نقل کر کے کتاب جلد صفحہ اور مطبع نقل فرمادیں؛ تاکہ ان جزئیات کو دیکھ کر غور کیا جاسکے، سوالنامہ میں جس انداز سے حوالہ پیش کیا گیا ہے، وہ غیر ذمہ دارانہ حوالہ ہے، ایسے حوالے کا اعتبار نہیں ہوتا۔

لو اقتدی بہ فی أثناء التشهد الأول أو الأخير، فحين قعد قام إمامه، أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد، ثم يقوم قوله ولو لم يتم جاز. أي صح مع كراهة التحريم، والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة، فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته؛ بل يأتي به ثم يتابعه، لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها وقوله، فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية..... إن المتابعة الواجبة هنا معناها عدم التأخير، فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية، فينبغي التعليل بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب. (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للحائى کراچی ۱/۴۹۶، زکریا ۲/۲۰۰)

وإذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدى من التشهد، فإن المقتدى يتم التشهد ثم يقوم وكذا لو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من التشهد فإنه يتم التشهد. (حانیه علی الہندیۃ، کتاب الصلوٰۃ، فصل فیمن یصح الاقتداء بہ ومفیمن لا یصح زکریا ۱/۹۶، جدید زکریا دیوبند ۱/۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ ربیع الاول ۱۴۲۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۷۷۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۴/۳/۱۴

مسبوق امام کے سلام پھیرنے کی صورت میں تشهد مکمل کرے گا یا نہیں؟

سوال [۲۵۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ امام قعدۂ اخیرہ میں تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا، اس شخص کے بیٹھتے ہی امام نے سلام پھیر دیا، تو اب یہ شخص تشہد پورا کر کے اپنی باقی نماز ادا کرے گا یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے گا، شریعت مطہرہ میں جو حکم ہو مدلل مع حوالہ تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد عمر ساکن فتح پور پوسٹ: کملا پور سینا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ امام کے سلام کے بعد اپنا پورا تشہد پورا کرے، اور تکمیل تشہد کے بعد کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرے، اور اگر تشہد چھوڑ کر امام کے سلام کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے، تو نماز تو ہو جائے گی؛ لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، آجکل دیکھنے میں آتا ہے کہ عام لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔

لو اقتدی بہ فی أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد امامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم الخ. (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للجائی، کراچی ۱/۹۶، ۴، زکریا ۲/۲۰۰)

(وقوله) ولو لم يتم جاز معناه صح مع كراهة التحريم الخ.

(شامی، کراچی ۱/۹۶، ۴، زکریا دیوبند ۲/۲۰۰)

ومن أدرك الإمام في التشهد فقام الإمام أو سلم في آخر الصلوٰۃ قبل أن يتم المقتدى تشهده قال الفقيه أبو الليث المختار عندي أنه يتم تشهده؛ لأن التشهد من الواجبات الخ. (فتاویٰ تاتار خانہ، کتاب الصلوٰۃ، الفصل الثالث فی کیفیت الصلوٰۃ، قدیم ۱/۵۵۵، جدید زکریا ۲/۱۹۲، رقم: ۲۱۱۲، ہکذا فی قاضی خان علی الہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، فصل فیما یصح الاقتداء وما لا یصح زکریا ۱/۹۶، جدید زکریا دیوبند ۱/۶۲، عالمگیری، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، الفصل السادس فیما یتابع الامام فیما لا یتابعہ زکریا

۹۰/۱، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۷ غنیۃ المستملی، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة
شروط المحاذات قدیم (۴۹۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۶۵/۲۶)

قعدہ اولیٰ میں شریک ہونے والا التحیات پوری کرے یا تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو؟

سوال [۲۵۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید امام ہے بکر مقتدی ہے، مقتدی اس حالت میں جماعت میں شریک ہوا کہ امام التحیات پڑھ رہا تھا، اس میں مقتدی کا التحیات کا پڑھنا اور اس کا پورا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ (۲) ایک شخص کہتا ہے کہ مقتدی پر لازم ہے کہ التحیات پوری کرے: اگرچہ امام کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ رکوع بھی کر لے۔

المستفتی: منشی صفدر حسین کرپور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) التحیات پڑھنا اور امام کی تابعداری کرنا دونوں واجب ہیں، اب مذکورہ صورت میں اگر التحیات پوری کئے بغیر امام کی اتباع کی جائے؛ تو ترک واجب لازم آتا ہے، اور اگر التحیات پوری کر کے اتباع کی جائے؛ تو تاخیر واجب لازم آتی ہے، تاخیر واجب اتنا مضرت نہیں ہے؛ جتنا نقصان ترک واجب میں ہوتا ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ زکریا ۳۷۳/۳۷)

فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية. (غنية المستملی، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی الامامة شروط المحاذات قدیم ۴۹۱، جدید اشرفیہ دیوبند ۲۷/۵، شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للحائى کراچی ۱/۴۹۶، زکریا ۲/۲۰۰)

اس لئے بعض فقہاء نے التحیات کا پڑھنا اور پوری کرنا واجب کہا ہے:

ولو قام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدى التشهد، فإنه يتم ثم يقوم لأن التشهد واجب الخ. (غنية المستملی ۴۹۱، بل يتمه لوجوبه الخ. الدرالمختار ۳۶۶/۱)

لیکن اگر تشہد پورا کئے بغیر امام کا اتباع کرے تو بالاتفاق نماز صحیح ہو جائیگی؛ البتہ بعض فقہاء نے کراہت تحریمی کے ساتھ صحیح کہا ہے۔

ولو لم يتم جاز أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده الخ. (شامی، کراچی ۴۹۶/۱، کوئٹہ ۳۶۶/۱، زکریا ۲۰۰/۲) اور بعض فقہاء بلا کراہت صحیح کہتے ہیں:

وإن لم يتم جاز لتعارض واجبين فیتخیر بينهما هذا هو المشهور فی المذهب. (طحطاوی علی المراقی، کتاب الصلوة فصل فیما یفعله المقتدی بعد فراغ امامه قدیم ۱۶۰، جدید، دارالکتاب دیوبند ۳۱۰)

عن أبي الليث المختار عندي أنه يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه الخ (شامی کوئٹہ ۳۶۶/۱، کراچی ۴۹۶/۱، زکریا ۲۰۰/۲، عالمگیری، باب الامامة، الفصل السادس فیما یتابع الامام و فیما لا یتابعه زکریا ۹۰/۱، جدید زکریا ۱۴۷/۱)

اس لئے افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ تشہد ہر حال میں پورا کر کے امام کی پیروی کرے۔
فإن المقتدى يتم التشهد ثم يقوم الخ. (قاضی خان علی الہندی، کتاب الصلوة، فصل فیما یصح الاقتداء وما لا یصح زکریا ۹۶/۱، جدید زکریا ۶۲/۱، شامی ۳۶۶/۱، زکریا ۲۰۰/۲، کبیری ۴۹۱، صغیری مطبع محبتی دہلی ۲۶۸، امداد الفتاویٰ زکریا ۴۰۲/۱، ۵۱۱، فتاویٰ دارالعلوم ۳۸۹/۳)

(۲) شامی میں ایسا ہی لکھا ہے۔

فإنه لا يتابعه أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما

صرح بہ فی الظہیریۃ الخ. (شامی، مطبوعہ کوئٹہ ۱/۳۶۶، کراچی ۱/۴۹۶،
زکریا ۲/۲۰۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۶۲۰)

مسبق تشہد مکمل کرے یا امام کی متابعت میں کھڑا ہو جائے؟

سوال [۲۵۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام قعدہ اولیٰ میں بیٹھ کر تشہد پڑھ رہا تھا؛ اتنے میں ایک شخص آیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا، اس شخص کے بیٹھتے ہی امام تشہد پورا کر کے کھڑا ہو گیا؛ تو اب یہ شخص تشہد پڑھ کر کھڑا ہوگا یا بغیر تشہد پڑھے امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا؛ اس لئے کہ یہاں اس شخص پر اتباع امام بھی واجب ہے اور قعدہ و تشہد پڑھنا بھی واجب ہے تو وہ کیا کرے؟

المستفتی: محمد عمر مدرس مکتب اسلامیہ نور العلوم، جیوٹی شاہ عالم پور کملا پور، بیتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسے حالات میں اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اولاً قعدہ اور تشہد پورا کرے پھر اس کے بعد امام کی اتباع کرے، اور اصول و قاعدہ یہ ہے کہ جب نمازی پر دو واجب ایک ساتھ جمع ہو جائیں؛ تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ ایک میں تاخیر کرنا اور دوسرے کو پورا کرنا لازم ہے، اور یہاں اتباع امام بھی واجب ہے اور قعدہ اولیٰ اور تشہد بھی واجب ہے؛ تو اگر امام کی اتباع کرتا ہے تو ترک تشہد اور ترک قعدہ لازم آتا ہے، اور اگر قعدہ اور تشہد پورا کرتا ہے؛ تو ترک اتباع امام لازم نہیں آتا ہے؛ بلکہ اتباع میں تاخیر لازم آتی ہے، اور ایسے حالات میں تاخیر واجب جائز ہے، ترک واجب جائز نہیں اور اگر اتباع امام کر کے قعدہ و تشہد ترک کر دیتا ہے؛ تو نماز فاسد

وواجب الاعادہ تو نہ ہوگی؛ لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲۶۳/۱، زکریا ۲/۱-۵۱۱، احسن الفتاویٰ زکریا ۳/۳۶۷، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۳/۳۰۱، جدید زکریا ۲۸/۵، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲/۲۵۷، جدید ڈیجیٹل ۶/۵۶۰)

لو اقتدیٰ به فی أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه
أوسلم ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم الخ.

الحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض و الواجبات من غير تأخير
واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغى أن يفوته بل يأتي به ثم يتابعه لأن
الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه
تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك
أحدهما بالكلية الخ. (قوله) ولو لم يتم جاز معناه صح إطالة مع كراهة
التحريم ويدل عليه أيضاً تعليلهم بوجوب التشهد الخ. (شامی، كتاب
الصلوة، باب صفة الصلوة، مطلب في إطالة الركوع للحنائي زكريا ۲/۲۰۰، كراچی
۱/۹۶/۴ فتاویٰ تاتار خانیه، كتاب الصلوة، الفصل الثالث في كيفية الصلوة قديم
۱/۵۵۵، جديد زكريا ۲/۱۹۲، رقم: ۲۱۱۲، فتاویٰ عالمگیری، كتاب الصلوة،
باب الامامة الفصل السادس، فيما يتابع الامام وفيما لا يتابعه زكريا ۱/۹۰، جديد
زكريا ۱/۱۴۷ فتاویٰ قاضي خاں علی الهنديه، كتاب الصلوة، فصل فيما يصح الأقتداء
وما لا يصح زكريا ۱/۹۶، جديد زكريا ۱/۶۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۱/۶/۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۲۲۵۳)

مسبوق تعدد اخیرہ میں امام کے ساتھ کیا پڑھے

سوال [۲۵۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مقتدی کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ گئی تو وہ امام کے ساتھ آخری قعدہ میں کیا پڑھے گا۔

المستفتی: محمد شعیب شاہ آباد راپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وہ امام کے ساتھ صرف التحیات پڑھے گا، اور یہ تشہد کا پڑھنا مقتدی مسبوق پر امام کی متابعت میں واجب ہے، اس کے بعد خاموش رہے، درود شریف اور دعائے پڑھے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳۰۲/۱-۵۱۱/۱، فتاویٰ دارالعلوم ۳۸۹/۳، احسن الفتاویٰ ۳۸۱/۳)

مالو اقتدی بہ فی أثناء التشہد الاول أو الأخير فحين قعد قام إمامہ، أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشہد ثم يقوم الخ. (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للجائی زکریا ۲/۲۰۰، کراچی ۱/۹۶، مطبوعہ کوئٹہ ۱/۹۳۶۶)

فإن المقتدی يتم التشہد، ثم يقوم. (قاضی خان، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ ۱/۹۶، جدید زکریا دیوبند ۱/۶۲، صغیری مطبع مجتہائی دہلی ۲۶۸، کبیری، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة شروط المحاذات قديم ۱/۹۱، جدید، اشرفیہ دیوبند ۵۲۷، فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلوٰۃ، الفصل السابع فی المسبوق واللاحق زکریا ۱/۹۰)

وأما المسبوق فیترسل لیفرغ عند سلام إمامہ الخ. (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، زکریا ۲/۲۲۰، کراچی ۱/۵۱۱، مطبوعہ کوئٹہ ۱/۳۷۷، مصری ۱/۴۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۴/۶۸۸)

مسبوق اپنی بقیہ رکعت میں سے کس رکعت میں سورۃ ملائے

سوال [۲۵۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی شخص نے امام کے ساتھ چار رکعت والی فرض نماز میں ایک رکعت پائی پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوا؛ تو سورۃ ملائے گا یا نہیں؟ اگر ملائے گا تو کس کس رکعت میں ملائے گا؛ نیز ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ مدلل جواب مطلوب ہے۔

المستفتی: محمد افتخار دیواری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں وہ شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ثنا پڑھے پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھے اور رکوع اور سجدہ کر کے قعدہ کرے، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھے، مگر اس رکعت کے بعد قعدہ نہ کرے، اور تیسری رکعت میں فقط سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر دستور کے موافق قعدہ اخیرہ کر کے نماز پوری کرے۔ (مستفاد فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۳۳۴/۲، جدید زکریا ۱۵۴/۵)

والمسبوق من سبقہ الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتی ایشنی و يتعوذ و يقرأ. (در مختار مع شامی، کتاب الصلوٰۃ باب الامامۃ، مطلب فيما لو أتى بالركوع والسجود أو بهما کراچی ۱/۵۹۶، زکریا ۲/۳۴۶، ۲/۳۴۷)

فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركتين بفاتحة و سورة و تشهد بينهما، و برابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها. (در مختار مع الشامی، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامۃ، مطلب فيما لو أتى بالركوع و السجود أو بهما زکریا کراچی ۱/۵۹۶، ۲/۳۴۷)

ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة

و السورة و يتشهد و يقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل. (ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، الفصل السابع فی

المسبوق واللاحق زکریا ۱/۹۱، جدید ۱/۱۴۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۴/۲۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۲۹/۳۵)

مسبوق چھوٹی ہوئی رکعت میں کونسی سورت پڑھے؟

سوال [۲۵۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی شخص کی جہری نماز میں پہلی رکعت چھوٹ گئی، تو کیا امام کی پڑھی ہوئی سورت سے اوپر والی سورت پڑھ سکتا ہے یا نہیں، مثلاً امام نے سورۃ العنکبوت پڑھی تھی، تو اب اس سے اوپر والی سورۃ قارعہ پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد اظہار سنجل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسبوق چھوٹی ہوئی نماز میں جو سورۃ چاہے پڑھ سکتا ہے، امام کی پڑھی ہوئی سورۃ سے نیچے کی سورت پڑھنا ضروری نہیں، اوپر کی بھی پڑھ سکتا ہے۔ (مستفاد فتاویٰ دارالعلوم زکریا ۳/۳۷۷)

عن ابن مسعود في الرجل يفوته بعض الصلاة مع الإمام، قال: يجعل ما يدرک مع الإمام آخر صلواته. (المعجم الكبير للطبرانی دار احیاء تراث للعربی ۲۷۴/۹، رقم: ۹۳۶۹)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل ما أدرکت واقض ما سبقك. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب اتيان الصلوٰۃ، النسخة الهندية ۱/۲۲۰، بيت الأفكار رقم: ۶۰۲)

والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها، وهو منفرد فيما يقضيه،
ويقضي أول صلاته في حق قراءة و آخرها في حق تشهد. (تنوير الابصار مع
الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب لو أتى بالركوع، أو السجود، أو بهما
كراجی ۱/۵۹۶، زکریا ۲/۳۴۶، ۳۴۷)

ومنها أنه يقضي أول صلاته في حق قراءة و آخرها في حق تشهد.
(هنديہ، كتاب الصلوة، باب الامامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق زکریا ۱/۹۱،
جدید ۱/۱۴۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۵/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۳۲/۲۸)

مقتدی کا بھول سے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت میں شریک نہ ہونا

سوال [۲۵۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید امام کے ساتھ نماز میں شریک تھا، امام نے سجدہ تلاوت کیا، زید یہ سمجھ کر کہ
امام نے رکوع کیا ہے، رکوع میں چلا گیا، جب امام سجدہ سے اٹھا تو تنبہ ہوا اور بقیہ نماز امام
کے ساتھ مکمل کی، کیا زید کی اقتداء اور نماز درست ہوئی یا نہیں؛ جبکہ اس نے سجدہ تلاوت نہیں
کیا، صورت حال کے معلوم ہونے پر اس کو کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: محمد عمر لکھنوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بے خبری میں رکوع میں چلا گیا ہے
اور پورے رکوع میں اس کو پتہ نہیں چلا؛ یہاں تک کہ امام سجدہ سے اٹھ گیا؛ جیسا کہ سوال نامہ
میں مذکور ہے؛ تو ایسی صورت میں اب زید کو کچھ نہیں کرنا ہے، زید کی نماز صحیح ہوگئی، اور امام

کے ساتھ اقتداء میں بھی کوئی خرابی نہیں آئی، اور اگر امام کے سجدہ کی حالت میں اس کو پتہ چل گیا ہوتا تو اسے رکوع کی حالت میں رکوع توڑ کر سجدہ میں چلا جانا ضروری تھا۔

تلا سجدة وسجد فظن المؤمنون، أنه ركع فركعوا وسجدوا
لم تفسد صلواتهم، وإن سجدوا أخرى فسدت لزيادة ركعة تامة هنا. (حلیہ

كبير، أحكام المساجد، مسائل شتی، اشرفیہ دیوبند ۶۱۸)

ولو سجد لها أي للتلاوة، فظن القوم أنه ركع، فمن ركع رفضه،
وسجد لها ومن ركع وسجد سجدة أجزأته عنها، ومن ركع وسجد
سجدتين فسدت صلاته؛ لأنه انفراد بر كعة تامة. (در مختار مع الشامی،
باب سجود التلاوة، زکریا دیوبند ۵۸۸/۲، کراچی ۱۱۲/۲، تقریرات رافعی زکریا
و کراچی ۱۰۶/۲، عالمگیری، کتاب الصلوة، الباب الثالث، عشر فی سجود التلاوة
زکریا ۱۳۴/۱، جدید ۱۹۴/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۵/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۶۷۶۵)

دوران صلوة مقتدی کا سوجانا

سوال [۲۵۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ ایک مقتدی امام کی اقتداء میں شریک جماعت ہے، اتفاقیہ مقتدی کو نماز میں قیام میں نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو امام کو سجدے میں پایا مقتدی نے اپنا رکوع ادا کرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شرکت کر لی، ایسی حالت میں مقتدی کی نماز ہوگئی یا نہیں؟

(۲) مقتدی اس چیز کا عادی ہو گیا ہے کہ اکثر وہ نماز میں سوجاتا ہے اور کبھی رکوع

کبھی سجدہ اس کا نکل جاتا ہے؛ تو ایسی حالت میں اس کی نماز ہو جائیگی یا نہیں؟

المستفتی: محی الدین احمد سپہر محلہ حکیم پورہ بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز ہوگئی۔

واللاحق الغير المسبوق هو الذي أدرك الركعة الأولى وفاتته ركعة، أو أكثر منها بعدد كنوم، أو حدث (إلى قوله) وحكمه أنه إذا زال عذره، فإنه يبدأ بمابقضاء فاتته بالعذر، ثم يتابع الإمام إن لم يفرع الخ. (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الامامة، زكريا ۱/۶۲۳، كوئته ۱/۳۵۶، شامی، كتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع، و السجود، أو بهما مع الامام أو قبله أو بعده، زكريا ۲/۳۴۵، كراچی ۱/۵۹۵، كوئته ۱/۴۴۰)

وحكمه أن يقضي ما فاتته أو لا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ. (شامی ۱/۴۴۰، كبرى، كتاب الصلوة، فصل في سجود السهو، قديم ۱/۴۴۱، جديد، اشرفيه ديوبند ۴۶۹، هكذا في الهنديه، كتاب الصلوة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق ۱/۹۲، جديد ۱/۱۵۰-۱۵۱)

(۲) نماز میں نیند کا آجانا عادت کی بنا پر نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ بلا اختیار ہوتا ہے؛ اس لئے فقہاء نے معذور قرار دیا ہے؛ جیسا کہ اوپر دلائل گزر چکے ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/ ذی قعدہ ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۳۲۳)

جلوس کے شور کی وجہ سے مقتدی سجدہ ہی میں رہ گئے اور امام نے سلام پھیر دیا تو کیا کریں؟

سوال [۲۵۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ شاہی مسجد میں نماز ہو رہی تھی، دوران نماز سڑک پر سے جلوس نکلا اور جلوس کے

شور کی وجہ سے مقتدیوں کو امام صاحب کی تکبیر اور نقل و حرکت کا پتہ نہیں چلا، امام صاحب سجدے میں تھے آواز نہ سننے کی وجہ سے بعض لوگ سجدے میں ہی رہ گئے، اور امام صاحب نے دوسری رکعت پوری کر لی اور جب دوسری رکعت کے سجدے میں جانے لگے، تو مقتدیوں کو پتہ چلا، اب مقتدی تین قسم کے ہو گئے، ایک وہ ہیں جنہوں نے رکوع قومہ وغیرہ کر کے امام کو سجدہ میں پالیا، اور دوسرے وہ ہیں جو ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے؛ لیکن قیام اور رکوع نہ کیا، تیسرے وہ ہیں جنہوں نے قیام تو کیا؛ لیکن رکوع نہ کیا اور سجدے میں چلے گئے، ان میں سے کس کی نماز ہوئی اور کس کی نماز نہیں ہوئی، مدلل تحریر کریں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں تینوں قسم کے لوگ لاحق ہیں، ان میں سے پہلی قسم کے لوگوں کی نماز درست ہوگئی؛ چونکہ انہوں نے اپنے فوت شدہ ارکان پورے کرنے کے بعد امام کی اتباع کر لی، دوسری اور تیسری قسم کے لوگ اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے فوت شدہ ارکان ترتیب سے پورے کر لیں، تو ان کی نماز درست ہو جائے گی ورنہ درست نہ ہوگی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ زکریا ۳۷۵/۳۷۶)

فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءه
فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة وإن فرغ منها الإمام صلاحها وحده بلا
قراء أيضاً فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح. (شامی
زکریا، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع، و السجود، أو بهما مع
الامام أو قبله أو بعده، ۳۴۵/۲، شامی، کراچی ۵۹۵/۱، البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب
الامامة، زکریا ۶۲۳/۱، کوئٹہ ۳۵۶/۱)

إذا كبر مع الإمام ثم نام حتى صلى الإمام ركعةً ثم انتبه، فإنه يصلي
الركعة الأولى، وإن كان الإمام يصلي الركعة الثانية. ولو لم يشتغل
بقضاء ما سبقه الإمام؛ و لكن يتابع الإمام أولاً ثم قضى ما سبقه الإمام بعد

تسلیم الإمام جازت صلواته عندنا. (ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الفصل السابع فی المسبوق واللاحق زکریا ۱/۹۲، جدید ۱/۱۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ رزی الحجۃ ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۲۵/۴۰)

مدرک امام کے سلام پر اپنے کو مسبوق سمجھتے ہوئے کھڑا ہو جائے پھر لوٹ آئے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۵۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص مدرک ہے، امام صاحب کے ساتھ شروع سے داخل ہے، جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا؛ تو یہ شخص اپنے آپ کو مسبوق سمجھ کر کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرا، جب پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو اس کو یاد آیا اور اس نے لوٹ کر سجدہ سہو کر لیا؛ تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد نعیم ہاپوڑی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو شخص مدرک تھا؛ لیکن امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرا اور اپنے آپ کو مسبوق گمان کر کے پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا؛ لیکن یاد آنے پر سجدہ کرنے سے پہلے پہلے لوٹ کر سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز درست ہے۔

ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة مالم يسجد
للخامسة و سلم. ويسجد للسهو استحساناً. هداية، كتاب الصلوٰۃ، باب سجود
السهو ۱/۱۵۹، مکتبہ اشرفیہ دیوبند۔

وإن قعد الأخيرة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم من غير إعادة
التشهد و سجد للسهو. (مراقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود السهو ۱۸۰،

مع حاشیہ الطحطاوی، دارالکتاب دیوبند (۴۷۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۵ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۱۶/۴۰)

مسبوق نے صرف ایک رکعت پائی تو باقی نماز کس طرح پڑھے گا؟

سوال [۲۵۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مسبوق ہے، اس کو صرف ایک رکعت ملی ہے، اور اس کو باقی تین رکعت مسبوق بن کر پوری کرنی ہے؛ تو ان تین رکعتوں میں کتنی رکعت میں قرأت کرے گا، اور کون کون سی رکعت میں قرأت کرے گا؟

المستفتی: محمد سعد اللہ، بھگل پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس شخص کو امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی ہو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ضم سورہ کرے گا، اور تیسری رکعت میں جو کہ آخری رکعت ہے؛ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور پہلی رکعت پڑھ کر قعدہ بھی کرنا ہوگا؛ اس لئے کہ پہلی رکعت عملاً دوسری رکعت ہے؛ البتہ قرأت کے حق میں پہلی رکعت ہے۔ (مستفاد: محمودیہ ڈبھیل ۵۶۵/۶، محمودیہ میرٹھ ۴۲۳/۱۰)

فمدردک رکعة من غیر فجر یأتی بر کعتین بفاتحة و سورة و تشهد بینہما و بابعة الرباعی بفاتحة فقط. (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، مطلب فیما لو اتی بالركوع، والسجود، أو بهما، زکریا ۳۴۷/۲، شامی، کراچی ۵۹۶/۱)

لو أدرك مع الإمام ركعة في ذوات الأربع، فقام إلى القضاء قضى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و سورة. ويتشهد، ثم يقوم فيقضي ركعة

أخرى ويقرأ فيها بفتحة الكتاب وسورة ولو ترك القراءة في إحداهما تفسد صلاته لما قلنا وفي الثالثة هو بالخيار والقراءة أفضل على ما عرف.

(بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، حكم المسبوق قديم ۱/ ۲۴۹، جديد زكريا ۱/ ۶۷، ۵ كراچی ۱/ ۲۴۹، هندیہ، كتاب الصلوة، باب الامامة، الفصل السابع فى المسبوق واللاحق زكريا ۱/ ۹۱، جديد ۱/ ۱۴۹، حليبي كبير، كتاب الصلوة، قبيل فروع سبق بركة اشرفيه ديوبند ۴۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۹ صفر ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۵۴۴۰)

مغرب کی ایک رکعت پانے والا دوسری رکعت میں قعدہ کرے گا؟

سوال [۲۵۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا، ایک رکعت اس کو امام کے ساتھ مل گئی، اب دوسری رکعت میں اس کو قعدہ کرنا واجب ہے یا اولیٰ اور افضل ہے، جواب سے نوازیں؛ نیز دونوں مذکورہ بالا سوالوں کے جوابات مدلل اور حوالوں کے ساتھ مطلوب ہیں۔

المستفتی: شمس الحق قاسمی مدرسہ ضیاء العلوم موتی مسجد مراد آباد
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس میں قعدہ کرنا واجب نہیں ہے؛ بلکہ اولیٰ اور افضل ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/ ۳۸۳)

ويقضى أول صلواته في حق قراءة وآخرها في حق تشهد فمدرک رکعة من غير فجر يأتي بركتين بفتحة وسورة وتشهد بينهما وتحتة في الشامي ولو لم يقعد جاز استحساناً لا قياساً ولم يلزمه سجود السهو لكون

الركعة أولی من وجه الخ. (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب فيما لوأتى بالركوع والسجود، أو بهما، زكريا ۲/۳۴۷، كراچی ۱/۵۹۷)
 حتى لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب، فإنه يقرأ في الركعتين الفاتحة، والسورة، ويقعد في أولهما؛ لأنها ثنائية، ولو لم يقعد جاز استحساناً، لا قياساً. (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة، زكريا ۱/۶۶۴، كوئٹہ ۱/۳۷۹)۔

وإذا أدرك الرجل ركعة مع الإمام من المغرب، فلما سلم الإمام قام يقضي، قال: يصلى ركعة ويقعد، وهذا استحسان، والقياس يصلى ركعتين ثم يقعد (المبسوط للسرزي، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة، دار الكتب العلمية بيروت ۱/۱۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۱۲/۴/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۶۵۲۲۷)

رباعی نماز میں مسبوق اپنی بقیہ تین رکعت کس طرح پوری کرے؟

سوال [۲۵۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام کیساتھ اور مقتدی نماز رباعی میں اخیر رکعت میں شریک ہو، تو مقتدی امام کے سلام کے بعد تینوں رکعتوں میں کیا پڑھے، تینوں رکعتوں میں خاموش رہے یا قرأت کرے؟
 المستفتی: نور محمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس شخص کو ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہے، وہ مسبوق ہے، وہ اپنی رباعی نماز اس طرح پوری کرے کہ دو رکعت میں فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے اور ایک رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔

لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة، ثم يتشهد، ثم بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة وقالوا ركعة بفاتحة وسورة و تشهد، ثم يأتي ركعتين أولاً هما بفاتحة وسورة وثانيتها بفاتحة خاصة. (شامی، کتاب الصلوة، باب الامامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع، والسجود، أو بهما، کراچی ۱/۵۹۷، زکریا ۲/۳۴۷)

ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليها أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد، وفي الثلاثة بالخيار والقراءة أفضل. (هندي، كتاب الصلاة، باب الإمامة الفصل السابع في المسبوق واللاحق زكريا ۱/۹۱، جديد ۱/۱۴۹)

لو أدرك مع الإمام ركعة في ذوات الأربع فقام إلى القضاء قضى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. ويتشهد، ثم يقوم، فيقضي ركعة أخرى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة وفي الثالثة هو بالخيار والقراءة أفضل على ما عرف. (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، حكم المسبوق قديم ۱/۲۴۹، جديد زكريا ۱/۵۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۵/۱۴۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶/جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۶۹۱)

مسبوق پر دعاء قنوت کون سی رکعت میں واجب ہے؟

سوال [۲۵۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مقتدی کے لئے تشہد کا کیا حکم ہے اور ترکی جماعت میں مسبوق پر دعاء قنوت کونسی رکعت میں واجب ہے، امام کی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ پڑھی ہوئی کافی ہے یا بعد میں پڑھنی واجب ہے؟

المستفتی: محمد یونس جامع مسجد احمد گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مقتدی پر بھی تشہد پڑھنا واجب ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۵۸/۴)

ویجب قراءة التشهد فيه الخ (طحطاوي، کتاب الصلاة، فصل في بيان

واجب الصلاة، دارالکتاب دیوبند جدید ۲۵۱، قدیم ۱۳۷)

اگر تیسری رکعت میں امام کے ساتھ پوری قنوت پڑھ لیا تھا تو بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اگر امام کے ساتھ پوری نہیں پڑھ سکا ہے، تو بعد میں قنوت پڑھنا لازم ہوگا۔

واما المسبوق فیقنت مع إمامه فقط الخ. (درمختار، کتاب الصلاة، باب

الوتر والنوافل، زکریا ۲/۴۸، کراچی ۱۰/۲)

حتى لو أدرك ثالثة الوتر فقنت مع الإمام لا یقنت فيما یقضي بالإجماع.

(منحة الخالق، کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، زکریا ۱/۶۶۴، کوئٹہ ۱/۳۷۹)

كما لو قنت المسبوق معه في الثالثة أجمعوا أنه لا یقنت مرة أخرى،

فيما یقضيه لأنه غير مشروع. (حاشیہ الطحطاوي علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة،

باب الوتر وأحكامه، دارالکتاب دیوبند جدید ۳۸۵، ۳۸۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۷/۲۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۵۸/۲۹)

امام کا نقص مقتدی مسبوق کا نقص ہے

سوال [۲۵۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: (۱) کہ امام صاحب نے جہری نماز میں سورہ فاتحہ نصف آہستہ پڑھی

اور سجدہ سہو کرنا بھول گئے، خیر بتانے پر انفرادی طور پر یعنی اس نماز کا اعادہ کر لیا گیا، مگر ان

امام صاحب کے ساتھ ایک صاحب اخیر رکعت میں شریک ہوئے اور امام صاحب اور جو نمازی شروع ہی سے نماز میں شریک تھے، انہوں نے نماز کا اعادہ کر لیا، تو کیا اس مسبوق پر نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

(۲) امام صاحب کی نماز میں جو نقص پیدا ہو گیا ہو وہ نقص مقتدی مسبوق کے حق میں بھی شمار کیا جائے گا یا نہیں اگر امام کا نقص مقتدی کا نقص نہیں ہے، تو وہ مسبوق جو امام صاحب کی اقتداء کر رہا ہے، یہ امام صاحب کی اقتداء میں ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو کیوں؟

المستفتی: مسعود الحسن رشیدی سہیو رجبور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس مسبوق پر بھی مذکورہ صورت میں نماز کا

اعادہ لازم تھا۔

فأما المسبوق فقد التزم بالافتداء أي الإمام متابعتہ بقدر ما هو صلاة الإمام، وقد أدرك هذا القدر، فيتابعه فيه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۱۷۶/۲، كوئٹہ ۹۹/۲، بدائع الصنائع ۱/۴۲۱)

وسهو الإمام يوجب السجود عليه وعلى المقتدي لأن متابعة الإمام واجبة، قال: النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا إمامكم على أي حال وجدته، ولأن المقتدي تابع للإمام. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب، زكريا ۱/۴۲۰، قديم كراچي ۱/۱۷۵)

امام صاحب کی نماز میں پیدا شدہ نقص کو مقتدی مسبوق کا نقص شمار کیا جائے گا؛ لہذا جب امام صاحب کے ذمہ سجدہ سہو لازم آئے گا، تو مقتدی مسبوق پر بھی لازم آئے گا۔

وسهو الإمام يوجب على المؤمن السجود، قوله ”على المؤمن“ وإن كان مسبوقاً. (الهداية مع الدراية، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفي ۱/۱۵۸، تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، مكتبہ امدادیہ

ملتان ۱/۱۹۵، زکریا ۱/۴۷۷، ۴۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱ جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۵۳۱۴/۳۳)

مسبوق مقتدی سجدہ سہو میں شریک ہوگا یا نہیں؟

سوال [۲۵۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام کو سجدہ سہو کی ضرورت پیش آجائے، تو مسبوق مقتدی سجدہ سہو میں شریک ہوگا یا نہیں، اگر نہیں ہوگا تو ہونے کی صورت میں کیا حرج لازم آئے گا؟

المستفتی: محمد جاوید بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام کو سجدہ سہو کی ضرورت پیش آجائے تو مسبوق پر لازم ہے کہ وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہو: البتہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا صرف سجدہ سہو میں شریک ہوگا، پھر امام کے ساتھ دوبارہ تشهد پڑھے گا اور جب امام آخری سلام پھیرے گا تو مسبوق اپنی مابقیہ رکعت پڑھنے کے لئے کھڑا ہو جائے گا۔
 والمسبوق یسجد مع إمامه مطلقا سواء كان السهو قبل الإقضاء وأبعده (قال في الشامية) قيد بالسجود، لأنه لا يتابعه في السلام؛ بل يسجد معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، کراچی ۲/۸۲، زکریا ۲/۵۴۶)

المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو، وإن كان وقوع السهو منه قبل إقضاءه. (غنية المستملى، كتاب الصلاة، فصل في سجود السهو، سهيل اكيڈمي لاہور ۴۶۵، ۴۶۶)

المسبوق أو المقيم خلف المسافر حيث يتابع الإمام في سجود السهو،

ثم يشتغل بالإتمام. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب زكريا ۱/ ۳۲۱، قديم كراچي ۱/ ۱۷۵، مجمع الانهر، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالكتب العلمية بيروت ۱/ ۲۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹/ جمادی الاوٰی ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۱۲۴)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹/۵/۱۴۳۲ھ

امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کے متنبہ کرنے پر دوسری منزل والوں کا سلام پھیرنا

سوال [۲۵۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی مسجد میں مانگ سے نماز ہو رہی ہے اور کچھ افراد مسجد کے اوپری حصہ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور آخری رکعت میں بجلی کے چلے جانے یا کسی اور بنا پر اوپر والوں کو سلام کی اطلاع نہ پہنچ سکی تو پھر کچھ دیر بعد کسی کی اطلاع کے بعد معلوم ہوا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اس اطلاع سے ان لوگوں نے بھی سلام پھیر دیا اور جن لوگوں کی رکعت چھوٹ گئی تھی وہ اپنی نماز پوری کرنے کھڑے ہو گئے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد کفام، متولی مسجد بکرقصاب مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے اوپری حصہ میں جو لوگ تھے، انہوں نے اگر اس درمیان میں منافی صلوة کوئی عمل نہیں کیا ہے؛ بلکہ متنبہ ہوتے ہی سلام پھیر دیا ہے اور مسبوق لوگ بقیہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں سب کی نماز صحیح اور درست ہو چکی ہے۔

رکعة أو أكثر منها بعذر كنوم، أو حدث، أو غفلة، أو زحمة،

اولاًنہ من الطائفة الأولى في صلوة الخوف، و حكمه أنه إذا زال عذره، فإنہ يبدأ بقضاء مافاتہ بالعذر، ثم يتابع الإمام (إلى قوله) وإن بعد فراغ الإمام صلى الرابعة وحدها بلا قراءة أيضاً، لأنه لاحق، فلو تابع الإمام، ثم قضى الثالثة بعد فراغ الإمام صحح الخ. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمام، زكريا ۱/۶۲۳، كوئته ۱/۳۵۶، شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع والسجود، أو بهما مع الإمام، أو قبله، أو بعده، زكريا ۲/۳۴۵، كراچی ۱/۵۹۵، هنديہ، كتاب الصلاة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، زكريا ۱/۹۱، جديد ۱/۱۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ذی قعدہ ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۵۰۴۱)

دوران نماز ترح خارج ہو جائے تو وضو کے بعد ما بقیہ نماز کس طرح ادا کریں؟

سوال [۲۵۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پوری ہوئی تھی کہ ترح خارج ہوگئی جلدی سے وضو کر کے پھر نماز میں شریک ہو گیا اس درمیان دو رکعت یا ایک رکعت مزید ہوگئی امام کے ساتھ بقیہ نماز میں شریک ہو گیا تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا چھوٹی ہوئی نماز جس وقت وہ وضو کرنے گیا تھا انہیں پھر سے پڑھے گا یا نہیں شرعی حکم سے مطلع فرمائیں؟

المستفتی: عبداللہ الالباع مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسے شخص کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھنے کے بعد وضو کے درمیان جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھیں ان کو مکمل کرے؛ لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کے بعد نئے سرے سے نماز پڑھے یعنی وضو کر کے امام کے ساتھ شامل

ہو جائے پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ نماز مکمل کرے؛ اس لئے کہ غیر عالم مسائل حدیث اور مسائل بناء پر پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہیں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصابه قيئي، أو عاف، أو قلنس، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. (سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ماجاء في البناء على الصلاة، النسخة الهنديه ۸۵، دارالسلام: ۱۲۲۱)

عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في من يحدث في الصلاة، النسخة الهنديه ۱/۲۷، رقم: ۲۰۵)

من سبقه حدث توضأ وبني ولا يعتد بالتي أحدث فيها ولا بد من الإعادة، والاستئناف أفضل كذا في المتون وهذا في حق الكل عند بعض المشائخ. (عالمگیری، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة جديد ۱/۱۵۲، زکریا ۱/۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۳/۱۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/۸۷۷۷)



(۱۲) باب القراءۃ

مغرب، عشاء، فجر میں جہر اور ظہر و عصر میں سر کی عقلی و نقلی دلیل

سوال [۲۵۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تین نمازوں مغرب، عشاء اور فجر میں جہر کا حکم ہے اس کی کیا وجہ ہے، ظہر و عصر میں سر اقرأت کا حکم کیوں ہے، عقلی و نقلی وجوہ بیان فرما کر تشفی بخش جواب سے نوازیں؟

المستفتی: عبدالمعید، بجنور، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: امام پر مغرب و عشاء اور فجر میں جہر اور ظہر و عصر میں سر اقرأت کرنا واجب ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آقاء نامدار علیہ السلام نے ہمیشہ اسی پر موافقت کی ہے، اس کے خلاف آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ نیز یہی طریقہ توارث کے ساتھ منقول ہے۔

عن ابن شہابؓ، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كليهما، ويقراء في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأمر القرآن وسورة في كل ركعة سراً في نفسه، ويقراء في الركعتين الأخيرين من صلاة الظهر بأمر القرآن في كل ركعة سراً في نفسه، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب، ويقراء في كل واحد منهما بأمر القرآن وسورة، ويقراء في الركعة الآخرة من صلاة المغرب القرآن في نفسه، ثم يجهر بالقراءة في الركعتين من صلاة العشاء، بأمر القرآن في كل ركعة وسورة سورة، ويقراء في الركعتين

الآخرتین في نفسه بأمر القرآن وينصت من وراء الإمام. الحديث (المراسيل لأبي داؤد ٦٠٦، رقم الحديث: ٤٠٠)

ومن الواجب الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه بها كالفجر، والجمعة، والعيدين، وأولي المغرب، والعشاء، وكالتراويح، والوتر، فإن الجهر في جميع ذلك واجب على الإمام ومنها المخافة بالقراءة فيما يخافة فيه بها كغير ما ذكر فإن الجهر والمخافة في محله واجب للمواظبة منه عليه الصلاة والسلام على ذلك. (حلي كبير، كتاب الصلاة، باب واجبات الصلاة، لاهور ٢٩٦، شرح نقيبه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، اعزازه ديوبند ٧١/١، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب واجبات الصلاة، قديم كراچی ١٦٠/١، زكريا ٣٩٥/١، هدايه مع فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، كوئٹہ ٢٨١/١، ٢٨٣، زكريا ٣٣١/١-٣٣٢، ٣٢٤/١، كيري، كتاب الصلاة، قيبيل فصل في صفة الصلاة، مكتبه رحيميه ديوبند/٢٩٠)

دوسری وجہ یہ ہے کہ دن کے ظہر و عصر میں کفار گلی کوچوں میں منتشر رہتے تھے، مسلمانوں کی نماز کے اندر قرأت سن کر بھڑکتے تھے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے، مگر رات میں سب اپنے اپنے گھروں میں ہوتے تھے؛ اس لئے مسلمانوں کی قرأت سننے کا انہیں موقع نہیں ملتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دن میں سراً قرأت کی جائے اور رات میں جہر کا سلسلہ بدستور باقی رکھا جائے؛ چنانچہ حضور ﷺ نے یہ حکم جاری فرمادیا اور یہی حکم قیامت تک جاری رہیگا اور جمعہ و عیدین میں جہری قرأت اس لئے ہوتی ہے کہ ان نمازوں کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا تھا اور وہاں قرآن کریم پڑھنے اور کسی قسم کی عبادت کرنے میں کفار کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی؛ اس لئے جمعہ و عیدین میں جہری قرأت کا حکم فرمایا۔

(و يجهر الإمام وجوبا) للمواظبة من النبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن في الصلاة كلها ابتداء،

وكان المشركون يؤذونه، ويسبون من أنزله، ومن أنزل عليه، فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلواتك ولا تخافت بها، أي لا تجهر بها كلها، ولا تخافت بها كلها، وابتغ بين ذلك سييلا، بأن تجهر بصلوة الليل، وتخافت بصلوة النهار، فكان يخافت بعد ذلك في صلوة الظهر و العصر؛ لاستعدادهم للإيذاء في هذين الوقتين، ويجهر بالمغرب؛ لأنهم كانوا مشغولين بالأكل، وفي العشاء والفجر لكونهم رقادا وفي الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة وما كان للكفار قوة. (طحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۵۸۵/۱، وجوبا، كوئنه ۲۳۳/۱، البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۵۸۵/۱، كوئنه ۳۳۵/۱، عيني شرح هداية، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، اشرفيه ۲۹۲/۲، ۲۹۳، ۶۹۲/۱، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة قديم كراچي ۶۰/۱، زكريا ۳۹۵/۱، عنابه شرح هداية ۳۲۵/۱، جامع الرموز قديم ۱۱۰/۱)

تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرئیل آمین نے جب دو دن تک امامت فرما کر کے نماز کے اوقات بتلائے تھے، تو ان میں ظہر اور عصر میں سراً قرأت فرمائی تھی اور بقیہ نمازوں میں جہری قرأت کی تھی؛ اس لئے ظہر اور عصر میں سراً قرأت کی جاتی ہے اور مغرب عشاء و فجر میں جہراً قرأت کی جاتی ہے۔

عن أنس[ؓ]، أن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بمكة حين زالت الشمس، وأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم، فقام جبرئيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس، صلى لهم ثلاث ركعات يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة، ثم أمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل، صلى بهم أربع ركعات، يجهر في الأوليين بالقراءة، ولا يجهر في الأخيرين

بالقراءة، ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. (دارقطني، كتاب الصلاة، باب إمامة جبرئيل، دارالكتب العلمية، بيروت ۱/۲۶۸، رقم: ۱۰۱۱، ۱/۹۷، مطبع انصاري دہلی)

اور چوتھی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ دن میں شور و شغف اور ہنگامہ رہتا ہے، جہری قرأت کی صورت میں قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے قلوب اپنے کاروبار اور دکانوں میں لگے رہتے ہیں اور رات میں شور و شغف ختم ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں میں یکسوئی اور الجمعی کے ساتھ غور و فکر کر سکتے ہیں۔

والسر في مخالفة الظهر والعصر، أن النهار مظنة الصخب واللغظ في الأسواق والدور وأما غيرهما، فوقت هدوء الأصوات والجهر أقرب إلى تذكّر القوم واتعاظهم. (حجة الله البالغة ۲/۹، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة، کراچی ۱/۱۶۰، زکریا ۱/۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۷۶۳۵)

رات کی نمازیں جہری اور دن کی سری کیوں ہیں؟

سوال [۲۵۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پنجوقتہ فرض نمازوں میں مغرب عشاء فجر میں قرأت باواز بلند کی جاتی ہے؛ لیکن ظہر و عصر میں کیوں نہیں کی جاتی اور جمعہ کے دن تو ایک ہی نماز جہری ہونے سے رہ جاتی ہے ایسا کیوں ہے؟

المستفتی: فصاحت حسین، مدرسہ بدر العلوم حسن پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دن میں شور و غل ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا، لوگ توجہ سے قرأت نہیں سن سکتے اور رات میں شور نہیں ہوتا ہے، سکون و اطمینان کا وقت ہے لوگ اطمینان سے قرأت سن سکتے ہیں؛ اس لئے رات کی نمازوں میں جہری قرأت کا حکم ہے اور دن کی نمازوں میں سری قرأت کا حکم ہے۔

والسر في مخالفة الظهر والعصر، أن النهار مظنة الصخب واللغط في الأسواق والدور وأما غيرهما، فوقت هدوء الأصوات والجهر أقرب إلى تذكّر القوم واتعاظهم. (حجة الله البالغة ۲/۹، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة، کراچی ۱/۱۶۰، زکریا ۱/۳۹۵)

القراءة ركن يتحمّله الإمام عن القوم فعلا فيجهر ليتأمل القوم، ويتفكروا في ذلك، فتحصل ثمرة القراءة، وثمرّة الجهر تفوت في صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب، والتصرف، والانتشار في الأرض فكانت قلوبهم متعلقة بذلك..... بخلاف صلاة الليل؛ لأن الحضور إليها لا يكون في خلال الشغل، وبخلاف الجمعة والعيدين؛ لأن يؤدي في الأحياء مرة على هيئة مخصوصة من الجمع العظيم وحضور السلطان وغير ذلك، فيكون ذلك مبعثة على إحضار القلب والتأمل..... ولهذا كان يجهر في الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة، وما كان للكفار بالمدينة قوة الأذى. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة، کراچی ۱/۱۶۰، زکریا ۱/۳۹۵)

اور جمعہ کی فرضیت؛ چونکہ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد ہوئی ہے۔ نیز جمعہ میں تمام ہی مسلمان ایک جگہ شریک ہو جاتے ہیں اور باہر کا شور و شغف باقی نہیں رہتا ہے۔ نیز چونکہ نماز جمعہ وعظ و تقریر، تعلیم و ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہے؛ اس لئے اس میں نماز جہراً

پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ (مستفاد: احکام اسلام عقل کی نظر میں: ۹۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۱ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۷۶۱/۳۱)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۱/۱۲/۱۴۱۲ھ

نماز عشاء، فجر و مغرب میں قرأت بالجہر ہے تو ظہر عصر میں کیوں نہیں؟

سوال [۲۵۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز عشاء، فجر و مغرب میں قرأت جہر کے ساتھ کی جاتی ہے تو نماز عصر و ظہر میں قرأت جہر کے ساتھ کیوں نہیں کی جاتی ہے، ان دونوں نمازوں میں جہر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ وضاحت کے ساتھ تحریر فرمادیں۔

المستفتی: صغیر احمد سہرساوی، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ البالغہ کے اندر یہ بیان کی ہے کہ دن کا وقت بازروں اور عام مقامات میں لوگوں کے شور و شغب کا ہوتا ہے اور شور و آواز میں سکون سے قرآن کریم کی قرأت کرنا اور سننا دشوار ہے؛ اس لئے سرِ آواز سے قرأت کا حکم فرمایا ہے اور رات کا وقت کاروبار و مشاغل سے فارغ ہو کر جائے مستقر میں آنے اور شور و آواز کے پست ہونے کا ہے، اس میں قرآن کریم کی قرأت کرنا اور سننا دشوار نہیں ہے اور سکون کے ساتھ جہر ہو سکتا ہے؛ اس لئے عشاء، فجر و ظہر میں جہر کا حکم فرمایا ہے اور ظہر و عصر میں سر کا حکم فرمایا ہے۔

والسر فی مخافتة الظهر والعصر، أن النهار مظنة الصخب واللغط في الأسواق، والدور، وأما غيرهما، فوقت هدوء الأصوات والجهر أقرب إلى تذکر القوم و اتعاظهم. (حجۃ اللہ البالغہ ۲/۹، بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، واجبات الصلاة، کراچی ۱/۱۶۰، زکریا ۱/۳۹۵)

القراءة ركن يتحمله الإمام عن القوم فعلا فيجهر ليتأمل القوم، ويتفكروا في ذلك، وثمره الجهر تفوت في صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب، والتصرف، والانتشار في الأرض، فكانت قلوبهم متعلقة بذلك..... بخلاف صلاة الليل؛ لأن الحضور إليها لا يكون في خلال الشغل. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة، كراچی ۱/۱۶۰، زکریا ۱/۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۱۲ محرم الحرام ۱۴۱۲ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۲۳/۲۷)

۱۲/۱۲/۱۴۱۲ھ

ظہر اور عصر میں سری قرأت کی حکمت

سوال [۲۵۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ظہر اور عصر میں سری قرأت کرنے میں کیا حکمت ہے، اقوال اکابر کی روشنی میں جواب دیں؟

المستفتی: شبیر احمد جامع مسجد، جلگاؤں مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حضرت تھانویؒ ظہر اور عصر میں سرّاً قرأت کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ دن میں گھروں اور بازاروں کے شور و شغب کی وجہ سے فراغت قلب کم ہوتی ہے اور آیت قرآنیہ پر توجہ خوب نہیں جمتی؛ اس لئے ان دو وقتوں میں جہراً قرأت مقرر نہیں ہوئی؛ البتہ جمعہ و عیدین کے موقع پر عوام الناس کا بھی ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، جن میں جہری قرأت تبلیغ احکام اور وعظ و نصیحت کی باعث ہوتی ہے؛ کیونکہ ایسے اجتماع کا موقع بہت کم میسر ہوتا ہے؛ لہذا ایسے موقع پر جہراً قرأت مقرر ہوئی۔

(مستفاد: احکام الاسلام ۹۵/۹۶)

حضرت شاہ والی اللہ محدث دہلویؒ نے بھی ظہر اور عصر میں سرّاً قرأت کی یہی حکمت بیان فرمائی ہے کہ: شور و شغب کے زیادہ ہونے کے سبب سے آیات قرآنیہ پر توجہ نہیں جمتی اور ان دونوں نمازوں کے علاوہ میں آواز ہلکی اور پست ہوتی ہے، جس میں جہری قرأت وعظ و نصیحت کے لئے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

والسر في مخافتة الظهر والعصر، أن النهار مظنة الصخب واللغظ في الأسواق والدور وأما غيرهما، فوقت هدوء الأصوات والجهر أقرب إلى تذكّر القوم واتعاظهم. (حجة الله البالغة ۲/۹، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، واجباب الصلاة، کراچی ۱/۱۶۰، زکریا ۱/۳۹۵)

ولأنه أخلف عذراً آخر وهو كثرة اشتغال الناس في هاتين الصلاتين دون غيرهما. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۱/۵۸۶، کوئٹہ ۱/۳۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۴۰۹۵)

جمعہ میں جہراً اور ظہر میں سرّاً قرأت کرنے کی وجہ؟

سوال [۲۵۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جمعہ کی نماز میں آواز بلند قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز ظہر میں نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؛ جبکہ دونوں وقت نماز میں کچھ ساعت کا فرق ہے؟

المستفتی: حافظ رئیس احمد، شیرکوٹہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شریعت نے دن کی نمازوں (مثلاً ظہر وعصر)

میں آہستہ ہی قرأت کرنے کا حکم دیا ہے؛ لیکن اگر کوئی نماز دن میں ایسی آجائے جس کا مقصد نماز کے علاوہ مذہب اسلام کا رعب و دبدبہ اور دین کی تبلیغ و ترہیب بھی ہو تو ایسی نماز میں بھی شریعت نے جہراً اور باواز بلند قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے جمعہ و عیدین وغیرہ کی نمازیں ہیں کہ ان میں بھی یہی مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ (المصالح العقلیة للأحكام النقلیة ۱/۹۴)

القراءة ركن يتحملة الإمام عن القوم فعلا فيجهر ليتأمل القوم، ويتفكروا في ذلك..... وثمره الجهر تفوت في صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرف، والانتشار في الأرض فكانت قلوبهم متعلقة بذلك..... بخلاف الجمعة والعیدین؛ لأنه يؤدي في الأحيان مرة على هيئة مخصوصة من الجمع العظيم وحضور السلطان وغير ذلك. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة، كراچی قديم ۱/۱۶۰، زکریا جدید ۱/۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰ ۳۹۲۸)

ایک رکعت میں مختلف روایتوں میں قرأت کرنا

سوال [۲۵۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے قرأت سبچہ میں سے ایک امام کی روایت سے نماز پڑھانی شروع کی؛ لیکن درمیان نماز میں روایتوں میں خلط ملط کر دیا، آیا روایتوں کے خلط ملط ہونے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں، اگر فاسد نہ ہوگی تو کراہت ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: علی احمد مظاہری، خادم التدریس دارالعلوم، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک رکعت کے اندر ایک سورۃ کو اگر کئی روایتوں

کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی؛ لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف روایت حفص میں ہی قرآن مقدس پڑھا جائے تاکہ عوام تشویش میں نہ پڑ جائیں۔

عن عبد الرحمن بن عبد القاري..... إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، قاقروا ماتيسر منه، وفي رواية عن أبي بن كعب..... إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأیما حرف قرؤوا ما علیه فقد أصابوا. (صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف..... النسخة الهنديه ۱/۲۷۲، ۲۷۳، بيت الأفكار رقم: ۸۱۸، ۸۲۱)

أيضا وفيها قراءة القرآن بالقراءة السبع والروايات كلها جائزة؛ لكن أرى الصواب أن لا يقرأ بالقراءة العجيبة والروايات الغربية؛ لأن بعض السفهاء يقعون في الإثم ويقولون ما لا يعلمون، ولا ينبغي للإمام أن يحمل العوام على ما فيه نقصان دينهم، وديناهم، وحرمان ثوابهم في عقابهم. (كبيرى، كتاب الصلاة، فصل في سجود السهو، مكتبة رحيمية ديوبند قديم ۴۶۳، سهيل اكيڈمي لاهو ۴۹۵، الفتاوى التاتارخانيه، كتاب الصلاة، الفصل الثاني القراءة، زكريا ۲/۷۲، رقم: ۱۷۸۳، كراچي ۱/۴۵۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/رجب المرجب ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۳۵/۳۴)

فرض نماز میں قرأت سبعہ کرنا

سوال [۲۵۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مسجد محلّہ یا مسجد مدرسہ میں امام صاحب قرأت سبعہ نماز میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟

اگر جواب اثبات میں ہے، تو سورہ فاتحہ اور سورہ مضمومہ دونوں میں ایک ہی قراءت ضروری ہے یا قراءت مختلفہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے؟

المستفتی: محمد شجاع الدین قاسمی، خادم مدرسہ جامعہ اسلامیہ، ۲۴/پرگنہ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک نماز کے اندر لوٹا لوٹا کر ساتوں قراءتوں کے ساتھ پڑھنا مشروع نہیں ہے اور سلف و خلف سے نماز کے اندر اس طرح پڑھنا ثابت نہیں ہے؛ اس لئے ایک نماز میں ایک ہی قراءت کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ نیز امام کسائی وغیرہ کی قراءت امالہ کے ساتھ نماز میں نہیں پڑھنی چاہئے؛ اس لئے کہ جو لوگ فن قراءت سے واقف نہیں ہیں، وہ اس طرح کی قراءت سے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی فقہاء نے ممانعت فرمائی ہے اور سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ نماز کے اندر اطمینان کے ساتھ حفص قراءت کی جائے جیسا کہ ائمہ حرمین کرتے ہیں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۲۹، احسن الفتاویٰ ۱۱/۳)

ويجوز بالروايات السبع؛ لكن الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم، وتحتة في الشامية: أي بالروايات الغريبة والإمالات؛ لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون، فيقعون في الإثم والشقاء، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم، ولا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة والكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون، وإن كان كل القراءات صحيحة فصيحة، ومشائخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۲/۲۶۲، كراچی ۱/۵۴، ہندیہ، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، زكريا ۱/۷۹، جديد ۱/۱۳۶ تاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القراءة، زكريا ۲/۷۲، رقم: ۱۷۸۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵ھ/۲/۱۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۴۲۰)

فرض کی دو بھری اور خالی رکعتوں کا مطلب

سوال [۲۵۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عوام میں کہا جاتا ہے کہ فرض کی دو رکعت بھری اور دو رکعت خالی پڑھی جاتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے بیان کریں؟

المستفتی: محمد محبوب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چونکہ حدیث شریف میں ایسا ہی آیا ہے کہ آنحضور ﷺ دو رکعت بھری اور دو رکعت خالی پڑھا کرتے تھے؛ اس لئے صرف دو ہی رکعت بھری پڑھنی لازم ہے۔

عن عبد اللہ بن ابي قتادة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأَم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخيرين بأَم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. (صحيح البخاري،

كتاب الصلاة، باب يقرأ في الآخريين بفتح الكتاب ۱/ ۱۰۷، رقم: ۷۶۸، ف: ۷۷۶)

عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفتح الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحياناً ويقرأ في الركعتين الأخيرين بفتح الكتاب. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة،

باب القراءة في الظهر والعصر، النسخة الهندية ۱/ ۱۸۵، بيت الأفكار رقم: ۴۵۱)

وضم سورة في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، والوتر الخ. (تنوير الأبصار مع الدر المختار على هامش رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قبيل مطلب كل شفع من النفل صلاة، زكريا ۲/ ۱۵۰، كراچی ۱/ ۴۵۹،

مطبوعہ کوئٹہ، ۳۳۸/۱، فتاویٰ دارالعلوم ۲/۱۵۵ (فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۲/ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۶۸۴/۲۳)

فرض کی دوسری رکعت میں سورۃ ملانے کے بجائے تیسری میں ملانا

سوال [۲۵۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فرض کریں کہ اگر فرض نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر نہ پڑھے یا دآنے پر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملا کر سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: شیخ احمد اعظمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں نماز اداء اور صحیح ہو جائے گی۔

(مستفاد: بہشتی زیور آخری ۲/۳۷۲، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۳۹۹، امداد الفتاویٰ ۱/۱۷۰)

فإن قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ولم يقرأ بالسورة قرأ في
 الأخيرين بفاتحة الكتاب والسورة الخ (فتاویٰ تاتار خانہ، کتاب الصلاة،
 الفصل الثاني في القراءة، زكريا ۲/۷۲، رقم: ۱۷۹۴، ۱/۴۵۹، ہدایہ، کتاب الصلاة،
 فصل في القراءة، اشرفي ۱/۱۱۶)

ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة يجب عليه سجود السهو الخ
 (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۶،
 جدید ۱/۱۸۶، تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، مکتبہ امدادیہ
 ملتان ۱/۱۹۳، زكريا ۱/۴۷۳، ۴۷۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۶/ رزی الحجہ ۱۴۰۹ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۵۸۰/۲۵)

فرض کی پہلی ۲ رکعت اور نفل کی چاروں میں سورۃ ملانا

سوال [۲۵۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) فرض نماز کی چار رکعتوں میں سے دو رکعت بھری ہوئی اور دو رکعت خالی کیوں؟

(۲) سنتوں کی چاروں رکعت بھری ہوئی کیوں؟

(۳) یہ سلسلہ کب سے ہے؟

المستفتی: حافظ نعت حسین، خازن مدرسہ فیض رسال (عرف فیض العلوم) سلیم پور گدھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) درحقیقت ہجرت سے قبل مکہ المکرمہ میں مشقت و تنگی کے زمانہ میں جب نماز فرض ہوئی تھی، تو فجر، ظہر، عصر، عشاء سب میں دو دو رکعتیں مقرر ہوئی تھیں اور ہر رکعت میں قرأت بھی فرض کر دی گئی تھی۔

اب رہ جاتی ہے مغرب کی نماز تو اگر اس میں بھی دو رکعت مقرر کیجاتی تو جفت لازم آجاتا اور اللہ تعالیٰ کو طاق اور وتر ہی پسندیدہ ہے۔

عن عاصم عن علیؓ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. (سنن أبي داؤد، کتاب الصلاة، باب استحباب الوتر، النسخة الهندية ۱/۲۲۰، دار السلام رقم:)

اس لئے طاق کو باقی رکھتے ہوئے مغرب میں تین رکعات مقرر کی گئیں دو رکعت میں قرأت کو فرض کر دیا گیا اور آخری رکعت کو خالی رکھا گیا۔ اب پانچوں نمازوں میں کل گیارہ رکعتیں ہوئیں۔

قالت عائشةؓ: فرض الله الصلوة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلوة السفر وزيد ف صلوة الحضر. وفي رواية

إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثاً. (حجة الله البالغة، كتاب الصلاة، باب الأمور التي لا بد منها في الصلاة ۲/۳۸-۷۲)

اور جب حضور ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور کفار کی طرف سے ہونے والی مشقتیں اور تنگیاں دور ہو گئیں، اسلام اپنی جگہ مضبوط ہو گیا، حضور ﷺ کے اصحاب زیادہ ہو گئے لوگوں کی رغبتیں طاعت و اسلام کی طرف بڑھ گئیں تو ظہر، عصر، عشاء میں دو دو رکعتیں مزید اضافہ کر دی گئیں؛ لیکن ان میں قرأت فرض نہیں کی گئی تھی؛ بلکہ خالی رکھی گئی تھیں اور چونکہ سفر میں مشقت و تنگی غالب ہی رہتی ہے؛ اس لئے اس میں نماز کی رکعتوں کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھا گیا اضافہ نہیں کیا گیا اور حضر میں بلا قرأت صرف عدد رکعت کا اضافہ کیا گیا ہے اور چونکہ فجر کا وقت نوم و غفلت کا وقت ہے؛ اس لئے اس میں طول قرأت کو تو مسنون کر دیا گیا؛ لیکن عدد رکعات کا اضافہ نہیں کیا گیا، ان وجوہات کی بنا پر دو رکعت بھری اور دو رکعت خالی رکھی گئیں ہیں۔

وقد علمت فيما سبق أن الأحد عشر بين الأعداد شبهها بالوتر الحقيقي، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الإسلام وكثر أهله وتوفرت الرغبات في الطاعة زيدت ست ركعات وأبقيت صلوة السفر على النمط الأول. (حجة الله البالغة ۲/۷)

عن عائشة قالت: أول فرضت الصلوة ركعتين، ركعتين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إلى كل صلوة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار و صلوة الصبح بطول قرأتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلوة الأول. (طحاوي شريف، كتاب الصلاة، باب صلوة المسافر، النسخة الهندية ۱/۲۷۷، بيروت رقم: ۲۳۴۸)

(۲) سنتوں میں ہر دو رکعت الگ الگ مستقل نماز ہوتی ہے؛ اس لئے ہر رکعت میں قرأت کرنا لازم ہے۔

کل سنة نافلة الخ. (الدر المختار، کراچی ۱/۵۵۹، زکریا ۲ /)
 (۳) یہ سلسلہ ہجرت کے بعد سے جاری ہوا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغۃ ۷/۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۳ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۵/۱۳۴۳)

بوقت جماعت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کتنی تیز رکھیں؟

سوال [۲۵۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی تیز کر دینا کہ قرأت کی آواز مسجد سے باہر تک جائے ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟

المستفتی: محمد عقیل ٹانڈہ، راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی تیز کرنے کی گنجائش ہے کہ جس سے تمام نمازیوں تک آواز پہنچ جائے، مگر بے ضرورت نمازیوں کے حدود سے دور دور تک پہنچانا ناجائز اور ممنوع ہے؛ اس لئے کہ اس میں سب سننے والے توجہ نہیں دے پاتے۔
 أنه يجب على القارئ احترامه، بأن لا يقرأه في الأسواق ومواقع
 الاشتغال الخ (حلبی کبیری، کتاب الصلاة، قبیل سجدة التلاوة، مطبع لاهور
 پاکستان ۴۹۷، شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب الاستماع للقرآن فرض
 كفاية، زکریا ۲/۲۶۸، کراچی ۱/۵۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۵ رذی الحجہ ۱۴۱۷ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۵۰۸۳/۳۳)

امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا اور قرأت کرنا

سوال [۲۵۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے یہاں امام صاحب کی تکبیر اور قرأت بہت زیادہ بلند آواز سے ہوتی ہے، جس کی آواز دور دور تک جاتی ہے کیا صحیح ہے؟

المستفتی: محمود الحق، بہار شریف

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے قرأت کرنا

جائز ہے؛ البتہ اتنا جہر کرنا جو نماز میں تشویش کا باعث بنے یا باعث ایذاء ہو مکروہ ہے۔

والأولى أن لا يجهد نفسه بالجهر بل بقدر الطاقة؛ لأن إسماع بعض القوم يكفي،..... كلما زاد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل، بعد أن لا يجهد نفسه، ولا يؤذي غيره، وإن زاد على حاجة المقتدي. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان واجب الصلاة، دار الكتاب ديوبند جديد ۲۰۰۳، قديم ۱۳۷)

ويجهر الإمام وجوبا بحسب الجماعة. وفي الشامية: لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه أو أذى غيره الخ (الدر المختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، زكريا ۲/۲۴، كراچی ۱/۵۳۲، عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني في واجبات الصلاة، ۱/۷۲، جديد ۱/۱۲۹، احسن الفتاوى ۳/۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الربیع الثانی ۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۱۱۷۸)

ایک آیت کو ٹکڑے کر کے پڑھنے اور ترنم سے قرأت کرنے کا حکم

سوال [۲۵۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام صاحب جہری نماز میں قرآن کریم کی آیت مقدسہ کو ٹکڑے کر کے پڑھیں جیسے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل - تنزل علیہم الملائکة الاتخافوا - الاتخافوا ولا تحزنوا - ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة - وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون اس طرح فرض نماز میں کرنا درست ہے یا نہیں اور اس طرح کرنے سے نماز میں کوئی کراہت تو نہیں ہوگی؟

دوران نماز لب و لہجہ اور آواز کو مترنم و خوبصورت بنانے کے لئے قرآن کریم کے کسی کلمہ کو اس قدر گلے بازی کے ساتھ پڑھنا کہ ایک مد کی جگہ تین مد کی مقدار آواز نکلے مثلاً ملائکة کی جگہ ملائکة یا اسر آئیل کی جگہ اسر آئیل پڑھا جائے تو کیا اس طرح پڑھنے کی اجازت ہے؟

المستفتی: محمد اعظم لال مسجد سرانے ترین سنبھل مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: درمیان آیت یا لفظ کے درمیان میں سانس توڑنے کی عادت امر مکروہ ہے اور بعض دفعہ فسادِ صلوة کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، مثلاً جہاں پر جملہ فعلیہ منفیہ ہو اس کے مآ یا لا پر جا کر سانس توڑ دیتا ہے، فعل کا استعمال نہیں کرتا ہے، پھر پیچھے سے لوٹاتا ہے یہ نہایت فبیح ترین قرأت ہے، اس سے گریز کرنا لازم ہے اور سوال نامہ میں جو مثالیں پیش کی گئی ہیں، اس میں جو ٹھہرنے کی شکل دکھائی گئی ہے اور پھر پیچھے سے لوٹانے کی شکل دکھائی گئی ہے یہ بھی امر فبیح ہے، ایسا پڑھنے والا کہیں نہ کہیں جا کر ایسی جگہ سانس توڑے گا جہاں فسادِ صلوة کا اندیشہ ہو جائے اور اس کو اس کی خبر بھی نہ ہو؛ اس لئے اس

طرح قرآن پڑھنے والے کو صحیح طریقہ سے پڑھنے کی عادت ڈالنی ضروری ہے، مذکورہ طریقہ سے پڑھنا غلط طریقہ ہے، اس غلط طریقہ کو ختم کر کے قرآن صحیح پڑھنے کی مشق کرنی چاہئے اور پیچھے سے لوٹا کے پڑھنے کا جو اصول ہے وہ نہایت مجبوری کے تحت کبھی اتفاقی طور پر درمیان سانس ٹوٹ جانے کی صورت میں پیچھے سے لوٹانے کا حکم ہے؛ لیکن قرآن کی ہر آیت میں یا اکثر آیتوں میں اس طرح کا عمل درست نہیں ہے۔ (مستفاد: التحفة المرضیة فی شرح المقدمہ الجزریہ/ ۱۲۷)

ومثله في القبح الوقف على قوله فبهت الذي كفر والله وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله وإن الله لا يستحي وإن الله لا يهدي، وإن الله لا يحب ولا يعث الله وشبهه؛ لأن المعنى يفسد بفصل ذلك مما بعده من قوله لا يهدي القوم الظالمين والمثل الأعلى وأن يضرب مثلاً. (المكتفي في الوقف والإبتداء/ ۱۵۰)

دوران نماز لب و لہجہ کو خوبصورت بنانے کے لئے متصل و منفصل کو پانچ الف سے زیادہ کھینچنا امر مکروہ ہے اس سے باز آنا چاہئے اور اگر پانچ الف تک کھینچتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔
والحاصل أنه لا يجوز الزيادة على مقدار خمس ألفات إجماعاً فما يفعله بعض الأئمة وأكثر المؤذنين فمن أقبح البدعة وأشد الكراهة (المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ۵۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۵/۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۰۳۲/۳۷)

قراءت سر کی تعریف

سوال [۲۵۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مفتی بہ قول کے مطابق سر کی کیا تعریف ہے؛ جبکہ صاحب شرح وقایہ نے یہ لکھا ہے کہ جس کو خود قاری سنے اگر مفتی بہ قول یہی ہے تو تعامل ناس تو اس پر ہے نہیں، میری مراد قراءۃ فی صلوة الظهر والعصر ہے کہ پوری نماز میں دو چار لفظوں کے سوا کچھ بھی قاری کو سنائی نہیں دیتا ہے، تو کیا تعامل ناس کے پیش نظر کچھ تخفیف ہو سکتی ہے، اگر نہیں تو جو حضرات حسب عادت سالہا سال سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان کی نماز کا کیا ہوگا اور اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؛ جبکہ شریعت میں جہالت کوئی عذر نہیں؟

المستفتی: محمد شاہر، معلم مدرسہ جامع العلوم جامع مسجد، پٹنہ پورکا پٹنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سر کی تعریف میں حضرات فقہاء کے درمیان قدرے اختلاف ہے کہ حضرت امام ابو جعفر ہندوئی کے نزدیک سر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اپنی آواز خود سنے اور جہر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو سنائی دے اور حضرت امام ابوالحسن کرخی کے نزدیک سر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حروف صحیح ہو جائیں چاہے آواز سنائی نہ دے اور یہ سر کا ادنیٰ اور اقصیٰ درجہ ہے۔

ثم المخافنة أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره، وهذا عند الفقيه أبي جعفر الهندواني؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمي قراءة بدون الصوت. وقال الكرخي: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى المخافنة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ الخ (هدايه، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، اشرفي ۱/۱۱۷)

اور حضرت علامہ شامی نے حضرت امام فقیہ ابو جعفر ہندوئی کے قول کو مفتی بہ قول قرار دیا ہے۔
وإن مقالہ الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في الكلام على الجهر والمخافنة،

اور علامہ بدرالدین عینیؒ نے حضرت امام ابو الحسن کرخیؒ کے قول کو زیادہ صحیح اور مفتی بہ قرار دیا ہے۔

قالوا و قول الكرخي: أقيس وأصح الخ (بناية شرح هداية، كتاب الصلاة،

فصل في القراءة، اشرفيه ۲/۳۰۱، ۱/۶۹۸)

اور شرح وقایہ میں جو لکھا گیا ہے وہ حضرت امام ابو جعفر ہندوئیؒ کا قول ہے اور جو لوگ سری نماز میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ صرف حروف کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے اور سنائی نہیں دیتی ہے ان کی نماز امام کرخیؒ اور ابو بکر بلخیؒ وغیرہ کے قول کے مطابق صحیح ہو جاتی ہے اور تعامل ناس کی وجہ سے اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے اس لئے کوئی اشکال کی ضرورت نہیں اور ان کی نماز شرعاً صحیح اور درست ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶/رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۸۹/۲۷)

کیا فرض نماز میں لقمہ نہیں دے سکتے؟

سوال [۲۵۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فرض نماز میں اگر امام صاحب کہیں سے بھول جائیں اور پیچھے سے اگر کوئی لقمہ دے تو وہ کیسا ہے؛ اس لئے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ فرض نماز میں لقمہ نہیں دیا جاتا؟ اگر امام صاحب بھول گئے اور کسی نے لقمہ دیا اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا اور پھر سجدہ سہو بھی کر لیا، کیا نماز درست ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالقیوم، جامعہ نعیمیہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اپنے امام کو بھول جانے پر لقمہ دینے سے نماز

فاسد نہیں ہوتی چاہے فرض نماز ہو یا تراویح وغیرہ۔

عن المسور بن یزیدؓ، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في الصلاة فتعابى في آية، فقال رجل: يا رسول الله! إنك تركت آية، قال: فهلا أذكر تنبيها؟ قال: ظننت أنها قد نسخت، قال: فإنها لم تنسخ. (صحيح ابن حبان، دارالفكر ۶/ ۴، رقم: ۲۲۳۸، المعجم الكبير للطبراني، داراحياء التراث العربي ۲۰/ ۲۷، رقم: ۳۴)

أن الفتح على إمامه لا يوجب فساد صلوة أحد لا الفاتح ولا الآخذ مطلقاً في كل حال الخ (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، زكريا ۱۰/ ۲، كوثنه ۶/ ۲، الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس ما يفسد الصلاة وما لا يفسد ۲/ ۳۲۵، رقم: ۲۲۳۶، المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس، ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، المجلس العلمي جديد ۲/ ۱۵۴، رقم: ۱۴۵۸، ۱۴۵۷)

ہاں البتہ بھولتے ہی نوراً لقمہ دینا مکروہ ہے۔

ويكره أن يفتح من ساعته الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، زكريا ۲/ ۳۸۲، كراچی ۱/ ۶۲۳)

ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح على الإمام من ساعته؛ لأنه ربما يتذكر الإمام من ساعته. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس، باب ما يفسد الصلوة وما لا يفسد، المجلس العلمي جديد ۲/ ۱۵۵، رقم: ۱۴۵۸)

اگر امام کو بھول بھی گئی اور مقتدی کے لقمہ دینے پر لقمہ لے لیا تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی اور سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں؛ لیکن اگر پھر سجدہ سہو کر لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيهؓ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تفتحها علي. (صحيح ابن حبان، دارالفكر ۶/ ۴، رقم: ۲۲۳۹، المعجم الكبير للطبراني ۱۲/ ۳۱۳، رقم: ۱۳۲۱۶)

قیل لا تفسدو به یفتی الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة، قیل باب الاستخلاف، زکریا ۲/۳۵۰، کراچی ۱/۵۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۵۷۳۱/۳۵۷)

امام کو لقمہ دینے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی

سوال [۶/۲۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام فرض نمازوں میں قرأت کر رہا تھا اور تین آیتیں پڑھنے کے بعد بھول گیا مقتدی نے اس کو بتا دیا تو کیا نماز میں کسی طرح کی خرابی آئی ہے یا نہیں۔ نیز بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کو لقمہ نہیں دینا چاہئے اور بعض کہتے ہیں کہ دینا چاہئے، مہربانی فرما کر اس کی بالتحقیق تشریح فرمادیں عین نوازش ہوگی؟

المستفتی: عبدالرشید، محلہ چودھریان، گڑھی سلیم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام کی غلطی یا بھول پر مقتدی کے لئے فرض یا تراویح ہر نماز میں لقمہ دینا جائز ہے اور مقتدی یا امام کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی اور یہ لقمہ چاہے تین آیتیں پڑھنے سے پہلے ہو یا بعد میں ہر صورت میں جائز ہے۔

عن المسور بن یزید المالکی، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال يحيى - وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ في الصلاة، فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله! تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكر تبيها، قال سليمان في حديثه قال: كنت أراها نسخت. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الفتح على

الإمام في الصلاة، النخسة الهنديه ۱/۱۳۱، دارالسلام رقم: ۹۰۷، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ۲/۷۹۵، رقم: ۱۶۴۷، صحيح ابن حبان، دارالفکر ۳/۲۶۱، رقم: ۲۲۴۰، المعجم الكبير للطبراني، داراحياء التراث العربي ۲۰/۲۷، رقم: ۳۴)

عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام، النسخة الهنديه ۱/۱۳۱، دارالسلام رقم: ۹۰۷، صحيح ابن حبان، دارالفکر ۳/۲۶۱، رقم: ۲۲۴۱، المعجم الكبير للطبراني، داراحياء التراث العربي ۱۲/۳۱۳، رقم: ۱۳۲۱۶)

عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا استطعتمك الإمام فأطعمه. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب من رخص في الفتح على الإمام مؤسسه علوم القرآن ۳/۵۳۰، رقم: ۴۸۲۹)

فتحه على إمامه، فإنه لا يفسد مطلقاً لفتح و أخذ بكل حال الخ (وتحتة في الشامي: أي سواء قرأ الإمام قدر ماتجوز به الصلاة أم لا انتقل إلى آية أخرى أم لا، تكرر الفتح أم لا هو الأصح الخ (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، زكريا ۲/۳۸۱، ۳۸۲، مصري ۱/۵۸۲، كراچي ۱/۶۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱/رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۷/۲۳۵۳)

امام کو سبحان اللہ اور اللہ اکبر سے لقمہ دینا

سوال [۲۵۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جماعت میں امام کو لقمے کی ضرورت پڑے تو سبحان اللہ سے لقمہ دینا کیسا ہے؟

اور اللہ اکبر سے لقمہ دینا کیسا ہے؟، مسنون کیا ہے؟

المستفتی: عبدالحق بلدوانی، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سبحان اللہ کے ذریعہ لقمہ دینا حدیث وفقہ کی کتابوں میں صراحت سے موجود ہے اور فقہ کی بعض عبارات سے مستفاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعہ سے بھی لقمہ دینا جائز ہے۔

عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم..... من نابه شيء في صلاته، فليسيح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلى بهم..... النسخة الهنديه ۱/۱۷۹، بيت الأفكار رقم: ۴۲۱)

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: التسييح للرجال والتصفيق للنساء. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التصفيق للنساء ۱/۱۶۰، رقم: ۱۱۸۹، ف: ۱۲۰۳، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسييح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، النسخة الهنديه ۱/۱۸۰، بيت الأفكار رقم: ۴۲۲)

وإذا أخبر بما يعجبه، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر إن لم يرد به الجواب لا تفسد صلواته عند الكل. (عالمگیری، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، ويكره فيها وفيه فصلان، زكريا ۱/۹۹، جديد ۱/۱۵۸)

ولو استأذن رجل المصلى..... فجهر بالقراءة أو قال الحمد لله..... أو الله أكبر لا تفسد صلاته وكذا لو سبح..... لقوله: من نابه شيء في الصلاة فليسيح متفق عليه. (غنية المستملي، كتاب الصلاة، فصل القراءة خارج الصلاة، مكتبه لاهور ۹۹/۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۰۳۰/۲۰)

امام کو غلط لقمہ دینا

سوال [۲۵۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فرض نماز میں اگر کوئی شخص امام صاحب کو لقمہ دیدے تو نماز ہو جائے گی، یا دوبارہ پڑھی جائے گی اور امام صاحب ٹھیک پڑھ رہے تھے، اس شخص نے ہی لقمہ غلط دیا امام نے لقمہ نہیں لیا، مگر اس شخص کے تین چار مرتبہ لقمہ دینے پر امام نے لقمہ لے لیا تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟

المستفتی: ارشاد احمد کالایا دہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فرض نماز میں امام کو لقمہ دینا مطلقاً درست ہے اس سے کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی خواہ امام مقدار فرض پڑھ چکا ہو یا نہ پڑھا ہو؛ لہذا نماز کا اعادہ واجب نہ ہوگا اور اگر امام کو ایسا غلط لقمہ دیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ایسا لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی اور مشابہت کی وجہ سے دوسرا ایسا لقمہ دیا جو مفسد صلوة نہ ہو، تو ایسا لقمہ لینے سے نماز و فاسد نہ ہوگی۔

إن الفتح علی إمامہ لایوجب فساد صلوة أحد لا الفاتح ولا الآخذ
مطلقاً فی کل حال الخ (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة،
زکریا ۱۰/۲، کوئٹہ ۶/۲)

والصحيح أنه لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو
أخذ منه علی الصحيح. (هنديہ، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما یفسد الصلاة
وما یکره فیہا، زکریا ۹۹/۱، جدید ۱۵۷/۱)

وإن فتح علی إمامہ فقد قیل إن فتح بعد ما قرأ الإمام مقدار ما تجوز به
الصلاة تفسد.....والصحيح أنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا صلاة الإمام إن أخذ
بقوله. (حلبی کبیری، کتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، لاہور ۴۴۰)

اور مقتدی کو چاہئے کہ امام کو لقمہ دینے میں عجلت نہ کرے؛ بلکہ انتظار کرے کہ خود امام ہی اس غلطی کو نکال لے ایسے ہی امام کو بھی کسی آیت کا بار بار اعادہ کر کے یا خاموش کھڑا رہ کر مقتدی کو لقمہ دینے پر مجبور نہیں کرنا چاہئے، اگر مقدار فرض قرأت کر چکا ہو تو رکوع کر لے یا کوئی دوسری آیت، سورت پڑھنا شروع کر دے۔

قالوا يكره للمقتدي أن يفتح على إمامه من ساعته وكذا يكره للإمام أن يلجئهم إليه، بأن يقف ساكنا بعد الحصر أو يكرر الآية؛ بل يركع إذا جاء الخ (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، زكريا ۱۰/۱، كوئثه ۶/۲، الفتاوى التاتار خانیه، كتاب الصلاة، الفصل الخامس ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد ۲/۲۶۶، رقم: ۲۲۳۷، المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، المجلس العلمي ۲/۱۵۵، رقم: ۱۴۵۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۶/۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۲۵/۳۴)

اگر امام کو یقین ہو تو مقتدیوں کے قول کا اعتبار نہیں

سوال [۲۵۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین امام سے سہواً چھوٹ گئی؛ لیکن دوران نماز کسی نے بھی لقمہ نہیں دیا مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ آیت ضرور چھوٹی ہے؛ لیکن مجھے بھی لقمہ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا؛ چنانچہ میں بھی خاموش رہ گیا کہ شاید میرا شک رہا ہو، جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آیا تو چند لوگوں نے مجھ پر طنز کیا کہ آپ بزرگ لوگ اگلی صف میں امام کے قریب رہتے ہیں؛ لیکن امام کی غلطی پر دھیان نہیں دیتے، میں نے جب پوچھا کیا غلطی ہوئی

تو انہوں نے جواب دیا کہ امام نے پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین چھوڑ دیا ہے نماز تو فاسد ہوگئی، تب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ واقعی امام سے غلطی ہوئی ہے؛ کیوں کہ میں نے بھی ٹھیک وہی غلطی محسوس کی تھی؛ چنانچہ میں ان لوگوں کو لے کر امام کے پاس مسجد میں آیا اور صورت حال سے آگاہ کیا امام نے جواب دیا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور بالکل صحیح پڑھا ہے تو میں نے پھر کہا کہ چھ نمازیوں کو ایک ہی غلطی کا احساس ہوا، تو کیا وہ غلط اور جھوٹ ہے، اس پر امام نے زور دے کر کہا کہ جب میں نے غلطی کی اور آپ لوگوں نے محسوس کیا تو نماز میں کیوں نہیں لقمہ دیا یا نماز کے فوراً بعد کیوں نہیں تذکرہ کیا، یہ آپ لوگوں کا شک ہے، جن کو شک ہے وہ اپنی نماز دہرائیں۔

مندرجہ بالا واقعات کی روشنی میں واضح جواب ارشاد فرمائیں کہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں۔ نیز امام کا چھ نمازیوں کے ایک ہی بیان کے مقابلہ میں اپنی بات پر اڑے رہنا کیا یہ درست تھا، اصولی بات تو یہی ہے کہ جب چھ نمازیوں کو ایک ہی مخصوص آیت کے چھوٹ جانے کا شبہ ہوا تو یقیناً یہ حقیقت تھی، یہ الگ بات ہے کہ دوران نماز نہ کسی نے لقمہ دیا اور نہ ہی نماز کے بعد فوراً کسی نے تذکرہ کیا؟

المستفتی: شیخ الرحمن بیگوسرائے (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چونکہ امام یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے؛ لہذا نماز درست ہو جائے گی اور مقتدیوں کے قول کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ نیز امام کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی یقینی رائے پر جمار ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۵۱/۴، امداد الفتاویٰ ۵۲۴/۱)

ولو اختلف الإمام والمؤمنون، إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم، وإلا أخذ به، وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله. (حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، قبیل باب سجود التلاوة، دارالکتاب دیوبند جدید ۴۷۶، قدیم ۲۵۹)

ولو اختلف الإمام والقوم أي وقع الاختلاف بينهم وبينه كأن قالوا صليت ثلاثا وقال بل أربعا.....أخذ بقول الإمام. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، قبيل باب صلاة المريض، زكريا ۲/۵۶۳، كراچی ۲/۹۴)

ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم، فقال القوم صليت ثلاثا، وقال الإمام صليت أربعا إن كان الإمام على اليقين لا يعيد الصلاة بقولهم، وإن لم يكن على يقين يعيد الصلاة بقولهم. (هنديہ، كتاب الصلاة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، قبيل الباب السادس في الحدث في الصلاة، زكريا ۱/۹۳، جديد ۱/۱۵۱)

لو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم إن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود سهو، زكريا ۲/۱۹۳، كوئٹہ ۲/۱۰۹، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل ۱۸ مسائل الاختلاف الواقع بين الإمام والقوم زكريا ۲/۴۳۶، رقم: ۲۹۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

۱۱/۲/۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۸/۴۷)

مقتدی کا غلط لقمہ دینا

سوال [۲۵۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام سے ایسا سہو ہوا جس سے سجدہ سہولاً زم نہیں آتا تھا، مگر مقتدی نے لقمہ دے دیا تو ایسی صورت میں آیا مقتدی کی نماز فاسد ہوگی یا امام کی بالتحقیق؟ جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: محمد معروف سینا پوری، معلم دارالعلوم جامع الہدیٰ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں امام و مقتدی دونوں کی نماز

درست ہوگی کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۲۲۹)

ولوطن الإمام السهو فسجدله. (تحتہ فی الشامیہ) وفي الفيض:
وقيل: لا تفسد وبه يفتى وفي البحر عن الظهيرية قال الفقيه أبو الليث: في
زماننا لا تفسد؛ لأن الجهل في القراء غالب. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة،
قبيل باب الإستخلاف، زكريا ۲/۳۵۰، كراچی ۱/۵۹۹)

والصحيح أنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو
أخذ منه على الصحيح. (هنديہ، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة
وما يكره فيها، زكريا ۱/۹۹، جديد ۱/۱۵۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیہ احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ ذی الحجہ ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۷۱/۲۷)

غلط لقمہ قبول کرنے سے نماز کا حکم

سوال [۲۵۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ فرض نماز میں اگر کوئی شخص امام صاحب کو لقمہ دیدے تو نماز ہو جائے گی
یا دوبارہ پڑھی جائے گی؛ جبکہ امام صاحب ٹھیک پڑھ رہے تھے، اس شخص نے ہی غلط لقمہ دیا
اور امام نے لقمہ نہیں لیا، مگر اس شخص کے تین چار مرتبہ لقمہ دینے پر امام نے لقمہ لے لیا تو کیا
نماز درست ہو جائے گی؟

المستفتی: ارشاد احمد کالایا دہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: محض مقتدیوں میں سے کسی کے لقمہ دینے
سے نہ امام کی نماز فاسد ہوگی اور نہ لقمہ دینے والے کی، اگرچہ لقمہ دینے والے نے غلط لقمہ
ہی کیوں نہ دیا ہو۔

عن سالم عن أبيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة فالتبس عليه فيها، فلما انصرف، قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتح علي. (المعجم الكبير للطبراني دار احياء التراث العربي ۳۱۳/۱۲، رقم: ۱۳۲۱۶، صحيح ابن حبان، دارالفكر ۳/۲۶۱، رقم: ۲۲۴۱)

والصحيح أنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو أخذ منه على الصحيح. (هندي، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، زكريا ۱/۹۹، جديد ۱/۱۵۷، شامي كراچي، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱/۶۲۲، زكريا ۲/۳۸۱، فتاوى دارالعلوم ديوبند ۲/۲۲۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۸۴۸۲)

نماز کے دوران بچے کے کہنے پر کسی مقتدی کا زور سے تکبیر کہنا

سوال [۲۵۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مسجد میں مانک میں نماز پڑھا رہا تھا، مسجد و منزلہ ہے اتفاق سے نماز کی نیت باندھتے ہی مانک خراب ہو گیا اوپر آواز نہیں پہنچ پارہی تھی، ایک بچہ نے اوپر سے آواز دی کہ ایک آدمی زور سے تکبیر کہدے اس بچہ کی آواز آنے کے بعد جب امام صاحب نے سورہ فاتحہ اور ضم سورۃ کے بعد رکوع کے لئے تکبیر کہا تو پیچھے سے ایک مقتدی نے زور سے تکبیر کہنا شروع کر دیا اور مکبر نے جو تکبیر کہی ہے وہ بچہ کے آواز دینے سے تقریباً چار پانچ منٹ بعد کہی ہے، تو کیا ایسی صورت میں غیر نمازی کے لقمہ کے حکم میں ہو کر مکبر اور اس کی تکبیر پر عمل کرنے والوں کی نماز میں کوئی خرابی آئے گی یا نہیں اور سب کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: قاری محمد زکریا، مدرس مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بچہ کے آواز دینے کے بعد اگر مکبر نے بچہ کی آواز کی پیروی نہیں کی؛ بلکہ آواز سن کر خود اس کے اندر زور سے تکبیر کہنے کا احساس اور داعیہ پیدا ہوا ہے اور خود ضرورت محسوس کرتے ہوئے تکبیر کہنا شروع کر دیا ہے، تو کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی سب کی نماز صحیح اور درست ہو چکی ہے اور حضرات فقہاء نے اس کے لئے حد فاصل اور فرق یہ بیان کیا ہے کہ اگر آواز دینے والے کے آواز دیتے ہی فوراً تکبیر کہ دیا ہے، تو یہ پیروی کی علامت ہے اور اگر فوراً تکبیر نہیں کہا؛ بلکہ کچھ توقف کر کے تکبیر کہا ہے تو پیروی میں داخل نہ ہوگا؛ بلکہ خود اپنی طرف سے ضرورت کا احساس شمار ہوگا: اس لئے مذکورہ صورت میں کسی کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴/۳۳، فتاویٰ رحیمیہ ۶/۳۵۲)

حتى لو امثثل أمر غيره، فقیل له تقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت؛ بل يمكث ساعة، ثم يتقدم برأيه (در مختار) وفي الشامي: وإن حصل تذكرة من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقاً وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من نفسه الخ. (در مختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، زكريا ۲/۳۸۱-۳۸۲، كراچی

۶/۲۲۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۵/۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ

۱۴۱۳/۲/۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸/۳۱۲۹)

لقمہ دینے پر تکبیر کہنے والے کی نماز کا حکم

سوال [۲۵۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: نماز عصر کی پہلی رکعت میں امام و مقتدی حالت رکوع میں تھے کہ دوسری منزل

سے آواز آئی کہ کوئی صاحب تکبیر زور سے کہد واوپر آواز نہیں آرہی ہے، اس پر زید نے جو مستقل مقتدی ہے، یہ سوچ کر کہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو ربنا لک الحمد سے تکبیر شروع کی نماز مکمل ہوگئی، اس پر بکرنے بلند آواز سے کہا کہ جن صاحب نے تکبیر کہی ہے ان کی نماز فاسد ہوگئی اور ساتھ میں جن لوگوں نے اوپر نماز پڑھی ان کی نماز بھی فاسد ہوگئی، اس پر کافی بحث و مباحثہ ہوا، آپ سے استدعا ہے کہ جواب دیں کہ نماز فاسد ہوئی یا درست ہوئی؟

المستفتی: مختار احمد گلی نمبر ۲/۲ کرولہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زید نے یہ سمجھ کر درمیان نماز میں تکبیرات کہنی شروع کیں؛ تاکہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں اور آواز دینے والے کے حکم کی محض تعمیل نہیں کی؛ بلکہ خود سوچ سمجھ کر یہ عمل کیا، جیسا کہ سوال سے یہ واضح ہوتا ہے، تو اس صورت میں زید اور زید کی تکبیر کی پیروی کرنے والے نمازیوں میں سے کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہوئی۔

لو امثثل أمر غیرہ، فقیل لہ تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت؛ بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه. وفي الشامي: مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات..... فجهر المؤذن إن قصد جوابه، فسدت صلواته. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، زكراً ۲/۳۸۱، كراچی ۱/۶۲۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۵/۳۲)

وينبغي للمصلي أن يمكث ساعة، ثم يتقدم برأيه. (البنایہ، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يفسد، اشرفیہ دیوبند، حاشیة الطحطاوي علی الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، كونه ۱/۲۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۳/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۰۹/۳۸)

بغل میں نماز پڑھنے والا کوئی رکن چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۵۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے حامد کے بغل میں نماز پڑھی زید سے نماز میں کوئی رکن فوت ہو گیا جو اس کو یاد نہیں رہا؛ لیکن حامد جو اس کے بغل میں ہے اس کو معلوم ہے تو کیا حامد کے ذمہ زید کے اس چھوٹے ہوئے رکن کی یاد دہانی کرا کے نماز کا اعادہ کروانا واجب ہے یا اس کو یونہی چھوڑ دے، ظاہری بات ہے کہ زید کو اپنے فوت شدہ رکن کے متعلق مطلقاً خبر نہیں ہے، تو نماز حقیقت میں ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بعد رنسیان معاف کر دے تو یہ اور بات ہے اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ حامد پر زید کو مطلع کرنا ضروری ہے یا مستحب یا کچھ اور؟

المستفتی: عبدالباسط اعظمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید سے نماز کا کوئی رکن فوت ہو گیا اور زید کو یاد بھی نہیں ہے، حامد جو اس کے بغل میں ہے اس کو معلوم ہے کہ زید نے فلاں رکن چھوڑ دیا ہے تو حامد کو اسے توجہ دلا دینی چاہئے؛ تاکہ وہ دوبارہ اپنی نماز کا اعادہ کر لے۔

ويجب الأداء بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالى. (در مختار مع

الشامی، کتاب الشهادات، زکریا ۸/۱۷۵، کراچی ۵/۶۳)

عن زید بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. (صحيح مسلم، الأفضيه، باب بيان خير الشهود، النسخة الهنديه ۲/۷۷، بيت الأفكار رقم: ۱۷۱۹)

عن زید بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. (المعجم الكبير للطبراني،

دار احیاء التراث العربی ۵/۲۳۲، رقم: ۵۱۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹/رجب ۱۴۲۷ھ

۱۰/۷/۱۴۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۸۹۳/۳۸)

تین رکعت پر سلام پھیرنے والے کو برابر والے کا لقمہ دینا

سوال [۲۵۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص رباعی نماز پڑھ رہا تھا بھولے سے تین رکعت پر سلام پھیر دیا چار رکعت سمجھ کر، برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا اس کو معلوم تھا کہ یقیناً اس نے تین رکعت پر سلام پھیرا ہے، اب اس برابر والے شخص پر اس مصلیٰ کو بتلانا ضروری ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالقدیر ٹانڈہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رباعی نماز میں اگر کوئی شخص بھول کر تین رکعت

پر سلام پھیر دے اور برابر والے کو اس کا صحیح علم بھی ہو تو اس صورت میں اس برابر والے کے بتانے کی وجہ سے اگر اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ہاں البتہ اگر برابر والے نے بتا دیا ہے اور یہ بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچتا رہے اور بیٹھ کر اسے خود یاد آ جائے اور خود یاد آنے کی وجہ سے کھڑا ہو جائے تو یہ شخص بتانے کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا؛ بلکہ یاد آنے کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے؛ لہذا اس کی نماز درست ہو جائے گی۔

أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضا. (شامي، كتاب الصلاة،

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، كراچي ۱/۶۲۲، زكريا ۲/۳۸۱، نعماني ۱/۴۱۸)

لو امثله أمر غيره، فقبل له تقدم فتقدم (إلى) فسدت؛ بل يمكث

ساعة، ثم يتقدم برأيه. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة

وما يكره فيها، زكريا ۲/۳۸۱، كراچي ۱/۶۲۲)

إن حصل التذکر بسبب الفتح تفسد مطلقاً: أي سواء شرع في التلاوة قبل تمام الفتح، أو بعده لوجود التعلم، وإن حصل تذکره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقاً. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، زکریا ۲/۳۸۱، کراچی ۱/۶۲۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۲/۱۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۱۹ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۰۸/۳۷)

۱۹/۲/۱۴۲۶ھ

تین آیات کے بقدر پڑھنے کے بعد مقتدی کا لقمہ دینا

سوال [۲۵۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام نے واجب مقدار سے زائد قرأت کر لی، پھر بھول گیا پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ قبول کر لیا تو نماز صحیح ہوئی یا اعادہ صلوٰۃ ضروری ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب سے مطلع فرمائیں؟

المستفتی: محمد زید الدین، موگنیری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز صحیح ہوگی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲۹۹/۱)

والصحيح أنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو أخذ منه على الصحيح. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما یفسد الصلاة، زکریا ۱/۹۹، جدید ۱/۱۵۷، وما یکره فیها، شرح کبیری، کتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، سهیل اکیڈمی، لاہو ۴۰/۴، مکتبہ رحیمیہ قدیم ۱۷/۴)

إن الفتح على إمامه لا يوجب فساد صلوٰۃ أحد لا الفاتح ولا الآخذ مطلقاً في كل حال الخ (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، زکریا ۲/۱۰،

کوئٹہ ۶/۲، الفتاویٰ التاتار خانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الخامس مايفسد الصلاة
ومالايفسد ۲/۳۲۵، رقم: ۲۲۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۲۳/۱۱)

عصر میں جہراً سورہ فاتحہ پڑھنے پر مقتدی کا اردو میں لقمہ دینا

سوال [۲۵۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عصر کی نماز میں امام سے سہواً الحمد بالجہر شروع ہوگئی اور ایک ڈیڑھ سطر بلند آواز سے پڑھ کر امام رک گیا، پیچھے سے ایک مقتدی نے لقمہ اس طرح دیا کہ ”عصر کی نماز ہے جی“ دوبار کہہ دیا مگر یہ کہہ کر مقتدی نے نیت توڑ کر دوبارہ نیت باندھ لی یہی سوچ کر نیت توڑی کہ لقمہ غلط طریقے پر دیا گیا ہے، تو امام، مقتدی کی نماز کیسے ہوئی، امام کو مقتدی کے بولنے پر خلیجان سا ہوا اور تلاوت سے رک کر آہستہ الحمد شریف شروع کر دی؟

المستفتی: محمد یونس

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب امام نے عصر کی نماز میں جہری قرأت شروع کر دی اور پیچھے سے کسی نے اردو زبان میں لقمہ دیا عصر کی نماز ہے جی، تو ایسی صورت میں صرف لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوگی، امام اور دوسرے مقتدیوں کی نماز درست ہوگی۔ نیز امام کا تھوڑی دیر رک کر آہستہ قرأت اس بات کی دلیل بھی ہے کہ امام نے اس مقتدی کا لقمہ نہیں لیا خود سوچ کر کے آہستہ قرأت کی ہے؛ البتہ امام پر سجدہ سہولاً لازم ہوتا ہے۔
إذا نسي الإمام شيئاً من الصلاة، فقال له أحد المأمومين أنت نسيت كذا، فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة. (الفقه على المذاهب الأربعة،

کتاب الصلاة، التکلم عمدا لاصلاح الصلاة، دارالفکر ۱/۹۸ (۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۲/۱۴ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۵۰۲/۳۶)

قرآن میں دیکھ کر لقمہ دینے سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟

سوال [۱۵۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید ریاض سعودی عرب کی ایک مسجد میں نائب امام ہے اور حنفی المسلمک ہے، تراویح بھی پڑھاتا ہے اور زید تراویح میں بغیر دیکھے پڑھتا ہے؛ لیکن یہاں کے عام معمول کے مطابق مقتدی حضرات قرآن کریم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور غلطی آنے پر مقتدی دیکھ کر ہی لقمہ دیتے ہیں، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ تراویح درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عارف قاسمی، مقيم ریاض سعودیہ عربیہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر نماز تراویح میں امام حنفی المسلمک ہے

اور مقتدی حنبلی یا مالکی یا غیر مقلد ہیں جن کے یہاں تراویح اور نوافل میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے، تو ایسے مقتدی اگر حنفی امام کو قرآن دیکھ کر لقمہ دیں اور امام لقمہ لے لے، تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقتدی کا لقمہ لینا تو جائز نہیں ہے لیکن مقتدی کا لقمہ لینا جائز ہے اور مسئلہ مذکورہ میں سلفی لوگ باضابطہ مقتدی ہیں اور ان کی اقتداء بھی صحیح ہے اور وہ نماز ہی کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوتی ہے؛ لہذا ایسے مقتدی اگر اپنے مسلک کے مطابق قرآن دیکھ کر لقمہ دیں تو جائزین کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی؛ اس لئے کہ وہ اپنے مسلک میں داخل نماز ہیں اور امام اپنے مسلک میں داخل نماز ہے؛ لہذا دونوں فریق نماز میں ایک ساتھ شامل ہیں۔

وبہ قال الشافعی: وأحمد، وعند مالک، وأحمد. في رواية لا تفسد في النفل. (اعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب فساد الصلاة بالقراءة من المصحف بيروت ۶۲/۵، مطبوعة كراچی ۵/۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۹۴۰/۳۸)

نماز میں سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرنا اولیٰ ہے یا وصل کرنا

سوال [۲۵۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرنا اولیٰ ہے یا وصل کرنا، اگر اول صورت ہے تو پھر وقف فرائض کے ساتھ خاص ہے یا سنن و نوافل سب کو عام ہے؟

المستفتی: محمد قاسم گانوڑی، بڑھا پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: احادیث شریفہ سے واضح ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرنا وصل کے مقابلہ میں افضل اور اولیٰ ہے، ترمذی شریف اور مسند امام احمد کی روایت اس سلسلہ میں صاف اور واضح ہے۔

عن أم سلمة^{رض} أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقطع قرأته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ○ الحمد لله رب العلمين ○ الرحمن الرحيم ○ مالك يوم الدين ○ الحديث (مسند امام أحمد ۶/۳۰۲، رقم: ۲۷۱۱۸)

عن أم سلمة^{رض}، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع قرأته يقرأ الحمد لله رب العلمين، ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف الحديث (ترمذی شریف، ابواب القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسخة الهندية ۲/۱۲۰، دار السلام رقم: ۲۹۲۷)

اور سوال میں یہ بات بھی پوچھی گئی ہے کہ فرائض اور نوافل میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں فقہاء کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ فرائض اور نوافل میں کچھ فرق ہے کہ فرائض میں ہر آیت پر وقف کرتے ہوئے ترسل اور تدبر کیساتھ قرأت کرنا افضل معلوم ہوتا ہے اور تراویح میں تدویر کی قرأت اختیار کرنا افضل معلوم ہوتا ہے اور عام نوافل میں ہر طرح کی گنجائش ہے؛ لیکن اس کا لحاظ بہر حال ضروری ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے، اس کے معنی اور مطالب بخوبی سمجھ میں آتے رہیں۔

القراءة على ثلاثة أوجه في الفرائض على التؤدة، والترسل، والتدبر حرفاً حرفاً، وفي التراويح يقرأ بقراءة الأئمة بين التؤدة والسرعة وفي النوافل بالليل له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم وذلك مباح. (غنية المستملي في شرح منية المصلي تمتات فيما يكره من القرآن، اشرفیہ دیوبند ۴۹۴)

وفي الحجة: يقرأ في الفرض بالترسل حرفاً حرفاً، وفي التراويح بين بين، وفي النفل ليلاله أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم. (در مختار مع الشامی، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين و سنة كفاية زكريا ۲/۲۶۲، کراچی ۱/۵۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۱۲/۱۴۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۳۰۳۳۰)

نماز کی مسنون سورتیں

سوال [۲۵۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید امامت کرتا ہے کوئی صاحب ان کو جلدی جلدی نماز پڑھانے پر مجبور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نمازیوں کو شکایت ہے کہ اتنی جلدی نماز کیوں اداء کی جاتی ہے

اور امام صاحب سے پوچھنے پر وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے میں مجبور ہوں کیا کروں اور ان صاحب کے کہنے کے وجہ سے امام صاحب بھی جلد سے جلد نماز پڑھاتے رہتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں امام صاحب کے لئے ایسا کرنا صحیح ہے؛ چنانچہ ان صاحب کے کہنے کی بنا پر نماز فجر میں سورۃ النشراح، سورۃ الضحیٰ، سورۃ قدر، سورۃ نکاث، سورۃ ہمزہ اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان سورتوں کا پڑھنا امام صاحب کے لئے فجر میں اگرچہ جائز ہے؛ لیکن مستحب اور اولیٰ کیا ہے؟

مغرب اور عشاء میں بھی ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور فجر میں بھی اکثر و بیشتر ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، مستحب اور اولیٰ کیا ہے؟ اس کو تحریر فرمائیں۔ اور کون سی نماز کتنے وقت میں کم از کم ادا کرنی چاہئے؟ ان سوالوں کا جواب اچھے انداز میں تحریر فرمائیں؛ تاکہ امام صاحب بھی اپنے آپ کو متنبہ کر سکیں اور مقتدیوں کے اعتراض کا خاتمہ بھی ہو جائے۔

المستفتی: متولی حکیم شاکر علی خاں، کوثر علی خاں، بھٹی محلہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عام حالات میں بحالت اقامت امام و منفرد کے لئے فجر و ظہر میں طوال مفصل پڑھنا مسنون ہے: یعنی سورۃ حجرات سے سورۃ بروج تک کی سورتیں یا ان سورتوں کی مقدار کسی دوسری جگہ سے پڑھنا مسنون ہے اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل: یعنی سورۃ بروج سے سورۃ لم یکن تک کی سورتیں یا ان سورتوں کے مقدار کسی اور جگہ سے پڑھنا مسنون ہے اور قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔

ویسن فی الحضر لإمام، و منفرد، ذکرہ الحلبي والناس عنہ غافلون طوال المفصل من الحجرات إلى آخر البروج في الفجر، والظہر ومنها إلى آخر لم یکن أوسطه في العصر والعشاء وبقیہ قصارہ في المغرب الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين

واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر، والظهر، وأوسطه في العصر، والعشاء، وقصاره في المغرب، كذا في الوقاية، وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر، هكذا في المحيط والوقاية ومنية المصلى .
(هنديہ، کتاب لصلاة، باب في صفة الصلاة، الفصل الرابع في القراءة ۱/۷۷، جدید زکریا ۱/۱۳۵)
عن سليمان بن يسار^{رض}، عن أبي هريرة^{رض}، أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه صلاة برسول الله صلى الله من فلان، قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الآخرين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل . (مسند أحمد بن حنبل ۲/۳۰۰، رقم: ۷۹۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۹۶۸/۲۶)

ظہر میں اوساط مفصل اور عشاء میں طوال مفصل پڑھنا

سوال [۲۵۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی آدمی ظہر میں اوساط مفصل اور عشاء میں طوال مفصل پڑھے تو اس طرح پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں؟

المستفتی: مزمل الحق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل کی سورتیں

پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی اوساط مفصل سے پڑھتا ہے، تو ترک سنت کی بناء پر ایسا کرنا مکروہ تزیہی ہے اور عشاء کی نماز میں طوال مفصل سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کسی قسم کی کراہت نہیں، ہاں اگر امام ہو اور مقتدیوں پر گرانی ہو تو طوال مفصل سے نہ پڑھے اوساط مفصل ہی سے پڑھے۔

عن أبي هريرة^{رض}، أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخيرين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. (مسند أحمد ۲/۳۰۰، رقم: ۷۹۷۸)

ويسن في الحضرة لإمام، و منفرد طوال المفصل من الحجرات إلى آخر البروج في الفجر والظهر. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين و سنة كفاية، زكريا ۲/۲۶۰، كراچی ۱/۵۴۰)

وفي الحضرة: استحسنا طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوسطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، ومن الحجرات طواله إلى البروج ومنها أوسطه إلى لم يكن، ومنها قصاره إلى الآخر. (شرح وقايه، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، اشرفي ديوبند ۱/۱۵۰)

والجملة فيه، أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، فصل إذا أراد الدخول في الصلاة كبر، زكريا ۱/۵۹۶، كوئٹہ ۱/۳۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۹۶۹)

نماز میں ترتیب وار قرآن پڑھنا

سوال [۲۵۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص ترتیب وار قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے فرض نمازوں کے اندر؛ جبکہ خود وہ امام ہے فرض نمازوں میں سے بھی صرف جہری کے اندر برائے کرم جواب با صواب عنایت فرمائیں؟

المسئفتی: شمیم احمد قصبہ کوری روانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جہری نماز میں ترتیب وار مقدار مسنونہ کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کریم پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں؛ لیکن مقتدیوں کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نیز زیادہ اولیٰ اور مستحسن مفصلات میں سے پڑھنا ہے۔ (مستفاد: کفایت الفتی قدیم ۴۱۴/۳، جدید زکریا ۴۶۰/۳)

وقوله تعالیٰ: 'فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ط [سورة مزمل: ۲۰]
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ۱/۹۷، رقم: ۶۹۴، ف ۷۰۳)

لابأس أن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة. (در مختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في القراءة خارج

الصلاة، کراچی ۱/۵۴۶، زکریا ۲/۲۶۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۲ھ

۱۴۱۲/۶/۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۴۳/۲۸)

خلاف ترتیب قراءت کرنا

سوال [۲۵۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ قیامہ کا ایک رکوع پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ مؤمنون کی آخری آیات أفحسبتم أنما خلقناکم عبثا وأنکم إلینا لاترجعون الخ پڑھا تو اب دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا اس طرح نماز درست ہو جاتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد قاسم، محمد پورگوٹہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں نماز درست ہوگی؛ البتہ نماز میں اس طرح خلاف ترتیب قراءت کرنا مکروہ ہے۔

وإذا قرأ في ركعة سورة وفي الركعة الأخرى، أو في تلك الركعة سورة فوق تلك السورة يكره. (هنديہ، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، زكريا ۱/۷۸، جديد زكريا ۱/۱۳۶، شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية، كراچي ۱/۵۴۷، زكريا ۲/۲۶۹)

وإذا قرأ في ركعة سورة وفي الأخرى سورة فوق تلك السورة، أو قرأ في ركعة سورة، ثم قرأ في تلك الركعة سورة أخرى فوق تلك السورة يكره. (الفتاوى التاتارخانيه، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القراءة، زكريا ۲/۶۸، رقم: ۱۷۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۶/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۲۱ھ جمادی الثانیہ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۲۵/۳۵)

کیا قرأت میں تواتر آیات شرط ہے؟

سوال [۲۵۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ کیا نماز میں تواتر آیت شرط ہے یا نہیں: یعنی اگر کسی شخص کی نماز میں دوسری یا تیسری آیت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی یا اعادہ صلوٰۃ ضروری ہے؟

(۲) اگر آیت کے چھوٹ جانے کی حالت میں نماز ہو جاتی ہے، پھر کسی کے کہنے سے اعادہ صلوٰۃ کرتا ہے تو مسبوقین کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: فضل اللہ، بھاگلپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) نماز میں تواتر قرأت سنت ہے؛ لہذا قرأت شروع کرنے کے بعد پہلی یا دوسری آیت کے بعد کوئی آیت چھوٹ جائے تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بالقصد چھوڑ دے اس کے بعد آگے سے پڑھنا شروع کر دے یا کوئی دوسری سورت پڑھنا شروع کر دے، تو اس طرح بالقصد کرنے سے نماز میں کراہت لازم آتی ہے، مگر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے اور اگر عذر اور بھول و نسیان کی وجہ سے ہوتا ہے تو کراہت بھی نہیں ہے اور دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے۔

وإذا انتقل من آية إلى آية أخرى من سورة أخرى، أو من هذه السورة وبينهما آيات يكره. (الفتاویٰ التاتارخانیة، کتاب الصلاة، الفصل الثانی فی فرائض

الصلاة، فصل فی القراءة ۶۷/۲، رقم: ۱۷۶۴)

و کذا لو انتقل إلى آية أخرى من تلك السورة وترك بينهما شيئاً.....
وأما إذا كان عذر كان حضر بعد تلك الآية قبل أن يتم سنة القراءة،

فلایکره الانتقال إلى آية أخرى من تلك السورة، أو من سورة أخرى للعدر، هذا إن انتقل قصداً، فإن انتقل من غير قصد، ثم تذكر ينبغي أن يعود ذكر في القنية، وإن لم يعد فلا كراهة أيضاً لعدم القصد. (صغیری، مطبع محتبائی دہلی، ۱۹۲، کبیری، کتاب کراهیة الصلاة، فروع فی الخلاصة جدید، اشرفیہ دیوبند ۳۶۳، قدیم ۳۵۰)

(۲) آیت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے؛ لیکن اگر پھر بھی اعادہ کیا جائے تو اس نماز میں بعد میں آنے والوں کو شریک نہیں ہونا چاہئے، اگر شریک ہو جائیں، تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا، ان کو اپنی نماز دہرائی لازم ہے۔

فإن كانت تلك الكراهة تحريم تجب الإعادة، أو تنزيه تستحب. (ہندیہ، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة و ما یکره فیها، الفصل الثانی فیما یکره فی الصلاة، زکریا ۱/۱۰۹، جدید زکریا ۱/۱۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۲۹۱/۳۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۳/۱۳ھ

درمیانی سورت میں ایک آیت پر چھوڑ کر پڑھنے کا حکم

سوال [۲۵۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اما صاحب نماز مغرب پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قارعہ پڑھے، نتیجہ یہ ہوا کہ یوم یكون الناس پڑھ دیا تو اس طرح نماز درست ہو جائے یا اعادہ صلوة لازم ہے؟ کیا تین آیت کا تو اتر اُپڑھنا ضروری ہے یا مختلف سورہ سے تین آیت پڑھ دیں تب بھی نماز ہو جائے گی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں تواتر قرأت سنت ہے، لہذا قرأت شروع

کرنے کے بعد پہلی دوسری آیت کے بعد کوئی آیت چھوڑ جائے، تو اس کی دو شکلیں ہیں:

ایک شکل تو یہ ہے کہ بالقصد چھوڑ دے، اس کے بعد آگے سے پڑھنا شروع کر دے

یا کوئی دوسری سورۃ پڑھنا شروع کر دے، تو اس طرح بالقصد کرنے سے نماز میں کراہت

لازم آجاتی ہے، مگر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے اور اگر عذر اور بھول و نسیان کی وجہ سے ہوتا ہے،

تو کراہت بھی نہیں ہے اور دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے۔

و کذا لو انتقل إلى آية أخرى من تلك السورة وترك بينها شيئاً،

وأما إن حصر بعد ذلك الآية قبل أن يتم سنة القراءة، فلا يكره الانتقال

إلى آية أخرى من تلك السورة أو من سورة أخرى للعذر، هذا إن انتقل

قصداً فإن انتقل من غير قصد، ثم تذكر ينبغي أن يعود ذكر في القنية: وإن

لم يعد فلا كراهة أيضاً لعدم القصد. (صغيري، مطبع مجتہائی دہلی ۱۹۲،

کبیری، فصل في بيان الذي يكره فعله في الصلوة وما لا يكره قديم ۳۵۰، جدید اشرفیہ

دیوبند ۳۶۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۲/۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف رجسٹر خاص)

کیا نماز پنجگانہ، تراویح اور سنن و نوافل میں ترتیل لازم ہے؟

سوال [۲۵۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید عالم دین کا کہنا ہے کہ جس طرح تراویح کی نماز میں قرأت ترتیل کے

ساتھ تیزی سے کی جاتی ہے، اسی طرح قرأت فرض نمازوں میں ہونی چاہئے، یعنی تراویح

فرض، واجب، سنت، نفل، جہری، سری سب نمازوں میں قرأت یکساں ترتیل کے ساتھ ہونی چاہئے، کیا زید عالم دین کا یہ کہنا درست ہے یا فرض اور سنت، نفل، جہری یا سری نمازوں میں قرأت میں کچھ فرق ہے؟

المستفتی: محمد اصغر سیڈھا بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قرآن کریم کی تلاوت کی رفتار کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) **ترتیل و ترسیل:** جو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔

(۲) **تدویر:** اس میں ترتیل کے مقابلہ میں رفتار کچھ تیز ہوتی ہے۔

(۳) **حدر:** اس میں تدویر سے بھی رفتار کچھ تیز ہوتی ہے، مگر خارج وادائیگی و لہجہ

سب کی رعایت کی جاتی ہے اور قرآن کریم کو خارج صلاۃ اور داخل صلاۃ مذکورہ تینوں طریقوں کے مطابق پڑھنا بلا تکلف و بلا کراہت جائز اور درست ہے؛ ہاں البتہ فقہاء نے فرض نمازوں کے لئے ترتیل و ترسیل کو زیادہ بہتر کہا ہے اور تراویح کے لئے تدویر یا حدر کو بہتر کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر تراویح میں ایک پارہ پڑھا جائے تو تدویر کے ساتھ پڑھنا چاہئے اور اگر دو دو یا تین تین پارے پڑھے جائیں تو حدر کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے؛ اس لئے کہ تین پارہ پڑھنے کی شکل میں اگر ترتیل و ترسیل کے ساتھ پڑھا جائے، تو سامعین مشقت محسوس کریں گے اور باجماعت نمازوں میں مقتدیوں کی رعایت بھی امر مطلوب ہے۔

وفي فتاوى الحجة: ثم القراءة على ثلاثة أوجه في الفرائض على

التؤدة والترسل، والتدبر حرفا حرفا، وفي التراويح يقرأ بقراءة الأئمة بين التؤدة والسرعة، وفي النوافل بالليل له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم وذلك مباح. (الفتاوى الشاتار خانيه، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة،

فصل في القراءة جديدة، زكريا ۶۷/۲، رقم: ۱۷۶۲، قديم كراچي ۱/۴۵۲)

وفي الحجّة: يقرأ في الفرض بالترسل حرفاً حرفاً، وفي الترايح بين بين، وفي النفل ليلاً له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية، زكريا ۲/۲۶۲، كراچی ۱/۵۴۱)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والضعيف، والمريض الخ. (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، النسخة الهندية ۵۵۱، دارالسلام رقم: ۲۳۶)

عن أنس بن مالك، قال: ألا أصلي بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلوة حسنة لم يطول فيها. (مسند أحمد ۳/۱۹۷، رقم: ۱۳۰۶۸) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۳/۶ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶/ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۴۰/۳۸)

فجر کی پہلی رکعت دوسری سے کتنی لمبی ہونی چاہئے؟

سوال [۲۵۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عام کتب فقہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی نسبت طویل کرنا سنت ہے؛ لیکن اس کی مقدار کیا ہوگی؟ نیز دوسری رکعت پہلی رکعت سے پونی ہو یا آدھی فقہی اعتبار سے یہ تعبیر درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ نیز حوالہ کے ساتھ عبارت بھی تحریر فرمادیں بڑی مہربانی ہوگی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فجر کی پہلی رکعت دوسری رکعت کی بہ نسبت طویل ہونی چاہئے اور اس طوالت کی مقدار حتمی طور پر متعین نہیں ہے؛ بلکہ دوسری رکعت پہلی رکعت کے مقابلہ میں پونی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک چوتھائی چھوٹی ہو اور دوثلث کے برابر بھی ہو سکتی ہے اور نصف بھی ہو سکتی ہے، یعنی آدھی اور ایک ثلث بھی ہو سکتی ہے، یعنی تین حصہ کر کے ایک حصہ کے برابر اور حسب ضرورت اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی ہے؛ اس لئے اس میں کافی گنجائش ہے؛ لہذا دوسری رکعت پہلی رکعت کے مقابلہ میں پونی اور آدھی ہونا بھی جائز ہے اور فقہی اعتبار سے اس تعبیر میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

عن أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ في الركعتين الأولىين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلوة الصبح، ويقصر في الثانية. (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر ۱/ ۱۰۵ رقم: ۷۵۰، ۷۵۹، مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، والعصر، النسخة الهندية ۱/ ۱۸۵، بيت الأفكار رقم: ۴۵۱)

وتطال أولى الفجر على ثانیتها بقدر الثلث، وقيل: النصف ندباً فلوفحش لا بأس به فقط بأن تكون زیادة (درمختار) ”بقدر الثلث“ بأن تكون زیادة ما فی الأولى علی ما فی الثانية بقدر ثلث مجموع ما فی الركعتین، كما فی الكافي حيث قال: الثلثان فی الأولى والثالث فی الثانية. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية، كراچی ۱/ ۵۴۱، زکریا ۲/ ۲۶۲، ۲۶۳)

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: ويطول الركعة الأولى من الفجر

علی الثانیة، ويجب أن يعلم أن إطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية من الفجر مسنونة بالإجماع..... بعد هذا قد اختلف المشائخ بعضهم قالوا: ينبغي أن يكون التفاوت بينهما بقدر الثلث، والثلثين، والثلثان في الأولى، والثلث في الثانية. (تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة، فصل في القراءة، زكريا ۲/۷۳، رقم: ۱۷۸۵)

وفي شرح الطحاوي: وينبغي أن يقرأ في الأولى بثلاثين آية، وفي الثانية بقدر عشرين آيات وعشرين..... وإن كان فاحشاً بأن يقرأ في الأولى سورة طويلة، وفي الثانية ثلاث آيات لا بأس به. (هندية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، زكريا ۱/۷۸، جديد زكريا ۱/۱۳۵) فقط واللهم سبحانه وتعالى اعلم

کتابہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۵۴۳۹)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۰/۴/۱۴۳۲ھ

ایک رکعت میں مکمل سورۃ پڑھنا اولیٰ ہے

سوال [۲۵۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چودہویں پارہ کی چند آیتیں ان ابراہیم سے وَاِنَّهٗ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ تک پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ قریش پارہ ۳۰ سے پڑھی مغرب کی نماز میں، اب صحیح مسئلہ بیان فرمائیے کہ یہ خلاف اولیٰ ہوا یا نہیں؟

المستفتی: حافظ طفیل احمد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اولیٰ اور افضل ہر رکعت میں پوری سورت کا پڑھنا ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت غیر اولیٰ ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ، ذکر ۲۳۱، فتاویٰ دارالعلوم ۲۳۶۲)

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ما من سورة في المفصل صغيرة ولا كبيرة، إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها في الصلاة كلها. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ٢٨٠/١٢، رقم: ١٣٣٥٩)

عن عائشة[ؓ]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلوة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين. (سنن نسائي، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب، النسخة الهندية ١/١٤، دار الفكر رقم: ٩٩٢)

الأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة..... ولو قرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة قيل يكرهه، وقيل لا يكرهه، وهو الصحيح؛ ولكن لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به. (عالمگیری، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، زكريا ٧٨/١، جديد زكريا ١/١٣٥)

الأفضل أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة تامة، ولو قرأ بعض السورة في ركعة، والبعض في ركعة، بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: يكرهه؛ لأنه خلاف ما جاء به الأثر، وفي الغياثية: وكأنهم أرادوا بذلك سورة قصيرة، وروي عن أصحابنا، أنه لا يكرهه، وفي الظهيرية: هو الصحيح، وفي الخلاصة: لا يكرهه؛ ولكن لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة، فصل في القراءة جديد، زكريا ٢/٦٦، رقم: ١٧٥٩) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
١٢٤/١١/١٤١٠ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

٢٤ ذی قعدہ ١٤١٠ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ٢٦٠/٢٠٣٤)

پہلی رکعت میں سورہ زلزال دوسری میں عادیات کے درمیان افلا یعلم سے پڑھنا

سوال [۲۵۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ عادیات کے درمیان سے یعنی افلا یعلم سے پڑھا تو کیا نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد صابر حسین مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسؤلہ میں نماز ہوگئی؛ البتہ درمیان میں چھوٹی سورہ یا چند آیات جو پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورہ یا آیت سے کم ہو قصداً چھوڑ دینا مکروہ ہے اور اگر شروع سے ہی درمیان سورہ سے پڑھا اور بالقصد و تین آیتیں چھوڑ دیا تو بھی مکروہ ہے، مگر نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی اور اگر بھولے سے ایسا کیا تو نماز مکروہ بھی نہیں ہے۔

ویکرہ الفصل بسورۃ قصیرۃ، وأن یقرأ منکوسا. (شامی، کتاب الصلاة،

باب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقرآن فرض کفاية، کراچی ۱/۵۴۶، زکریا ۲/۲۶۹)

والفصل بالقصیرۃ إنما یکرہ إذا کان عن قصد، فلو سهواً فلا کما فی

شرح المنیة. (مستفاد: امداد الفتاویٰ، زکریا ۱/۲۲۶، ایضاً ۱/۲۶۰)

إذا جمع بین السورتین بینہما سورۃ واحدة فی رکعة واحدة فإنه

یکرہ، وفي الذخيرة: بالإتفاق، وإن کان فی الرکتین، فإن کان بینہما سور

لا یکرہ، وإن كانت سورۃ واحدة، قال بعضهم یکرہ، وقال بعضهم: إن كانت

السورۃ طویلة، لا یکرہ. (الفتاویٰ التاتاریخانیة، کتاب الصلاة، الفصل الثاني فی فرائض

الصلاة، فصل في القراءة جديدة زكريا ۲/۶۸، رقم: ۱۷۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ

۲۰/۷/۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۶۳/۳۴)

پہلی رکعت میں سورہ زلزال اور دوسری میں والعدیات پڑھنا

سوال [۲۶۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: (۱) کہ امام عشاء کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ زلزال اور دوسری رکعت میں سورہ والعدیات پڑھتا ہے۔

(۲) نماز عشاء میں ہی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ

غاشیہ پڑھتا ہے۔

(۳) نماز فجر میں پہلی رکعت کے اندر سورہ نبا دوسری رکعت میں سورہ نازعات

پڑھتا ہے، تو کیا ان تینوں صورتوں میں پہلی رکعت میں چھوٹی سورہ، دوسری رکعت میں بڑی سورہ ہونے کی وجہ سے جو کہ سنت کے خلاف ہے نماز میں کراہت آئے گی یا نہیں، یا ان تین صورتوں میں سے کسی خاص صورت میں کراہت ہے یا تینوں میں نہیں؟

المستفتی: عبداللہ خان، معلم مدرسہ تعلیم القرآن چاند پور بجنور (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس کے لئے دو ضابطہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) بڑی صورتوں میں رکعت ثانیہ میں سات آیتوں تک کی زیادتی مکروہ نہیں ہے اور چھوٹی

صورتوں میں تین آیتوں تک کی زیادتی مکروہ نہیں ہے اور اس سے زائد کی زیادتی مکروہ ہوتی ہے۔

عن النعمان بن بشیرؓ، قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقرأ

فی العیدین، وفي الجمعة، بسبح اسم ربک الاعلیٰ، وهل اتاک حدیث

الغاشیة الحدیث . (مسلم، کتاب الجمعة، باب فی قراءة سورة الجمعة والمنافقین،
النسخة الهندیة ۱/۲۸۸، بیت الأفكار رقم: ۸۷۸)

وتكره الزيادة الكثيرة، وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في
الأولى من الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث
الغاشية، فزاد على الأولى بسبع؛ لكن السبع في السور الطوال يسير دون
القصار الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين وسنة
كفاية، زكريا ۲/۲۶۴، كراچی ۱/۵۴۳، حلبی كبر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة
قديم ۳۰۵، جدید اشرفیہ دیوبند ۳۱۳، الفتاوی التاتار خانیه، كتاب الصلاة، الفصل الثاني
في فرائض الصلاة، فصل في القراءة، زكريا ۲/۶۹، رقم: ۱۷۷۱)

والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية، أن إطلاق كراهة
إطالة الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور
الإطالة حينئذ فيها . (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة
عين، زكريا ۲/۲۶۴، كراچی ۱/۵۴۳، حاشية الطحطاوي جديد، دارالكتاب ديوبند فصل
في مكروهات الصلاة ۳۵۱)

(۲) اگر دونوں سورتوں کی آیتیں طول و قصر میں برابر برابر ہوں تو چھوٹی اور لمبی کا
اعتبار آیتوں کی تعداد سے ہوگا اور اگر دونوں سورتوں کی آیتیں برابر برابر نہیں ہیں؛ بلکہ ایک کی
آیتیں لمبی لمبی اور دوسری کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو طول و قصر کا اعتبار آیتوں کی تعداد سے
نہ ہوگا؛ بلکہ حروف اور کلمات سے ہوگا۔

إن التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها، وأما عند تفاوتها، فالمعتبر
التقدير بالكلمات أو الحروف الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة،
مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية، زكريا ۲/۲۶۴، كراچی ۱/۵۴۳، منحة الخالق
على البحر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل إذا أراد الدخول في الصلاة
كبر، زكريا ۱/۵۹۸، كوئٹہ ۱/۳۴۲)

اور سورہ زلزال کی آیتیں سورہ عادیات کی آیتوں سے لمبی لمبی ہیں؛ اس لئے آیتوں کی تعداد کا اعتبار نہ ہوگا؛ بلکہ حروف و کلمات کا ہوگا اور حروف و کلمات کے اعتبار سے سورہ والعدایات سورہ زلزال سے تین آیت کے بقدر بڑی نہیں ہے؛ اس لئے مذکورہ شکل میں نماز مکروہ نہ ہوگی، سورہ غاشیہ کی آیتیں سورہ اعلیٰ کی آیتوں سے چھوٹی ہیں؛ اس لئے کلمات کا اعتبار ہوگا۔ نیز بڑی سورتوں میں سات آیت کی زیادتی جائز ہے مکروہ نہیں ہے؛ اس لئے عشاء کی نماز بھی مکروہ نہ ہوگی۔ اور سورہ نباء سے سورہ نازعات ۶ آیتوں سے بڑی ہے اور بڑی سورتوں میں سات آیتوں تک زیادتی مکروہ نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے فجر کی نماز بھی مکروہ نہ ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۲/۲/۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۴۱/۲۷)

پہلی رکعت میں سورہ بروج کی آخری تین آیتیں اور دوسری میں سورہ قمر لیش پڑھنا

سوال [۲۶۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پیش امام نے مغرب کی پہلی رکعت میں سورہ بروج کی آخری تین آیات پڑھیں اور دوسری رکعت میں لإیلاف قریش پوری سورہ پڑھیں، ایسی صورت میں نماز میں تو کوئی کمی نہیں آئی نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد اطہر افضل گڈھ بجنور (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں نماز کے اندر کوئی کراہت

اور خرابی نہیں آئی۔

لوقرأ في الركعة الأولى آخر سورة، وفي الركعة الثانية سورة قصيرة كما لوقرأ آمن الرسول في ركعة، وقل هو الله احد في ركعة لا يكره الخ. (عالمگیری، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، قديم زكريا ۷۸/۱، جدید ۱۳۶/۱)

لوقرأ في الركعة الأولى من آخر سورة، وفي الركعة الثانية من وسط سورة أو سورة قصيرة كما لوقرأ ”آمن الرسول“ في ركعة و”قل هو الله احد“ في ركعة، لا يكره. (الفتاویٰ التاتارخانيه، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة، فصل في القراءة ۲/۲۶، رقم: ۱۷۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۰۲۷۷)

نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کی قرأت پر ایک اعتراض کا جواب

سوال [۲۶۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض لوگ امام کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور تنقید کرنے میں ایک عالم صاحب بھی ہیں کہ قرأت مختصر کریں؛ جبکہ امام صاحب نماز فجر میں اکثر سورہ حجرات کی برابر آیتیں پڑھتے ہیں، مغرب میں سورہ زلزال، فیل وغیرہ، عشاء میں سورہ فجر وغیرہ نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ دوسری رکعت میں غاشیہ اور کبھی کبھی والتین وغیرہ بھی تلاوت کرتے ہیں امام کے اوپر تنقید کرنے والوں میں عالم صاحب خاص طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کنوسی فقہ میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھ دی، غور طلب یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ نماز جمعہ میں پڑھنا مسنون ہے یا نہیں۔ نیز نمازوں میں قرأت کی جو کیفیت اوپر بیان کی ہے وہ سنت کے خلاف ہے؟

المستفتی: محمد ایوب طویل اسٹریٹ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نجر اور ظہر میں طوال مفصل (سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک) اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل (سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک) اور مغرب میں قصار مفصل (سورہ زلزال سے سورہ ناس تک) کی قرأت یا ان کی مقدار قرأت قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے مسنون ہے؛ لہذا امام صاحب کی قراءت کی جو کیفیت سوال نامہ میں بیان کی گئی ہے، وہ خلاف سنت نہیں حضور ﷺ اسی طرح کی قرأت کی ترغیب دیا کرتے تھے اور نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی قرأت مسنون ہے اور صحیح احادیث شریفہ سے آپ ﷺ کے نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنے کا معمول ثابت ہے۔

لہذا نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی قرأت کرنے پر عالم صاحب کا اعتراض کرنا درست نہیں؛ ہاں البتہ کبھی کبھار دوسری سورتیں یا دوسرے مقامات سے بھی قرأت کر لینی چاہئے۔

عن سلیمان بن یسار، عن أبي هريرة، أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من فلان لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل، قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز، فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. (مسند أحمد بن حنبل ۲/۳۲۹، ۳۳۰، رقم: ۸۳۴۸)

ويسن في الحضرة لإمام، و منفرد، طوال المفصل من الحجرات إلى آخر البروج في الفجر، والظهر، وأوسطه أي من البروج إلى آخر لم يكن في العصر، والعشاء، وباقيه أي قصاره في المغرب. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين و سنة كفاية، كراچي ١/٥٤٠، زكريا ٢/٢٦٠ - ٢٦٢، هندي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلوة، الفصل الرابع في القراءة، زكريا ١/٧٧، جديد زكريا ١/١٣٥)

أما لو قرأ لتيسر عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام، فلا كراهة؛ لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لتلاظن الجاهل أن غيرها لا يجوز. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين و سنة كفاية، كراچي ١/٥٤٤، زكريا ٢/٢٦٦)

عن سمرة بن جندب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلوة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتك حديث الغاشية وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتك حديث الغاشية. (نسائي شريف، كتاب الصلاة، القراءة في صلوة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، النسخة الهندية ١/١٦٠، دارالسلام رقم: ١٤٢٣، ١٤٢٤، مسلم شريف، كتاب الجمعة، فصل في قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح اسم ربك الأعلى، النسخة الهندية ١/٢٨٨، بيت الأفكار رقم: ٨٧٨، ابو داؤد شريف، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الجمعة، النسخة الهندية ١/١٦٠، دارالسلام رقم: ١١٢٢) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

الجواب صح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
١٤٢٩/٢/١٥

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

١٤٢٩ الثانی

(الف فتوى نمبر: ٩٥٥٣/٣٨)

وتر میں کسی سورۃ کو متعین کرنا

سوال [۲۶۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اکثر ائمہ کرام (حفاظ عموماً) تراویح کے بعد وتر میں آخری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں، کیا یہاں بھی مندرجہ بالا سورۃ مقرر کر کے پڑھنے کی ممانعت لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟

المسئتی: اقتدار انیس صدیقی، اصالت پورہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فقہاء عظام نے نماز میں کسی سورۃ کے متعین کرنے کو جمنع کیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ کہیں آدمی یہ گمان نہ کر لے کہ اس سورۃ کے علاوہ کوئی اور دوسری سورۃ نہیں پڑھ سکتے؛ البتہ وتر کی تیسری رکعت میں حضور ﷺ سے سورۃ اخلاص پڑھنا ثابت ہے؛ لہذا اس نیت سے کوئی پڑھے تو حصول ثواب کی امید ہے؛ لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی کرے تو بہتر ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الأعلى وقل یا ایہا الکافرون وقل ہو اللہ احد فی رکعة رکعة. (سنن الترمذی، ابواب صلاة الوتر، باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر، النسخة الهندیة ۱/۱۰۶، دارالسلام رقم: ۴۶۲)

ویقرأ وجوباً فی کل رکعة منه الفاتحة وسورة لما روی، أنه علیہ السلام قرأ فی الأولى منه أي بعد الفاتحة بسبح اسم ربک الأعلى وفي الثانية ب "قل یا ایہا الکافرون" وفي الثالثة ب "قل ہو اللہ احد". (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلاة، باب الوتر وأحكامه جدید، دارالکتاب دیوبند ۳۷۵)

والسنة السور الثلاث: أي الأعلى، والكافرون، والإخلاص؛ لكن في النهاية: أن التعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب وهو لا يجوز. (شامي، كتاب الصلاة، باب الوتر، والنافل، مطلب في منكر الوتر والسنن، أو الإجماع، كراچی ۶/۲، زکریا ۴۴۱/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۴/۹۴۷)

وتر کی پہلی رکعت میں وضیحی دوسری میں الم نشرح تیسری میں والتین پڑھنا

سوال [۲۶۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید رمضان کے مہینے میں وتر کی نماز میں امامت کرتا ہے اور پہلی رکعت میں سورۃ ضحیٰ اور دوسری رکعت میں الم نشرح اور تیسری رکعت میں والتین پڑھتا ہے، ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس ترتیب سے سورتیں پڑھنا صحیح نہیں؛ کیوں کہ الم نشرح کے بعد سورۃ والتین پڑھنا یہ چھوٹی سورۃ کے بعد بڑی سورۃ کا پڑھنا ہے، امام کہتا ہے کہ یہ ترتیب بالکل صحیح ہے؛ کیونکہ یہ قرآن کی ترتیب ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ کس کا قول صحیح ہے اور کس کا قول غلط ہے؟

المستفتی: محمد ہارون، لکھنؤ پوری، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سورۃ الم نشرح کے بعد سورۃ والتین کا

پڑھنا دو وجہوں سے کراہت میں داخل نہیں۔

(۱) ترتیب قرآن کے مطابق ہے۔

ولابأس بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف، عرف ذلك بفعل

الصحابة رضي الله عنهم الخ (فتاویٰ قاضیخان، علی الہندی، فصل فی قراءۃ القرآن، مسائل کیفیۃ القراءۃ، زکریا ۱/۱۶۱، قاضیخان جدید زکریا ۱/۱۰۱)

(۲) دونوں سورتیں آیتوں کے اعتبار سے برابر ہیں، دونوں میں آٹھ آٹھ آیتیں ہیں اور اتنی چھوٹی سورتوں میں طول و قصر میں تین آیتوں کے طول میں کراہت تزیہی ہوتی ہے اور یہاں یہ بات نہیں ہے؛ لہذا زید امام کا قول صحیح ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲/۱۶۳، جدید ڈائجیل ۷/۸۶)

فالعبرة كثرة الآئی لا كثرة الكلمات والحروف (إلى قوله) أن يكون التفاوت بينهما بقدر الثلث والثلثین، الثلثان في الأولى والثالث في الثانية الخ. (فتاویٰ تاتارخانیہ قدیم ۱/۴۵۶، جدید کتاب الصلاة، الفصل الثانی فی فرائض الصلاة فصل فی القراءۃ ۲/۷۳، رقم: ۱۷۸۶، طحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی مکروہات قدیم ۱۹۳، جدید دارالکتاب دیوبند ۳۵۱)

وإطالة الثانية على الأولى يكره إجماعاً، إن بثلاث آيات وإن بأقل لا يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمعوذتين يعني في صلاة الفجر والسورة الثانية أطول من الأولى بآية الخ. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية زکریا ۲/۲۶۳، کراچی ۱/۵۴۲، مصری ۱/۵۷۶)

عن عقبۃ بن عامرؓ قال: بینا أنا أسیر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بین الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعوذ ب”أعوذ برب الفلق“، وأعوذ برب الناس، وهو يقول: يا عقبۃ! تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما، قال: وسمعتہ يؤمننا بهما في الصلاة. (سنن أبي داؤد، کتاب الصلاة، باب فی المعوذتين، النخسة الہندی)

۱/۲۰۶، دارالسلام رقم: ۱۴۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۵۳۱/۲۵)

پہلی رکعت میں سورۃ کا ابتدائی حصہ اور دوسری میں آخری حصہ پڑھنا یا اس کے برعکس کرنا

سوال [۲۶۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ فرض نماز کی اول رکعت میں جزء سورت پڑھی یعنی کسی طویل سورت کا ایک رکوع یا چند آیات پڑھیں ابتداء سورت سے یا وسط سورت سے یا آخر سورت سے اور رکعت ثانیہ میں مکمل سورت پڑھی یا اس کے برعکس پڑھی مثلاً اول رکعت میں مکمل سورت پڑھی، ثانی رکعت میں کسی طویل سورت کا جزء پڑھا، دونوں صورتوں کا جواب مع دلائل عنایت فرمائیں؟

المستفتی: اخلاق احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دونوں صورتیں جائز ہیں؛ البتہ اس کی عادت

ڈالنا خلاف اولیٰ ہے اور ہر رکعت میں مفصلات میں سے پوری پوری سورت پڑھنا زیادہ اولیٰ اور افضل ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۶۶، زکریا ۲۳۹، احسن الفتاویٰ زکریا ۳/۸۵،

فتاویٰ دارالعلوم ۲/۲۳۵، ۲/۲۶۶)

لو قرأ في الأولى من وسط سورة، أو من سورة أولها، ثم قرأ في الثانية من وسط سورة آخري، أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره؛ لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة الخ. (شامي، كتاب الصلاة، قبيل باب الإمامة مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية، زكريا ۲/۲۶۸، ۲۶۹،

کراچی ۱/۴۶، ۵، کوئٹہ ۱/۴۰۴)

والأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة، ولو قرأ بعض السورة في ركعة وباقيها في ركعة قيل يكره والصحيح أنه لا يكره الخ. (كبيری، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، باب زلة القاري، تسمات فيما يكره من القرآن جديد اشرفيه ديوبند ۹۳، ۴، قديم ۶۲، ۴، هكذا عالمگیری، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، قديم زكريا ۷۸/۱، جديد ۱۳۶/۱، تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة، فصل في القراءة جديد زكريا ۶۶/۲، رقم: ۱۷۶۰، قديم ۵۱/۱، فتاویٰ قاضيخان على الهندية، كتاب الصلاة، فصل في القراءة مسائل كيفية القراءة زكريا ۱/۱، قاضيخان جديد زكريا ۱۰۱/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۵/۸۴۷)

تہجد میں قل هو اللہ احد کتنی مرتبہ پڑھی جائے؟

سوال [۲۶۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تہجد میں قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھی جائے گی یا تین مرتبہ؟

المستفتی: منصور احمد، تمباکو محلہ جنت بخش کمپنی مراد آباد (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تہجد کی ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھنا نہ ایک ایک مرتبہ کر کے لازم ہے اور نہ ہی تین تین مرتبہ؛ بلکہ اپنے اختیار سے جو سورۃ بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور جتنی لمبی سورۃ پڑھی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا؛ البتہ ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھنا بھی جائز ہے چاہے ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ، مگر اس کو لازم کر لینا مکروہ ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ درالعلوم زکریا ۲۹۰/۴)

ولا يكره تكرار السورة في ركعة، أو في ركعتين في التطوع؛ لأن
باب النفل واسع الخ (كبيری، كراهية الصلاة، جديد اشرفيه ديوبند ۳۵۵، قديم ۳۴۳)
وقراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات عند ختم القرآن لم
يستحسنها بعض المشائخ الخ. (كبيری، زلة القاري، القراءة خارج الصلاة
جديد اشرفيه ديوبند ۴۹۶، قديم ۴۶۴)

واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة الخ. (شامي، كتاب
الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، زكريا ۲/۴۹۸، مصري ۱/۶۶۲،
كراچي ۲/۴۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰/رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۹۸/۲۵)

نماز میں سورہ فاتحہ میں رب العلمینہ ولا الضالینہ پڑھنا

سوال [۲۶۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ نماز میں الحمد شریف اور قرآن شریف میں امام صاحب کی اس طرح
عادت ہوگئی ہے رب العلمینہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ولا الضالینہ، کے ساتھ
پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنے سے نماز ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: رئیس احمد، محلہ علی خان کاشی پور نبی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فن قرأت کے امام یعقوب کے نزدیک اس
طرح قرأت جائز ہے؛ البتہ اسماء میں جواز اور افعال میں عدم جواز کا فرق بتلاتے ہیں، نماز
ہر حال میں کراہت تحریمی کے ساتھ صحیح ہو جائے گی؛ کیونکہ معمول بہا نہیں ہے اس سے عوام الناس

کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اماموں کو نماز میں ایسی قرأت نہ کرنی چاہئے۔ (مستفاد: توضیح العسر ۱۶۷، طیبۃ النشر ۱۹۶)

قراءة القرآن بالقراءة السبع والروایات کلها جائزة؛ ولكنی أرى الصواب، أن لا یقرأ بالقراءة العجیبة بالإمالات وبالروایات الغریبة؛ لأن بعض الناس یتعجبون، وبعضهم یتفكرون، وبعضهم یخطئون، وبعض السفهاء یقولون ما لا یعلمون، ولعلمهم لا یرغبون فیقعون فی الإثم، والشقاء، ولا ینبغی للأئمة أن یحملوا العوام إلى ما فیہ نقصان دینهم، ودنیاهم. (الفتاوی التاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الثانی فی القراءة، زکریا ۲/۷۲، رقم: ۱۷۸۳، غنیة المستملی، کتاب الصلاة، فصل فی سجود السهو، رحیمیہ دیوبند قدیم ۴۶۳، سہیل اکیڈمی لاہور ۴۹۵، ہندیہ، کتاب الصلاة، الفصل الرابع فی القراءة زکریا ۱/۷۹، جدید زکریا ۱/۱۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۲/۹۳۱)

سورہ فاتحہ کی آیتوں کے آخر میں ہ پڑھنا

سوال [۲۶۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں الحمد شریف اور ہر آیت پر ”ہ“ ظاہر ہوتی ہے، نماز ہوگی یا نہیں جیسے: توعدونہ، العلمینہ، یوم المدینہ ہر آیت پر امام صاحب ظاہر کرتے ہیں نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد صادق حسین، محلہ علیجان، نئی مسجد کاشی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فن قرأت کی مشہور کتاب توضیح العسر، شرح

طیبة النشر میں فن قرأت کے امام یعقوب کے نزدیک العلمیہ، اور یوم الدینہ وغیرہ جائز ہیں اور توعدو نہ ناجائز ہے، معمول بہانہ ہونے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی؛ البتہ واجب الاعادة نہ ہوگی۔ (مستفاد: توضیح العصر ۱۶، طیبة النشر ۱۹۶، امداد الفتاویٰ ۱/۲۹۱)

ویجوز بالروایات السبع؛ لكن الأولى أن لا یقرأ بالغریبة عند العوام صیانة لدينهم (تحتہ فی الشامیہ) أي بالروایات الغریبة والإمالات، لأن بعض السفهاء یقولون ما لا یعلمون فیقعون فی الإثم والشقاء، ولا ینبغی للأئمة أن یحملوا العوام علی ما فیہ نقصان دینهم، ولا یقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر، وابن عامر، وعلي بن حمزة، والكسائی صیانة لدينهم فاعلمهم یتستخفون أو یضحكون، وإن كان كل القراءات والروایات صحیحة فصیحة، ومشایخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۲/۲۶۲، کراچی ۱/۴۱، الفتاویٰ التاتار خانیة، کتاب الصلاة، الفصل الثاني فی القراءة، زکریا ۲/۷۲، رقم: ۱۷۸۳، حلبي کبیر، کتاب الصلاة، فصل فی سجود السهو، رحیمیہ دیوبند ۴۶۳، سہیل اکیڈمی لاہور ۴۹۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۲/۲۴)

سورۃ نازعات کے بعد والی سورۃ چھوڑ کر اگلی سورۃ پڑھنا

سوال [۲۶۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سورتوں کے درمیان سورت چھوڑنا مکروہ ہے، اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ نازعات پڑھی اور دوسری میں سورۃ عبس چھوڑ کر اگلی والی سورت پڑھی تو اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد عابد مستعلم مدرسہ شاہی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دو سورتوں کے درمیان ایک سورۃ کا چھوڑنا یہ قصار مفصل میں مکروہ ہے؛ لیکن طوال مفصل اور اوساط مفصل یعنی بڑی سورتوں میں دو سورتوں کے درمیان ایک سورۃ کا فصل مکروہ نہیں ہے؛ لہذا اگر کسی نے سورۃ نازعات پڑھ کر دوسری رکعت میں سورۃ عیس چھوڑ کر سورۃ تکویر پڑھی تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

ویکرہ الفصل بسورۃ قصیرۃ أما بسورۃ طویلۃ بحیث یلزم منه إطالۃ الرکعۃ الثانیۃ فلا یکرہہ. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب الاستماع للقرآن فرض کفایۃ، کراچی ۱/ ۵۴۶، ذکر یا ۲/ ۲۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۶/۳۶۷-۷)

تین آیات کی مقدار پڑھنے کے بعد ایک آیت چھوٹ جانے کا حکم

سوال [۲۶۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام نے لمبی سورت پڑھی اور تین آیات کی مقدار پڑھنے کے بعد ایک دو آیت چھوٹ گئی تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد بشیر احمد محلہ کچا باغ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس صورت میں سب کی نماز درست ہوگی بشرطیکہ معنی میں تغیر فاحش نہ ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۷۹۴-۷۹۵)

وهو إن ترک آیۃ من سورۃ قد قرأ مقدار ماتجوز بہ الصلاة جازت صلواتہ الخ (فتاویٰ خانیہ، کتاب الصلاة، فصل فی قراءۃ القرآن خطأ وفي

الأحكام المتعلقة بالقراءة، زكريا ۱/۱۵۴، جديد قاضيخان زكريا ۱/۹۸، الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسد، مطلب مسائل زلة القاري، زكريا ۲/۳۹۵-۳۹۶، كراچي ۱/۶۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸/ربیع الاول ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۸/۲۴)

سورۃ فاتحہ کی ایک آیت چھوڑنے کا حکم

سوال [۲۶۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب سے جہری نماز میں پہلی یا دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کی ایک آیت چھوٹ گئی اور سجدہ سہونہیں کیا، تو کیا نماز ہو جائے گی یا قابل اعادہ ہے؟ مسئلہ کو مدلل و مفصل بیان فرمائیں عین کرم ہوگا۔

المستفتی: محمد ابو موسیٰ سراج الحق، امر وہ گیت مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مذکورہ میں نماز واجب الاعادہ ہے۔

(مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳۲/۴)

وقراءة فاتحة الكتاب (إلى قوله) لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى قلت: وعليه فكل آية واجبة الخ، وفي الشامية إذ بترك شيء منها آية، أو أقل ولو حرفاً، لا يكون آتياً بكلها الذي هو الواجب الخ (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أدت مع كراهة التحريم تحب إعادتها زكريا ۲/۱۴۹، كراچي ۱/۴۵۸، كوئٹہ ۱/۳۳۸، مصري ۱/۴۲۶، وهكذا في منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة،

الانتقال إلى آية أخرى من تلك السورة، أو من سورة أخرى للعذر هذا إن انتقل قصداً، فإن انتقل من غير قصد ثم تذكر ينبغي أن يعود، ذكر في القنية، وإن لم يعد فلا كراهة أيضاً لعدم القصد. (صغيري مطبع محتبائی دہلی ۱۹۲، کبیری، کراہیة فروع فی الخلاصة قديم ۳۵۰، جدید اشرفیة دیوبند ۳۶۳، الفتاوی التاتار خانیة، کتاب الصلوة، الفصل الثانی فی القراءۃ جدید، زکریا ۶۷/۲، رقم: ۱۷۶۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/۶۱۴۰)

بھولنے کی وجہ سے چند آیتیں چھوڑ کر آگے سے پڑھنا

سوال [۲۶۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے پہلی رکعت میں ایک آیت پڑھنے کے بعد بھول گئے، پھر بیچ میں ایک دو آیت چھوڑ کر چوتھی آیت سے پڑھنا شروع کیا تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: شمیم احمد کرناٹک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یاد نہ آنے کی وجہ سے چند آیتیں چھوڑ کر پڑھ دیا تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۴۴۵)

لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره، وإن كان بينهما آيات بلاضروءة. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية، كراچی ۱/۵۴۶، زکریا ۲/۲۶۹، المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض

والواجبات المجلس العلمي جديد ۲/۷۴، رقم: ۱۱۹۹، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة،

الفصل الثاني في القراءة، زكريا ۲/۶۷، رقم: ۱۷۶۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲/جمادی الثانیہ ۱۴۲۸ھ

۱۴۲۸/۶/۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۲۵/۳۸)

نستعین کی جگہ نستاعین پڑھنے کا حکم

سوال [۲۶۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ کسی نے نستعین کے بجائے نستاعین پڑھ دیا تو نماز ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد رغب ملّہ شیخان نہٹور۔ بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز فاسد نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ بعض جگہ

حرف یا حرکت کی زیادتی سے معنی میں فساد نہیں آتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہے؛ البتہ

کراہت ضرور آئی ہے۔

أو بزيادة حرف، قال في البزازیة: ولوزاد حرفا لا یغیر المعنی

لاتفسد عندهما. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها مطلب

مسائل زلة القاري، زكريا ۲/۳۹۴، کراچی ۱/۶۳۱)

إذا زاد حرفا لا یوجبہ الكلمة في الأصل إلا أنه تغیر النظم

والحکم، ولا یقبح المعنی..... لاتفسد صلاتہ. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة،

الفصل الثاني مسائل زلة القاري ۲/۹۲، رقم: ۱۸۳۰، المحيط البرهاني، كتاب الصلاة،

الفصل الثاني في الفرائض والواجبات المجلسي العلمي جديد ۲/۶۳، رقم: ۱۲۴۶،

هندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري،

زکریا ۱/۸۰، جدید زکریا ۱/۱۳۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۸/۱۴۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۰۸/۳۳)

ولا الضالین کے مد کو چھ سات الف کی مقدار کھینچنا

سوال [۲۶۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جہری نماز میں ’ولا الضالین‘ کے مد کو قریب چھ سات الف کی مقدار کھینچنے سے نماز میں کوئی خرابی واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: مسعود الحسن رشیدی سہسپو راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ولا الضالین کے مد کو اس مقدار سے زیادہ کھینچنے کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

ولو قرأ القرآن في الصلاة (إلى قوله) وإن كان ذلك في حرف المد واللين لا تفسد إلا إذا فحش. (الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زکریا ۱/۸۲، جدید زکریا ۱/۱۴۰، قاضی خان، کتاب الصلاة، فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة، زکریا ۱/۱۵۶، قاضیخان، جدید زکریا ۱/۹۸)

ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما في غير موضعهما، إن كان لا يغير المعنى، ولا يقبح الكلام، لا يوجب فساد الصلاة. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض والواجبات المجلس العلمي جدید ۲/۷۵، رقم: ۱۲۶۸، الفتاویٰ التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني

مسائل زلة القاري، زكريا ۲/۱۰۷، رقم: ۱۸۷۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۸/۱۴۲۰ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲/شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۳۱۵/۳۳)

إخفاء کی جگہا دغام اور ذال کی جگہ ظا پڑھنا

سوال [۲۶۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ اگر نماز کی قرأت میں اخفاء کی جگہ اظہار پڑھ دیا جائے تو کیا نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا؟

”ذال“، ”کو“، ”زا“، اور ”ظا“، ”کو“ ”ذال“ پڑھ دیا جائے، تا کو ظا اور طا کو ظا پڑھ دیا جائے تو کیا اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ جواب مفصل تحریر فرمائیں۔

المستفتی: کمال اختر، کھوکران، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اخفاء کی جگہ اظہار اور اظہار کی جگہ اخفاء کرنا

مکروہ ہے؛ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، ایسے شخص کو اپنا قرآن صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔

(مستفاد: جمال القرآن ۹۸)

(۲) ذال کی جگہ زا اور ظا کی جگہ ذال پڑھنا بلا اختیار ہوتا ہے، تو اس سے نماز صحیح

ہو جائے گی فاسد نہ ہوگی اور ایسے شخص کو امام نہ بنانا چاہئے۔

وإن لم يمكن إلا بمشقة كالطاء مع الضاد، والصاد مع السين،

والطاء مع التاء، فقد اختلفوا فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى الخ

(كبيرى، كتاب الصلاة، فصل في زلة القاري سهيل اكيڏمي لاهو ۴۷۶، مكتبة رحيمية

وإن لم يمكن إلا بمشقة كالطاء مع الضاد، والصاد مع السين، فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب مسائل زلة القاري، زكريا ۲/۳۹۴، كراچی ۱/۶۳۱)

وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالطاء مع الضاد، والصاد مع السين، والطاء مع التاء، اختلف المشايخ: قال أكثرهم لا تفسد صلاته. (هندي، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زكريا ۱/۷۹، جديد زكريا ۱/۱۳۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۵/۲۱۶، فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، زكريا ۱/۳۳۲، كوئٹہ ۱/۲۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۶/۱۴۱۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲/جمادی الثانیہ ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۱۵/۲۷)

لفظی یا اعرابی غلطی کا حکم

سوال [۲۶۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر نماز میں قرأت کے دوران لفظی غلطی ہو جائے یا اعرابی غلطی ہو جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ مثلاً:

- (۱) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، يُقْتَلُ كِي جگہ يُقْتَلُ پڑھا۔
- (۲) وَلَنَبَلِّغُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَالْجُوعِ كِي جگہ وَالْجُوعِ پڑھا۔
- (۳) نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَالثَّمَرَاتِ كِي جگہ وَالثَّمَرَاتِ پڑھا۔

(۴) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ، أَرَأَيْتَ كِي جگہ أَرَأَيْتَ پڑھا۔

- (۵) فَذَلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ، يَدْعُ كِي جگہ يَدْعُ پڑھا۔
 (۶) فَمَا يُكْذِبُكَ بَعْدُ بِاللَّيْنِ، يُكْذِبُكَ كِي جگہ يُكْذِبُكَ پڑھا۔
 اور اسی طرح سے اِن ربك علیم حكيم كِي جگہ اِن الله علیم حكيم پڑھا۔
 المستفتی: عبدالمجود، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) يُقْتَلُ كِي جگہ يُقْتَلُ لام کے جزم کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہیں ہوگی؛ بلکہ نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔
 (۲) والجوع كِي جگہ والجوع کے اندر عین کے بجائے ہمزہ پڑھ دیا تو قریب الخرج ہونے کی وجہ سے تغیر فاحش نہیں ہوگا، اسی وجہ سے نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔
 (۳) وَالثَّمَرَاتِ كِي جگہ وَالثَّمَرَاتِ ميم کے جزم کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہ ہوگی؛ بلکہ نماز صحیح اور درست ہو جائے گی اور اس کو اعرابی غلطی پر محمول کیا جائے گا۔

(۴) أَرَأَيْتَ كِي جگہ أَرَأَيْتَ پڑھنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی؛ کیونکہ قرأت مشہورہ میں سے ایک قرأت یہ بھی ہے۔
 (۵) يَدْعُ كِي جگہ يَدْعُ غير مشدد پڑھنے کی وجہ سے تغیر فاحش نہ ہونے کی بنا پر نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہ ہوگی۔

(۶) يُكْذِبُكَ كِي جگہ يُكْذِبُكَ پڑھنے کی وجہ سے معنی میں تغیر فاحش واقع نہیں ہوا؛ اس لئے نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہ ہوگی۔

حاصل یہ نکلا کہ سوال نامہ میں ذکر کردہ چھ غلطیوں میں سے کسی بھی غلطی کی وجہ سے نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہ ہوگی؛ بلکہ نماز صحیح اور درست ہو جائے گی؛ اس لئے کہ وہ غلطیاں یا تو قریب الخرج ہونے کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں یا تو اعرابی غلطیاں ہیں اور ایسی غلطیوں کی وجہ سے نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔

(۷) اِن رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ کی جگہ اِن اللہ حکیم علیم پڑھنے کی وجہ نماز فاسد نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ اس تغیر کی وجہ سے اصل معنی میں کوئی تغیر نہیں آیا اور اسی لفظ کے ساتھ یہ آیت قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے۔

الأولى الخطأ في الإعراب و يدخل فيه تخفيف المشدد وعكسه قصر الممدود وعكسه وفك المدغم وعكسه، فإن لم يتغير به المعنى لا تفسد به صلوة بالاجماع. (طحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، دارالكتاب ديوبند/۳۳۹)

وإن كان بوضع حرف مكان حرف ولم يتغير المعنى لا تفسد. (طحطاوي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، دارالكتاب ديوبند ۳۴۰، قديم ۱۸۷)

ومنها ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البديل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها، وهي في القرآن لا تفسد صلاته، نحو إن قرأ مكان العليم الحكيم. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زكريا ۱/۸۰، جديد زكريا ۱/۱۳۷)

وضع حرف موضع حرف آخر، فإن كانت الكلمة لا تخرج عن لفظ القرآن ولم يتغير المعنى المراد لا تفسد. (طحطاوي، كتاب الصلاة، باب ما تفسد الصلاة، دارالكتاب ديوبند ۳۴۰، قديم ۱۸۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۷/۶/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۰۲۲/۳۸)

صَدَقْنَا كَمَا بَدَأَ صَدَقْنَا بِرُحْمَانَا

سوال [۲۶۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام مسجد نے عشاء کی فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زمر کی آخری آیت میں وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده کے بجائے وقالوا الحمد لله الذي صدقنا جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ شریعت کی روشنی میں مکمل ومدلل جواب دیکر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد مختار عالم منگھیری، معتمد مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں نماز درست اور صحیح ہوگی،

واجب الاعادة نہیں۔

أما المتأخرون كمحمد من مقاتل ومحمد بن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر بن سعيد البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على أن الخطأ إن كان في الإعراب لا يفسد مطلقاً. (كبيرى، كتاب الصلاة، فصل في زلة القاري، سهيل اكيڈمي لاهور ۱۹۷۶، مكتبه رحيميه ديوبند ۱۹۷۷، شامي، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، مطلب مسائل زلة القاري، ۲/۳۹۴، كراچي ۱/۶۳۱، المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض والواجبات المجلس العلمي جديد، زكريا ۲/۷۶، رقم: ۱۲۷۰، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني مسائل زلة القاري ۲/۱۰۸، رقم: ۱۸۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴/ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۰۰۱۰۰)

وقف تام کی صورت میں معنی بدلنے سے نماز کا حکم

سوال [۲۶۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام نے نماز میں سورۃ پڑھتے ہوئے غلطی کی بایں طور إن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اولئک ہم شر البریۃ امام صاحب نے خالدین فیہا کے بعد اولئک ہم خیر البریۃ پڑھایا ان الذین امنو و عملو الصالحات اولئک ہم خیر البریۃ، اولئک ہم خیر البریۃ کی جگہ اولئک ہم شر البریۃ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں، اس میں کتنی صورتیں ہیں، فتاویٰ ہندیہ میں اس جگہ ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر خالدین فیہا پر وقف کر دیا ہے اور اس کے بعد اولئک ہم شر البریۃ کے بجائے اولئک ہم خیر البریۃ پڑھا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، مگر اس پر اعتراض واقع ہوتا ہے کہ وقف کے بعد بھی کلام معنًا مربوط ہے، اس طرح کہ ہُم جو ضمیر فصل لائی گئی ہے اس کا مرجع وہی الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین ہے اور جیسا کہ حکم متعین ہے، تو وقف کے بعد بھی کلام معنًا مربوط ہوگا؛ لہذا نماز فاسد ہونی چاہئے، مگر فتاویٰ عالمگیریہ میں عدم فساد لکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جہاں تک ضمیر کے مرجع کی بات ہے، تو ضمیر کیلئے مرجع لازم ہے چاہے معنًا ہو یا حکماً ہو، مگر مرجع ہر صورت میں ہوتا ہے، بہر حال آپ ان تمام صورتوں کو بغور دیکھیں اور پھر از خود اپنے دست مبارک سے جواب عنایت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وقف تمام کی صورت میں تاویل کی گنجائش ہوتی ہے اور عدم وقف اور وقف ناقص کی صورت میں تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی؛ بلکہ ایک معنی متعین ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے وقف تام کی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی اور عدم وقف اور وقف ناقص کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ نے جو لکھا ہے کہ وقف تام میں بھی معنی مربوط رہتا ہے، یہ تاویل کے دونوں پہلوؤں میں سے ایک ہے اور دوسرا پہلو وقف تام میں الذین کفروا مرجع قرار نہ دے کر جملہ مستانفہ قرار دے کر معنی کو صحیح بنا لیا جاسکتا ہے،

جیسا کہ **إن الفجار لفي جنت میں الفجار پر وقت تام کرنے کے بعد لفي جنت** پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔

قيد الفساد في الفتح وغيره بما إذا لم يقف وقفا تاما، وأما لو وقف، ثم قال: لفي جنات فلا تفسد الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب ما تفسد الصلاة،

وما يكره فيها، كراچی ۱/۶۳۴، زکریا دیوبند ۲/۳۹۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹/ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

۱۴۱۹/۳/۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۲۸/۳۳)

لا یتکلمون إلا عذابا پڑھنے سے نماز کا حکم

سوال [۲۶۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام نے نماز میں لا یتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا کی جگہ لا یتکلمون إلا عذابا پڑھا تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام نے نماز میں لا یتکلمون إلا من أذن له

الرحمن وقال صوابا کے بجائے لا یتکلمون إلا عذابا پڑھا، تو ایسی صورت میں معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگئی اعادہ واجب ہے۔

لو بدل كلمة بكلمة وغير المعنى قال الشامي هذا على أربعة

أوجه؛ لأن الكلمة التي أتى بها إما إن تغير المعنى أو لا وعلى كل فإما

أن تكون في القرآن أو لا فإن غيرت أفسدت. (شامی، کتاب الصلاة، باب

ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ قوله تعالى جذك بدون ألف لا تفسد،

کراچی ۱/۶۳۴، زکریا ۲/۳۹۷)

وإن كان اختلافًا متباعدًا نحو أن يختم آية الرحمة بأية العذاب،
أو آية العذاب بأية الرحمة..... فعلى قول أبي حنيفة ومحمد تفسد صلاته.
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني مسائل زلة القاري ۹۶/۲، رقم: ۱۸۴۳،
المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض والنوافل، المجلس العلمي
جديد ۶۷/۲، رقم: ۱۲۵۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۶/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۰۹۴۳۷)

سینین کی جگہ سینا پڑھنا

سوال [۲۶۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ ایک امام نے نماز جہری میں سورہ تین اول رکعت میں شروع کی ابھی تین
آیتیں نہیں ہوئیں کہ والتین والزیتون و طور سینین کے بجائے و طور سینا بغیر
النون والیاء و بزیادة لآلف پڑھایا اور نماز پوری کر دی، تو نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: حاجی عبدالحفیظ، شیرکوٹ بجنور (پوٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کسرہ میں ی کی پوپائی جاتی ہے؛ اس لئے اس کو
لحن خفی شمار کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ نیز اگر قاری سینین پڑھ رہا تھا اور زبان
سے سینا ادا ہو گیا ہے تو نماز درست ہوگی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایسا شخص جو ادا بیگی
پر قادر نہیں ہے، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔

ولو زاد كلمة أو نقص حرفاً..... لم تفسد ما لم يتغير المعنى. (الدر المختار

مع الشلمی بزکریا ۳۹۵/۲، کراچی ۱/۶۳۲، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا)

الخطأ إذا دخل في الحرف لا تفسد، لأن في هذا بلوى عامة الناس لا يقيمون الحرف. (التاتار خانية نوع آخر في زلة القاري، الفصل الأول ۲/۹۴، رقم: ۱۸۳۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۰/۳۰/۱۴۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ شوال المکرم ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۳۸۷/۳۳)

الجحیم کی جگہ الجنة پڑھنا

سوال [۲۶۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام نماز میں فأما من طغى وآثار الحيوۃ الدنيا فإن الجنة هي المأوى پڑھ دے، تو کیا نماز ہو جائے گی، درانحالیکہ وہ اس کا عالم بھی ہے؟
المستفتی: حفظ الرحمن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں فإن الجحیم کے بجائے فإن الجنة پڑھنے سے نماز فاسد ہوگئی ہے جیسا کہ قاضی خان کی عبارت سے واضح ہے۔
فإن أخطأ بذكر كلمة مكان كلمة (إلى قوله) وإن كانت مخالفة) إلى قوله) أو ختم آية الرحمة بأية العذاب أو على العكس، قال عامة المشائخ رحمهم الله تعالى تفسد صلواته الخ (قاضيخا، كتاب الصلاة، فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة، زكريا ۱/۵۳، قاضيخا جديد زكريا ۱/۹۶)
وإن كان اختلافا متباعدًا نحو أن يختم آية الرحمة بأية العذاب، أو آية العذاب بأية الرحمة..... فعلى قول أبي حنيفة ومحمد تفسد صلاته .
(الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني مسائل زلة القاري ۲/۹۶، رقم: ۱۸۴۳،

المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض والواجبات، المجلس العلمي
جديد ۶۷/۲، رقم: ۱۲۵۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ شعبان المعظم ۱۴۰۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳/۲۳۶)

ونمارق مصفوفة بالضم اور ولا أنتم کی جگہ ولنتم پڑھنا

سوال [۲۶۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے عید کی نماز پڑھائی اور اس نے پہلی رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا اور اس میں و نمارق مصفوفة کے بجائے و نمارق مصفوفة پڑھا اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون میں ولا أنتم کے بجائے ولنتم پڑھا کیا نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ مدلل جواب دیں۔

المستفتی: محمد شفا والدین دکوی، معلم دورہ حدیث مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: و نمارق مصفوفة کے بجائے اگر و نمارق مصفوفة بالضم پڑھا تو نماز درست ہوگی؛ اس لئے کہ اعرابی غلطی سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۸۹/۴)

فاتفقوا علی أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقاً، ولو اعتقاده كفراً لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب مسائل زلة القاري زكريا ۳/۲، ۳۹۳، كرجي ۱/۶۳۱)
اگر ولا أنتم کو ولنتم پڑھ دیا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؛ کیونکہ حرف اصلی کے حذف سے اگر معنی بدل جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے۔

وإن حذف حرفاً أصلياً من كلمة فتغير المعنى تفسد صلواته في قول أبي حنيفة ومحمد كما لو قرأ ورزقناهم بحذف الزاء، أو الراء. (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الصلاة، فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ۱/۱۵۱، قاضیخان جدید زکریا ۱/۹۶)

ومنها حذف حرف (إلى قوله) وإن لم يكن على وجه الإيجاز والترخيم..... وإن غير المعنى تفسد صلواته عند عامة المشائخ الخ (عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري زکریا ۱/۷۹، کوئٹہ ۱/۷۹، جدید زکریا ۱/۱۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

مرزی تعداد ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۸۵/۲۵)

نماز میں یذرون کے بجائے تذرون پڑھ دینا

سوال [۲۶۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام نے ان هولاء یحبون العاجلة ویذرون وراءہم کے بجائے تذرون وراءہم پڑھ دیا تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد سعید پوریادی، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس میں الفاظ کے مادہ کا معنی مراد ہی باقی ہے؛ اس لئے نماز درست اور صحیح ہوگی واجب الاعادہ نہیں۔

الثالثة وضع حرف موضع حرف آخر، فإن كانت الكلمة لاتخرج عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى المراد لا تفسد. (حاشیة الطحطاوي علی المراقبي الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، دارالكتاب دیوبند ۳۴۰)

فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثير لوجود المثل في القرآن الخ (كبيری، كتاب الصلاة، فصل في زلة القاري، مكتبه رحيمية ديوبند قديم ۴۴۷، سهيل اكيڈمي لاهور ۴۷۶، شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب مسائل زلة القاري، زكريا ۳۹۳/۲، كراچي ۶۳۱/۱، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۱۶/۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ ذیقعدہ ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۹۰/۲۸)

مِمَّا يَعْلَمُونَ كِي جگہ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ پڑھنا

سوال [۲۶۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا سورۃ المعارج کی تلاوت کر رہا تھا، دوران قرأت جب آیت کلا انا خلقنہم مما یعلمون پر پہنچا، تو بھول گیا اور اس آیت سے آگے نہ پڑھ سکا، پھر تصحیح کے لئے پیچھے سے لوٹا یا تو دو بار باہ اس آیت میں مما یعلمون کی جگہ مما لا یعلمون پڑھ دیا، سوال یہ ہے کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ نیز پہلی مرتبہ پڑھنے کا اعتبار ہوگا یا دوسری مرتبہ پڑھنے کا دلائل سے جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: عبدالقادر دہلوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس صورت میں جب امام نے پیچھے سے لوٹانے کے وقت مما یعلمون کی جگہ مما لا یعلمون پڑھا تو اس سے معنی میں تغیر فاحش ہو گیا، جس کی وجہ سے سب کی نماز فاسد ہو گئی؛ اس لئے از سر نو نماز کا اعادہ لازم ہے اور دوسری مرتبہ میں جو پڑھا ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔

اعلم أن الكلمة الزائدة إما أن تكون في القرآن أولاً (إلى قوله) فإن غيرت أفسدت مطلقاً نحو وعمل صالحاً وكفر، فلهم أجرهم الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب مسائل زلة القاري كراچی ۱/۶۳۲، زكريا ۲/۳۹۵)

إن غيرت المعنى ووجدت في القرآن نحو أن يقرأ والذين آمنوا وكفروا بالله ورسله أولئك هم الصديقون (إلى قوله) تفسد صلاته بلا خلاف. (عالمگیری، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زكريا ۱/۸۰، جدید زكريا ۱/۱۳۸)

أن تكون الكلمة الزائدة موجودة في القرآن، وأنه على قسمين إن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته..... فإن كان يغير المعنى تفسد صلاته بلا خلاف نحو أن يقرأ والذين آمنوا وكفروا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الخ (تاتارخانیة، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة الفصل الخامس من زلة القاري جدید زكريا ۲/۱۰۳، رقم: ۱۸۶۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷/ربیع الاول ۱۴۳۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۹۱/۴۰)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۷/۳/۱۴۳۳ھ

ولا أنتم عابدون ما أعبد چھوٹ جانے سے نماز درست ہے

سوال [۲۶۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام نے پہلی رکعت میں سورہ ”کافرون“ پڑھی اور پہلا ”ولا أنتم عابدون ما أعبد“ چھوڑ دیا، ایسی صورت میں اگر سجدہ سہو کے بغیر نماز ختم کر دی تو نماز لوٹائی جائے گی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ولا أنتم عابدون ما أعبد. چھوڑنے سے معنی میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے نماز درست ہوگئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈائجیل ۱۲۳/۷، امداد الفتاویٰ ۴۲۸/۱، فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۱/۲۱۴، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۳/۴۲۷)

و منهم من فصله تفصيلاً، فقال: إن وقف على الآية وقفاً تاماً، ثم ابتدأ بأية أخرى لا تفسد صلاته وإن تغير المعنى، نحو أن يقرأ: والتين والزيتون وطور سينين..... ووقف وقفاً تاماً، ثم قرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فأما إذا لم يقف ووصل الآية بالآية إن كان لا يتغير به المعنى..... فلا تفسد صلاته، وأما إذا تغير به المعنى تفسد صلاته. (تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني مسائل زلة القاري ۲/۱۰۰، رقم: ۱۸۵۶)

لو ذكر آية مكان آية إن وقف وقفاً تاماً، ثم ابتدأ بأية أخرى، أو بعض آية لا تفسد كما لو قرأ والعصر إن الإنسان، ثم قال: إن الأبرار لفي نعيم..... لا تفسد. (ہندیہ، کتاب الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري زكريا ۱/۸۰، زكريا جديد ۱/۳۸، شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، زكريا ۲/۳۹۶، كراچی ۱/۶۳۳)

ومنها حذف حرف..... فإن كان لا يتغير المعنى لا تفسد. (ہندیہ، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، اتحاد ۱/۳۷، زكريا ۱/۷۹، تاتارخانية، الفصل الثاني، مسائل زلة القاري ۲/۱۰۱، رقم: ۱۸۵۷)

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ذی قعدہ ۱۴۳۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۳۰۵)

لا یعلمون کی جگہ لایشعرون پڑھنا

سوال [۲۶۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی نے نماز میں لا یعلمون کی جگہ لایشعرون دھوکہ سے پڑھ دیا، پھر رکوع میں جاتے وقت احساس بھی ہو گیا، تو اس کی نماز درست ہے یا فاسد ہوگی؟ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟

المستفتی: شبینہ ثمرین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر لا یعلمون کی جگہ لایشعرون پڑھ دیا ہے، تو معنی مرادی میں تغیر نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد نہ ہوگی؛ اس لئے کہ دونوں کا معنی قریب قریب ایک ہی ہے۔

وضع حرف موضع حرف اخر فان كانت الكلمة لا تخرج عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى المراد لا تفسد. (طحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، قبيل فصل فيما لا يفسد الصلوة، دار الكتاب دیوبند قدیم ۱۸۷، جدید دار الكتاب دیوبند ۳۴۰، حاشیہ نور الإيضاح، باب زلة القاري، امدادیہ دیوبند ۸۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۳/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹۵۲)

جزاء وفاقا کے بجائے جزاء من ربک پڑھنا

سوال [۲۶۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے فجر کی نماز میں عم يتسائلون پڑھنا شروع کیا جزاء وفاقا کے

بجائے جزاء من ربک پڑھ کر اٹک گئے تو لقمہ دیدیا گیا، حافظ صاحب نے اس غلطی کو یہ سمجھا کہ اس پر سجدہ سہو کیا جائے سجدہ سہو کر لیا، بعد نماز عالم صاحب نے یہ کہا کہ نماز کا لوٹانا بہتر ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے نماز کا لوٹانا وقت میں واجب ہے یا مستحب ہے یا نہیں لوٹانا چاہئے؟

المستفتی: عبدالرشید خان، عادل آباد آندھرا پردیش

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں نماز کا لوٹانا ہی بہتر ہے اور عالم صاحب نے جو نماز کے اعادہ کا حکم دیا ہے وہی صحیح اور درست ہے؛ اس لئے کہ جہنمیوں کی سزا اور عذاب کی جگہ پر جنتیوں کے آرام و راحت اور انعامات کے ذکر کی آیت پڑھی گئی ہے، ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، ہاں البتہ اگر إلا حمیما و غساقا پر پوری آیت کی طرح وقف کر دیا ہے اور وقف میں ٹھہرنے کے بعد جزاء من ربک الخ پڑھا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں آیتیں الگ شمار ہوں گی اور نماز درست ہو جائے گی۔

کمالو بدل کلمة بكلمة و غیر المعنی نحو ان الفجار لفي جنات قال الشامي: وقيد الفساد في الفتح و غیره بما اذا لم يقف وقفا تماما أما لو وقف، ثم قال لفي جنات فلا تفسد. (در مختار مع الشامی، باب ما یفسد الصلاة و ما یکره فیها، مطلب إذا قرأ قوله تعالى جدد بدون الف، کراچی ۶۳۳/۱، زکریا ۲/۳۹۷)

وقال في التاتار خانية وفي الخانية ولو قرأ ان الابرار لفي جحيم وإن الفجار لفي نعيم، أو قرأ ان الذين امنوا و عملوا الصالحات أولئك هم شر البرية تفسد صلاته و منهم من فصله تفصيلا، فقال إن وقف على الآية وقفا تماما، ثم ابتداء بآية أخرى لا تفسد صلاته، وإن تغير المعنى نحو أن يقرأ والتين والزيتون و طور سينين وهذا البلد الأمين ووقف وقفا تماما، ثم قرأ لقد

خلقنا الإنسان في كبد. (فتاویٰ تاتار خانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الثانی، مسائل زلة

القاري جديد زكريا ۲/۱۰۰، ۱۰۱، رقم: ۱۸۵۶)

لو ذكر آية مكان آية إن وقف وقفاً تاماً، ثم ابتدأ بآية أخرى،
أوبعض آية لا تفسد كما لو قرأ والعصر إن الإنسان، ثم قال إن الأبرار
لفي نعيم، أو قرأ والتين إلى قوله وهذا البلد الأمين ووقف، ثم قرأ لقد
خلقنا الإنسان في كبد، أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصلحت ووقف،
ثم قال أولئك هم شر البرية لا تفسد، أما إذا لم يقف ووصل..... أما إذا
غير المعنى فإن قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصلحت أولئك هم شر
البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى قوله خالدین فیہا أولئک ہم
خیر البرية تفسد عند عامة علمائنا، وهو الصحيح كذا في الخلاصة.

(هنديہ، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زكريا

۱/۸۰، ۸۱، جديد زكريا ۱/۱۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۱۲/۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ رذی الحج ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۰۴/۴۰)

بالصبر کی جگہ بالحق پڑھنا

سوال [۲۶۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ نماز مغرب میں امام صاحب نے سورۃ العصر میں وتواصوا بالحق اور
وتواصوا بالصبر میں بالحق کی جگہ بالصبر اور بالصبر کی جگہ بالحق پڑھادی،
تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کے اندر وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر میں بالحق کی جگہ بالصبر اور بالصبر کی جگہ بالحق پڑھ لینے سے بھی نماز درست ہو جائے گی۔

أو يقرأ كتبنا عليهم فيها أن العين بالعين، والنفس بالنفس، أو يقرأ العبد بالعبء، والحر بالحر، ونحو ذلك لاتفسد صلاته. (تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض..... الفصل السابع من زلة القاري جديد زكريا ۱۰۳/۲، رقم: ۱۸۶۴، قديم ۱/۴۸۸)

إن قلم كلمة على كلمة أو آخر إن لم يتغير المعنى لاتفسد نحو أن قرأ ”لهم فيها زفير وشهيق“ وقدم الشهيق هكذا في الخلاصة. (هنديہ، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زكريا ۱/۸۰، جديد زكريا ۱/۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۳/۱۸

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۹۸۲/۳۶)

رب السموات والأرض وما بينهما میں والأرض چھوٹ گیا

سوال [۲۶۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے صلوٰۃ جہریہ میں سورہ عم يتساءلون کی آیت رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن الآیة کے بجائے رب السموات وما بينهما الرحمن الآیة پڑھی یعنی والأرض کو چھوڑ دیا تو کیا اس سے نماز کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی یا نہیں؟ نیز مطلقاً معنی کی تبدیلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا تبدیلی معنی کے

ساتھ وہ معنی غلط بھی ہو رہا ہو تب نماز فاسد ہوتی ہے، اگر اس سلسلہ میں کوئی قاعدہ ہو تو ضرور تحریر فرمائیں؟ بینوا و تو جروا۔

المستفتی: امتیاز عالم، محلہ سرائے شیخ محمود، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فسادِ صلوة کے لئے تبدیلی معنی کے ساتھ ساتھ

معنی کا غلط ہو جانا بھی شرط ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں نماز فاسد اور واجب الاعادہ نہ ہوگی؛ اس لئے کہ تغیرِ فاحش اور فسادِ معنی لازم نہیں آ رہا ہے۔

وإن ترک کلمة من آية، فإن لم يتغير المعنى كما قرأوا ما تدري
نفس ما اذا تكسب غدا وترک ذا (إلى قوله) أو قرأ جزء سيئة سيئة مثلها
بترک سيئة الثانية لا تفسد الخ (کبیری، کتاب الصلاة، فصل في زلة القاري رحيمه
ديوبند قدیم ۴۶۱، سهیل اکیڈمی لاہور ۹۲/۴)

قال في شرح المنية: وإن ترک کلمة من آية، فإن لم يتغير المعنى
مثل وجزاء سيئة مثلها بترک سيئة الثانية لا تفسد، وإن غيرت مثل فما لهم
يؤمنون بترک لا، فإنه يفسد عند العامة، وقيل لا والصحيح الأول.
(شامي، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب مسائل زلة القاري،
زکریا ۳۹۶/۲، کراچی ۱/۶۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/رجب ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۸۸/۲۷)

وَأما اليتيم کی جگہ و أما الإنسان پڑھنا

سوال [۲۶۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ رئیس احمد نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ کیا اور سورۃ الضحیٰ تلاوت کی، تقریباً سورۃ کے اختتام پر وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کی جگہ وَأَمَّا الْإِنْسَانَ فَلَا تَقْهَرْ پڑھ دیا، اب کیا اس صورت میں نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ دلیل کے ساتھ مسئلہ کا جواب مطلوب ہے؟

المستفتی: رئیس احمد، امام مرکز والی مسجد، محمود آباد بیتا پور (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں جمعہ کی نماز صحیح ہوگئی، لوٹانے

کی ضرورت نہیں۔

ومنها ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل، إن كانت الكلمة قرأها مكان كلمة يقرب معناها، وهي في القرآن لا تفسد صلواته. (عالمگیری، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زكريا ۸۰/۱، جدید زکریا ۱/۱۳۷)

وضع حرف موضع حرف آخر، فإن كانت الكلمة لا تخرج عن لفظ القرآن، ولم يتغيربه المعنى المراد لا تفسد كما لو قرأ إن الظلمون بواو الرفع، أو قال والأرض وما دحها مكان طحها. (نور الايضاح، كتاب الصلاة، باب زلة القاري، امداديه ديوبند ۸۷)

ذكر حرف مكان حرف: وإنه على وجهين. الأول: أن لا تخرج الكلمة بحرف البدل من ألفاظ القرآن، ومعناه أن هذه الكلمة مع حرف البدل توجد في القرآن، نحو أن يقرأ يألومون مكان "يعلمون"، أو ما أشبه ذلك ففي هذا الوجه لا تفسد صلاته، ويجعل كأنه ابتداء من هذه الكلمة. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة، الفصل الأول من

مسائل زلة القاري جديد، زكريا ۲/۸۱، رقم: ۱۸۰۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۹ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۶۹۶)

وَمَا يَخْفَىٰ كِي جَلِّهِ وَ مَا يَغْفِي ۱ پڑھنا

سوال [۱۶۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے فجر کی نماز پڑھائی درمیان قرأت سورۃ اعلیٰ کی آیت اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَىٰ کے بجائے يَغْفِي پڑھ دیا تو کیا اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنے یہاں ایک عالم صاحب سے پوچھا ہے تو وہ بتلا رہے ہیں کہ نماز درست ہو جائے گی وجہ یہ بتلائی کہ اس سے معنی فاحش کی تبدیلی نہیں ہوئی؛ لیکن بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی؟

المستفتی: محمد کمال حسین، جامعہ عربیہ تھورا باندہ (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں قرأت کی غلطی سے نماز کے فاسد ہونے اور نہ ہونے کا مدار ایسی غلطی پر ہے جس سے معنی میں فساد آجائے، سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت میں جبکہ یخفی کے بجائے یغفی پڑھ دیا ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی؛ کیونکہ یغفی کے معنی او گھننے اور ہلکی نیند سونے کے ہیں، اس صورت میں ایسی کوئی غلطی نہیں پائی گئی جس سے نماز کے فساد کا حکم لگایا جائے؛ لہذا مذکورہ عالم صاحب کی بات صحیح ہے۔

الوجه الثاني أن لا توجد الكلمة مع حرف البدل في القرآن (إلى قوله) يكون مع موافقة في المعنى (إلى قوله) لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله. (تاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة،

الفصل الأول من مسائل زلة القاري، زكريا ۲/۸۲، رقم: ۱۸۱۰، قديم ۱/۴۶۵)

ومنها ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل - إلى - إن لم تكن الكلمة في القرآن؛ لكن يقرب معناها، عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسد..... نحو إن قرأ التيايين مكان التوابين. (هندية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري، زكريا ۱/۸۰، جديد زكريا ۱/۱۳۷)

وضع حرف موضع حرف آخر، فإن كانت الكلمة..... خرجت به عن لفظ القرآن، ولم يتغير به المعنى لا تفسد عندهما، خلافا لأبي يوسف كمال قرأ قيامين بالقسط مكان قوامين أو دوارا ”مكان ديارا“.

(نور الايضاح، كتاب الصلاة، باب زلة القاري، امدايه ديوبند ۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

۱۱/۳/۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۳۷۷۷)

ناعمة کی جگہ ناصبہ پڑھنے سے نماز فاسد

سوال [۲۶۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جمعہ کی نماز میں امام نے ”وجوہ یومئذ ناعمة“ کی جگہ ”وجوہ یومئذ ناصبہ“ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوئی یا نہیں؟ دلائل کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں ”ناعمة“ کی جگہ ”ناصبہ“ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوگئی؛ کیونکہ ایک کو دوسرے کی جگہ رکھنے سے معنی کچھ کے کچھ ہو گئے۔

ناعمة صفت کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ”تروتازہ“ اور ناصبہ بھی صفت کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ”تھکے ہوئے“ وجوہ یومئذ ناعمة کے معنی ہیں ”کتنے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے، ناعمة کی جگہ ناصبہ پڑھنے سے معنی یہ ہو گئے کہ ”کتنے چہرے

اس دن تھکے ہوئے ہوں گے، معنی بالکل ہی بدل گئے؛ اس لئے نماز فاسد ہوگئی۔

(مستفاد: معارف القرآن ٤٢٨/٨، سورۃ غاشیہ تحت آیت: ٨)

”ناصبۃ“، أي تعبۃ یقال نصب (بالکسر) ینصب نصباً: إذا تعب. (جامع

الأحكام للقرطبي ١٠/٢٧، سورۃ غاشیة تحت آیت: ٨)

قولہ تعالیٰ ”وجوه یومئذ ناعمة“، أي ذات نعمۃ، وهی وجوه

المؤمنین، نعمت بما عاینت من عاقبة أمرها و عملها الصالح. (جامع الأحكام

للقرطبي ١٠/٣٢، سورۃ الغاشیة تحت آیت: ٨)

وجوه یومئذ ناعمة-والناعمة إما من النعمۃ وکنی بها عن البهجة

وحسن المنظر أي وجوه یومئذ ذات بهجة وحسن-أو من النعیم، أي

وجوه یومئذ متنعمۃ. (روح المعانی ١٦/٢٠٥، سورۃ غاشیة، تحت آیت: ٨)

”عاملة ناصبة“ خبران آخران لوجوه-أي عاملة في ذلك الیوم تعبۃ

فیه، عن زید بن أسلم أنه قال: أي عاملة في الدنيا، ناصبة فیها لأنها علی غیر

هدی، فلا ثمرۃ لها إلا النصب، وخاتمته النار. (روح المعانی، سورۃ غاشیة

تحت آیت: ٨، ١٦/٢٠١)

إن كانت الكلمة الثانية في القرآن فهو علی وجهین، إما إن كانت

موافقة للأولی في المعنی، أو مخالفة، فإن كانت موافقة لا تفسد

صلاته-وإن كانت مخالفة- قال عامة المشائخ تفسد صلاته وهو قول أبي

حنيفة، و محمد، وعن أبي يوسف فیه روايتان والصحيح هو الفساد، لأنه

أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالی. (خانية، كتاب الصلاة، فصل في قراءة القرآن خطأ في

الأحكام المتعلقة بالقراءة علی هامش الهندیة ١/١٥٢-١٥٣، قاضیخا، جدید زکریا ١/٩٦)

وإن اختلفا متباعدا نحو أن یختم آیت الرحمة بآیت العذاب، أو آیت

العذاب بآیت الرحمة.....فعلی قول أبي حنيفة و محمد: تفسد صلاته، وقیل

في المسألة على قول أبي يوسف روايتان: وفي الظهيرية: قال: والصحيح عندي أنه إذا وقف، ثم انتقل لا تفسد صلاته، وإن وصل تفسد وفي الخانية: والصحيح هو الفساد. (تاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، مسائل زلة القاري، زكريا ۲/۹۶، رقم: ۱۸۴۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۵ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۶۳/۲۰)

حبل من مسد کی جگہ حبل مسد پڑھنے کا حکم

سوال [۲۶۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے نماز پڑھتے ہوئے کھن جلی ”حبل من مسد“ کی جگہ ”حبل مسد“ پڑھا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، کیا سجدہ سہو کرنا چاہئے تھا؟ معلوم کرنا یہ ہے کہ ایسی صورت میں امام صاحب اور تمام مقتدیوں کی نماز درست ہوگئی یا ان کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے تھی، اگر دوبارہ نہ پڑھ سکے تو کیا اب نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہے؟

المستفتی: محمد غفران اصالت پورہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں ”حبل من مسد“ کی جگہ ”حبل مسد“ پڑھنے سے نماز فاسد نہ ہوگی؛ اس لئے کہ بغیر من کے پڑھنے کی صورت میں معنی میں تغیر نہیں آیا ہے؛ بلکہ معنی اپنی جگہ درست ہیں وضاحت میں کمی آنے کی وجہ سے نماز فاسد نہ ہوگی اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوگا۔

نقصان حرف إن كان لا یغیر المعنی لا تفسد صلاتہ بلا خلاف.

ولوزاد کلمة أو نقص حرفاً - لم تفسد صلاته. (درمختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة مسائل زلة القاری، زکریا ۲/۳۹۵، کراچی ۱/۶۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷/ ذی قعدہ ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱/۲۱/۱۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/۱۱/۱۴۳۵ھ

فحش غلطی ہونے کے بعد دوبارہ صحیح کر کے پڑھنے کا حکم

سوال [۲۶۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے فرض نماز میں قراءت میں اولئک ہم الفائزون کی جگہ اولئک ہم المفسقون پڑھا، پھر لقمہ دینے سے صحیح کر کے اولئک ہم الفائزون پڑھا، تو کیا یہ نماز فاسد ہو جائے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا یا بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد روح الامین، مدنا پوری، متعلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اگر لقمہ پر صحیح کر لیا ہے تو تراویح وغیرہ غیر فرض میں اعادہ صلوة کی ضرورت نہیں اور فرائض میں اعادہ صلوة ہی زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے؛ اس لئے صحیح کر لینے کی صورت میں بعض علماء کے نزدیک فاسد شدہ صحیح ہو کر نہیں لوٹتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۸۱/۲، ڈبھیل ۷/۱۲۰، ۱۲۱) اور بعض کے نزدیک صحیح ہو جاتی ہے۔

ذکر فی الفوائد: لو قرأ فی الصلاة بخطأ فاحش، ثم رجع وقرأ صحیحاً قال عندي صلاته جائزة. (عالمگیری، کتاب الصلاة، الفصل الخامس فی

اور تطبیق کی صورت یہی ہے کہ فرائض میں اعادہ کا حکم اور غیر فرائض میں عدم اعادہ کا حکم نہ ہو۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۹ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۵۸۰۶۲۷)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۱۲/۳/۹ھ

قراۃ میں فحش غلطی کا معیار

سوال [۲۶۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے نماز میں سورہ آل عمران ”وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ کی جگہ تُرْحَمُونَ پڑھ دیا مجرد سے مزید متعدی، مجہول سے معروف کی تبدیلی ہوگئی؛ جبکہ باب افعال کا ایک خاصہ سلب مأخذ بھی ہے، کیا ایسی صورت میں نماز ہوگئی یا نہیں؟ ایک عالم صاحب نے احتیاطاً نماز دہرا دی ایسا کرنا کیسا ہے، ایک مفتی صاحب کا خیال ہے کہ نماز فاسد ہوگئی، دوسرے مفتی صاحب کا خیال ہے کہ اعرابی غلطی کو نظر انداز کیا جاتا ہے؛ لہذا نماز ہوگئی یا نہیں؟ کس کی بات صحیح ہے۔ نیز خطاً فاحش، تغیر فاحش کا معیار کیا ہے، جس سے فساد نماز لازم آتا ہے؟

المستفتی: محمد ارشد، بہرائچ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس قسم کی اعرابی غلطیاں جن کی وجہ سے معنی میں تغیر فاحش لازم آتا ہو جیسے کہ ”لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ کی جگہ پر ”لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ اسی طرح فعسی فرعون الرسول کی جگہ فعسی فرعون الرسول پڑھنا حضرات متقدمین کے نزدیک مفسد صلاۃ ہے اور متاخرین کے نزدیک ایک عوام کی سہولت کے پیش نظر

مفسد صلاۃ نہیں ہے، بعد کے علماء نے متاخرین کے قول پر فتویٰ دیا ہے؛ لیکن احتیاطاً متقدمین کے قول پر ہے؛ اس لئے نماز جو لوٹائی گئی ہے وہ بہتر ہوا۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۲۰۰۲م)

وإذا تغير المعنى نحو أن يقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه برفع إبراهيم ونصب ربه، فالصحيح عنهما الفساد وعلى قياس قول أبي يوسف لا تفسد؛ لأنه لا يعتبر الإعراب وبه يفتى. (طحطاوي على المراقي قديم، كتاب الصلاة، قبيل فصل فيما لا يفسد الصلاة، دارالكتاب ديوبند ۳۳۹، قديم ۱۸۶)

تغیر فاحش کا معیار یہی ہے کہ ایمان و کفر جنت و جہنم معصیت و ثواب وغیرہ کے معنی میں بالکل الٹ پلٹ ہو جائے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۳/۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۵۵۹/۳۶)

قرآن بھول جانے والا نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال [۲۶۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) شرعاً دیوانگی کی کیا علامت ہے واضح فرمائیے؟ زید اتنا کند ذہن ہے کہ اس کو قرآن کریم یاد کرنے کے باوجود بالکل یاد نہیں رہتا؛ لہذا اس صورت میں وہ نماز کس طرح پڑھے؟ مدلل باحوالہ جواب سے نوازیں؟

المستفتی: ممتاز احمد قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر دیوانگی سے سائل کی مراد ”پاگل“ ہے تو آدمی کے مجنون اور پاگل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی عقل بالکل فوت ہو جائے، کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کی کوئی خبر نہ ہو اور اگر عقل تو موجود ہو؛ لیکن اس میں فتور ہو

جس کے نتیجے میں بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، تو اس کو شریعت میں معتوہ کہا جاتا ہے، اس کو ہمارے محاورہ میں دیوانہ کہا جاتا ہے۔

المجنون الذي هو عديم العقل والمعتوه الذي هو ناقص العقل..... إذا
ليس لهما عقل كامل يردعهما وتميز وافر يدهما. (فتح القدير پاکستان
۱۸۶/۸، زکریا ۲۵۹/۹، المبسوط للسرخي، کتاب الحجر، دارالکتب العلمیة ۱۵۶/۲۴)
(۲) زید کو چاہئے کہ جو بھی سورت یا آیت یاد ہو ہر رکعت میں وہی پڑھا کرے
اور مزید کوشش کرتا رہے۔

إن كان يجهد الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر فصلاته
جائزة، ولو ترك جهده ففاسدة، ولا يسعه أن يترك في باقي عمره.
(فتح القدير، کتاب الصلاة، فصل القراءة، زکریا ۳۳۲/۱، کوئٹہ ۲۸۲/۱، بیروت
۳۲۳/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۲/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۷۸/۳۷)

متشابہ کی وجہ سے دوسری جگہ سے پڑھنا پھر لوٹ آنا

سوال [۲۶۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے فجر کی نماز میں ایک لمبی آیت پڑھی، اور درمیان آیت میں جا کر ان کو متشابہ لگ گیا، پھر ان کو یاد آ گیا کہ میں دوسری جگہ پڑھ رہا ہوں تو پھر جہاں سے آیت چھوڑی تھی وہیں سے پڑھنا شروع کیا، اور آیت پوری کی پھر رکوع وغیرہ کر کے نماز مکمل کی تو نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد سلطان عالم در بھنگوی امام مسجد بڑوالی کٹار شہید مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں نماز ہوگئی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۴۴/۳۳)
 إمام قرأ فانتقل إلى موضع آخر فذكر كلمة أو كلمتين مكان غيره
 نحو إن قرأ لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون ينبغي أن يعود إلى الترتيب
 الأول. (حلبی کبیری، فصل فی مسائل شتی لاہور ۶۱۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۸۳/۲۷)



(۱۳) باب الجمع بین الصلواتین

ہلکی بارش پر جمع بین الصلوة کا حکم

سوال [۲۶۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امریکہ میں بعض اوقات مختصر سی بارش پر بھی ائمہ حضرات جمع بین الصلواتین کرتے ہیں، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ مع دلائل تحریر کریں۔
المستفتی: محمد عبدالسبحان، کیلی فورنیا امریکہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جمع بین الصلواتین حقیقی عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کسی بھی صورت اور کسی بھی مقام میں جائز نہیں ہے؛ البتہ حالت سفر میں اسی طرح کسی خاص عذر کی وجہ سے جمع صوری کی گنجائش ہے اور حدیث پاک میں عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ دیگر کسی بھی صورت میں جمع بین الصلواتین کی جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ سب کے سب جمع صوری پر محمول ہیں جمع حقیقی پر نہیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. [النساء: ۲۰۱]

عن ابن عباسؓ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من جمع بين الصلواتين من غير عذر، فقد أتى بابا من الكبائر. (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين ۴/۸، دارالسلام رقم: ۱۸۸، مستدرک حاکم ۲۷۵/۱، مکتبہ نزار مصطفیٰ، کتاب الصلاة جدید ۱/۴۰۲، رقم: ۱۰۲۰)

عن أنسؓ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما

وبين العشاء حين يغيب الشفق. (مسلم شريف، كتاب المساجد، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، النسخة الهندية، ١/٢٤٥، بيت الأفكار رقم: ٧٠٤، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ١/٤٧٩، رقم: ٩٦٩)

قال أصحابنا إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة-إلى-ولأن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال، أو بخبر الواحد مع أن الاستدلال فاسد لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر-إلى- ثم هو مؤل وتأويله أنه جمع بينهما فعلا لا وقتا بأن آخر الأولى منهما إلى آخر الوقت ثم أدى الأخرى في أول الوقت، ولا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا كذا فعل ابن عمر^{رضي} في سفر وقال: هكذا كان يفعل بنار سول الله صلى الله عليه وسلم، دل عليه ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولا سفر وذلك لا يجوز إلا فعلا.

وعن علي رضي الله عنه أنه جمع بينهما فعلا، ثم قال: هكذا فعل بنار سول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا روي عن أنس بن مالك الخ (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين، زكريا ١/٣٢٨-٣٢٩ بيروت ١/٥٨٠ تا ٥٨٣، مثله في البحر الرائق، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في وقت لعذر قبيل باب الأذان، زكريا ١/٤٤١، كوئنه ١/٢٥٤، شامي، كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان، زكريا ٢/٤٦، كراحي ١/٣٨٢، هندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت الخ الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، زكريا كوئنه

۵۳/۱، جدید زکریا ۱/۱۰۹، حاشیة الطحطاوی علی المراقی، دارالکتاب دیوبند
جدید (۱۷۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۱۱/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰/ذی قعدہ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۰۰/۴۰)

معمولی بارش کی وجہ سے جمع بین الصلوٰتین کرنا

سوال [۲۶۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں معمولی بارش ہوتی ہے تو بیک وقت دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً عشاء کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس طرح احناف کی نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: ایس، اے، الاعظمی، پوسٹ بکس نمبر ۲۸۲۰ Riffa بحرین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں حنفیہ کی نماز صحیح نہ ہوگی؛ لہذا

احناف پر عشاء کی نماز وقت ہونے پر دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. [النساء: ۲۰۱]

ولا يجمع بين فرضين في وقت إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها الخ

(مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، دارالکتاب دیوبند ۱۷۹، نور الايضاح، کتاب الصلاة

امدادیہ دیوبند ۵۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۳۰/۷/۱۴۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰/رجب المرجب ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۵/۲۸)

ایک ہی وقت میں متعدد وقتیہ نمازیں پڑھنا

سوال [۲۶۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حج کے دوران واپسی کے وقت مدینہ یا جدے کے ایرپورٹ پر دن کے بارہ بجے جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو حاجی لوگوں کو ایک امام صاحب ایک ساتھ ظہر عصر مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھاتے ہیں، تو کیا یہ نمازیں وقت نہ ہونے کے باوجود بھی ہو گئیں یا نہیں؟ امام و مقتدیوں کے لئے از روئے شرع کیا حکم ہے؟

المستفتی: عبدالحفیظ، کمرانہ ناگورا جستان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس امام نے ظہر کے وقت میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی تمام نمازیں ایک ساتھ پڑھادی ہیں، اس امام اور مقتدی کی صرف ظہر کی نماز صحیح ہوئی اور باقی عصر، مغرب اور عشاء کی نماز درست نہیں ہوئیں اس امام اور مقتدی پر ان نمازوں کا اعادہ لازم ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. [النساء: ۲۰۱]

وقد منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر للنصوص القطعية بتعيين الأوقات فلا يجوز تركه إلا بدليل مثله. (بحر الرائق، كتاب الصلاة،

باب الجمع بين الصلاتين كوئثه ۲۵۴/۱، زكريا ۴۱/۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۱۰/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ شوال المکرم ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۵۸۲۳۷)



(۱۴) باب صلوة النساء

کیا مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے؟

سوال [۲۶۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورتوں و مردوں کی نماز کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو اس کا ثبوت کس حدیث سے ہے۔ نیز حدیث پاک ”صلوا کما رأیتمونی أصلي“ کے مصداق میں کیا عورتیں داخل نہیں ہیں؟

المستفتی: ابوالکلام، سدھارتھگری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سائل نے سوال میں جو حدیث پاک پیش فرمائی ہے وہ حدیث پاک حضور ﷺ نے حضرت مالک بن الحویرثؓ کے اپنے قبیلہ میں واپس ہوتے وقت ارشاد فرمائی تھی۔ (بخاری شریف ۸۸۱، حدیث: ۶۲۲، نسخۂ ہندی فتح الباری بیروت ۱۱/۲، حدیث ۶۳۱، عمدۃ القاری بیروت ۱۴۵/۵)

اس حدیث کے اصل مخاطب حضرت مالک بن الحویرثؓ ہیں، اس حدیث میں نماز کے اصول، ارکان، فرائض و واجبات میں عورتیں و مرد سب داخل ہیں؛ لیکن آداب و مستحبات میں مردوں اور عورتوں میں فرق ہے، اس حدیث میں آداب و مستحبات نہیں بیان کئے گئے ہیں؛ بلکہ نماز کے واجبات اور فرائض کی کیفیات اور کمیات بیان کی گئی ہیں اور آداب و مستحبات دوسری حدیث میں ہیں جن میں عورتوں کے الگ اور مردوں کے الگ ہیں، جو ذیل کی حدیثوں سے واضح ہوتا ہے۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: والتصفيق للنساء، والتسييح للرجال. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب

التصفيق للنساء ۱/ ۱۶۰، رقم: ۱۱۸۹، ف: ۱۲۰۳، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب

تسييح الرجل وتصفيق المرأة، النسخة الهندية ۱/ ۱۸۰، بيت الأفكار رقم: ۴۲۲)

فقال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر! إذا

صليت فاجعل يديك حذاء أذنك، والمرأة تجعل يديها حذاء

ثديها. (المعجم الكبير للطبراني ۲۲/ ۲۰، رقم: ۲۸، جامع الأحاديث للسيوطي ۹/ ۲۲۳،

رقم: ۴۷ ۲۸۱، مجمع الزوائد ۲/ ۱۰۳ و ۹/ ۳۷۴)

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على

امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن

المرأة ليست في ذلك كالرجل. (جامع الأحاديث للسيوطي ۱/ ۲۲۰،

رقم: ۵۲ ۱۴، مراسيل أبي داود: ۸۵، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر جديد ۳/ ۷۵،

رقم: ۳۲۸۵) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/ رجب المرجب ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۸۸۲/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۷/۲ھ

عورتوں و مردوں کی نماز میں فرق سے متعلق احادیث

سوال [۲۶۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے مثلاً عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں، تو

اپنے تمام بدن کو ایک دوسرے اعضا سے چپکا کر کرتی ہیں، جلسہ میں دونوں پیر ایک طرف

نکال کر بیٹھتی ہیں، تو اس فرق سے متعلق احادیث میں کوئی تذکرہ ہو تو احادیث تحریر فرمادیں

اور اس حدیث کی حیثیت بھی تحریر فرمادیں؟

المستفتی: نسیم انور ندوی، ڈائریکٹر فاطمہ گرلس اکیڈمی رانچی (جھارکھنڈ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کا سجدہ کی حالت میں بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے چپکا کر رکھنا، اسی طرح دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر چمٹ کر بیٹھنا حدیث سے ثابت ہے۔

دونوں طرح کی حدیثیں ملاحظہ فرمائیے:

عن یزید بن ابی حبیب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضمما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (مراسيل أبي داؤد، رقم: ۸۷، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر جديد ۷۵/۳، رقم: ۳۲۸۵، وفي نسخة القديم ۲/۲۲۳)

عن عبد الله بن عمر^{رضي}، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذيها على فخذيها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أنني قد غفرت لها. (السنن الكبرى، دارالفكر ۷۴/۳، رقم: ۳۲۸۳، وفي نسخة القديم ۲/۲۲۳)

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة^{رضي}، قال: جلوس المرأة بين السجدين متوركة على شقها الأيسر الحديث (مصنف عبد الرزاق ۱۳۹/۳، رقم: ۵۰۷۵)

عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز، وتلتصق فخذيها بطنها. (مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي ۱۳۸/۳، رقم: ۵۰۷۲، المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب المرأة كيف تكون في سجودها، موسسه علوم القرآن جديد ۲/۵۰۴، رقم: ۲۷۹۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۱۱/۱۴۲۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/ ذی قعدہ ۱۴۲۵ھ
(الف فتاویٰ نمبر: ۸۵۸۹/۳)

مستورات حرم کی میں نماز پڑھیں یا گھر میں؟

سوال [۲۶۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مکہ میں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے یا حرم شریف میں؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ حرم شریف میں خواتین نماز پڑھیں گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا اور خواتین گھر میں نماز پڑھیں گی تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، اس میں کتنی سچائی ہے؟

المستفتی: اہلیہ حاجی اکرام شمس مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے؛ لیکن عورتوں کے لئے اپنے گھر یا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم شریف میں مردوں کے اختلاط کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں ایک عورت کی وجہ سے تین مردوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؛ ہاں البتہ عورتوں کے لئے جو جگہیں مخصوص کی گئی ہیں ان جگہوں میں جا کر نماز پڑھنے میں کوئی خرابی اور مفاسد نہیں ہیں۔

عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
فضل الصلوة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلوة. (شعب الإيمان،
 باب في المناسك، فضل الحج و العمرة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۸۵، رقم: ۱۴۰،
 مسند البزار ۱۰/ ۷۷، رقم: ۴۱۴۲)

عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، و صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، و صلاتك في حجرتك

خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدك، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شبيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. (مسند أحمد بن حنبل ٣٧١/٦ رقم: ٢٧٦٣٠، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ٨١٥/٢، رقم: ١٦٨٩، صحيح ابن حبان دارالفكر ٢٤٩/٣، رقم: ٢٢١٦)

ثم المرأة الواحدة تفسد صلوة ثلاثة: واحد عن يمينها، وآخر عن يسارها، وآخر خلفها وتحتة في حاشية الجليبي: وعليه الفتوى وكثيرا ما تفسد الصلاة بهذا السبب في المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى. (تبيين الحقائق مع حاشية جليبي، كتاب الصلاة، باب الإقامة والحدث في الصلاة، زكريا ٣٥٦/١، ٣٥٧، مكتبة امدايه ملتان ١٣٩/١)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. (ابوداؤد شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء في خروج النساء إلى المساجد، النسخة الهندية ٨٤/١، دارالسلام رقم: ٥٦٧، مسند أحمد بن حنبل ٧٦/٢، رقم: ٥٤٦٨، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ٨١٣/٢، رقم: ١٦٨٣، المستدرک، كتاب الصلاة جديد ٣١٣/١، رقم: ٧٥٥)

وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد: أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة؛ بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده، كما صححه النووي. (شامي، كتاب الحج، مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة، كراچی ٥٢٥/٢، زكريا ٥٤٧/٣)

کتبه: بشیر احمد قاسمی عفا الله عنه

٢٢ ذی قعدہ ١٤٣١ھ

(الف فتوى نمبر: ٣٩/١٠١٩٥)

عورت قیام میں پاؤں کو ملائے یا درمیان میں فاصلہ رکھے؟

سوال [۲۶۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں بحالت قیام عورت کے لئے دونوں پاؤں ملانا سنت ہے یا مرد کی طرح چار انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے؟

المستفتی: ممتاز احمد قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کے لئے قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھنے، یا دونوں کو ملانے سے متعلق حدیث اور فقہ کی کتابوں میں کوئی صراحت نظر سے نہیں گذری، ہاں البتہ حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ عورتوں کے لئے ہر رکن کی ادائیگی میں اپنے اعضاء کو حتی الامکان سمیٹنا چاہئے؛ لہذا قیام کی حالت میں جہاں تک ممکن ہو پیروں کو ملانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ مسئلہ قیاسی ہے اس کو لازم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو اس کے خلاف صریح جزئی مل جائے، تو اس پر عمل کرے، ہم کو کوئی صریح جزئی نہیں ملا۔

عن ابن عباسؓ، أنه سئل عن صلاة المرأة؟ فقال: تجتمع وتحفظ.

(مصنف بن أبي شيبة، موسسه علوم القرآن جديد ۲/۵۰۵، رقم: ۲۷۹۴)

والمرأة تنخفض، فلا تبدي عضديها وتلصق بطنها بفخذيه؛ لأنه أستر.
(شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۲/۲۱۱، کراچی ۱/۵۰۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۲ھ

۱۴/۸/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۷۹/۳۹)

کیا عورتوں کے لئے قیام میں ٹخنے ملانا مسنون ہے؟

سوال [۲۶۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عورت کو نماز میں اپنے دونوں ٹخنے ملانا مسنون ہے یا مرد کی طرح چار انگل کا فاصلہ مستحب ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں، کہ قیام کی حالت میں مرد کی طرح عورت کے لئے بھی چار انگل کا فاصلہ مستحب ہے اور رکوع کی حالت میں عورت کا اپنے دونوں ٹخنے ملانا مسنون ہے، صحیح کیا ہے؟

المستفتی: محب الرحمن، مدرسہ تجوید القرآن سمدھن تنوچ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کے لئے قیام کی حالت میں ٹخنوں کو چار انگل کے فاصلہ پر رکھنے یا ملا کر رکھنے سے متعلق کوئی صراحت نہیں ملی؛ لیکن حدیث پاک میں حضور ﷺ نے عورتوں کو رکوع، سجدہ اور جلسہ وغیرہ میں اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا کر ارکان کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیام کی حالت میں ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملا کر کھڑے ہو جانا چار انگل فاصلہ رکھنے کے مقابلہ میں بہتر ہے۔

روایات ملاحظہ فرمائیے:

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضمما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (جامع الأحاديث للسيوطي ۱/ ۲۲۰، رقم: ۱۴۵۲، مراسيل أبي داؤد ۸۵، رقم: ۸۷، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر جديد ۳/ ۷۵، رقم: ۳۲۸۵)

عن ابن عمر مرفوعا إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذيها على فخذيها الأخرى، فإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها. (كنز العمال ۷/ ۲۲۳، رقم: ۲۰۱۹۹)

إذا جلست المرأة في الصلاة، وضعت فخذيها على فخذيها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي! أشهدكم أنني قد غفرت لها. (السنن الكبرى للبيهقي جديد، دارالفكر ۳/ ۷۵، رقم: ۳۲۸۴، وفي نسخة القديم ۲/ ۲۲۳)

اور رکوع کی حالت میں عورتوں کے لئے دونوں ٹخنے ملانا مسنون ہے، یہ بات درست ہے۔ (مستفاد: بہشتی زیور ۱۷۲/۱)

وفي المجتبى: هذا كله في حق الرجل أما المرأة ففتحني في الركوع يسيراً ولا تفرج؛ ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا، وتحني ركبتيها ولا تجا في عضديها، لأن ذلك أستر لها. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة، كراچی ۱/۹۴، زكريا ديوبند ۱۹۷/۲، استفاد: بہشتی زیور ۱۷/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۰۳۷/۲۰)

عورت سینہ بند نہ پہنے تو کیا نماز ہو جائے گی؟

سوال [۲۶۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عورت اگر گرمی کی وجہ سے چھوٹا کپڑا (جو اندر پہنا جاتا ہے) نہ پہنے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

المسفتی: شبیم کسرول مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورت کپڑا اس طرح پہنتی ہو کہ جسم بالکل نظر نہ آئے تو اس کی نماز اس کپڑے میں اداء ہو جائے گی خواہ اس کپڑے کے اندر چھوٹے کپڑے (بنیان سینہ بند وغیرہ) ہو یا نہ ہو؛ اس لئے کہ عورت کے لئے نماز میں دونوں ہاتھ دونوں قدم اور چہرہ کے علاوہ تمام بدن کا چھپانا فرض ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدید ڈائجیل ۲۲۰/۵)

عن عائشة -رضی اللہ عنہا- قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. (سنن الترمذی، کتاب الصلاة، باب

ماجاہ لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، النسخة الهندية ۱/۸۶، دارالسلام رقم: ۳۷۷، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، النسخة الهندية ۱/۹۴، دارالسلام رقم: ۶۴۱، سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب إذا حاضت المرأة لم تصل إلا بخمار، النسخة الهندية ۱/۴۸۱، دارالسلام رقم: ۶۵۵، مسند أحمد بن حنبل ۶/۱۵۰، رقم: ۵۶۸۲، صحيح ابن خزيمة المكتب الإسلامي ۱/۴۲۱، رقم: ۸۳۱)

والرابع: ستر عورتہ-إلى قوله- للحرّة جميع بدنہا خلا الوجه، والكفين، والقدمين. (تنوير الأبصار مع الشامی، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، كراچی ۱/۴۰۵، زکریا ۲/۷۸، كذا في الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، زکریا ۱/۵۸، شرح النقاية، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، اعزازية ديوبند ۱/۶۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۸/۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲/شعبان المعظم ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۷۳۸/۹۶۸)

عورتوں کے ہتھیلیوں کو نماز میں کھلے رکھنے کا حکم

سوال [۲۶۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عورتوں کو نماز میں سجدے میں ہاتھ اچھی طرح ڈھکنے ضروری ہیں؟
تکبیر تحریمہ کے وقت تو عورتیں دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ کندھوں تک اٹھاتی ہیں اور رکوع میں بھی ہاتھ دوپٹے کے اندر ہی رہتے ہیں؛ لیکن سجدے میں تھوڑے ہاتھ دوپٹے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس کا جواب آپ تحریری دے دیں، تو بہتر ہے تاکہ میں عورتوں کو دکھا دوں۔

المستفتی: معرفت مولانا انظر رشید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صحیح قول کے مطابق دونوں ہتھیلیوں کو نماز کی

حالت میں عورتوں کے لئے کپڑے سے باہر کھلا رکھنا جائز اور درست ہے؛ لہذا رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہتھیلیاں کھل جائیں تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا مگر کلاسیاں کھولنا جائز نہیں۔

وللحرة جميع بدنھا خلا الوجه، والكفين، والقدمين. وتحتہ فی الشامیة: وفي مختلفات قاضي خان وغيرھا، أنه ليس بعورة وأيدہ فی شرح المنیة بثلاثة أوجه، وقال: فكان هو الأصح، وإن كان غير ظاهر الرواية. (تنوير الأبصار مع الشامی: زکریا دیوبند ۲/۷۸، کراچی ۱/۴۰۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۱/۲۶۴)

عورت و مرد کے رکوع میں فرق

سوال [۲۶۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک اردو کتاب میں دیکھا کہ عورت کے رکوع میں فرق ہے، رکوع میں عورت صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں کو چھو لیں زیادہ نہ جھکے، اور مرد انگلیوں کو کھلا رکھے اور گھٹنوں کے اوپر رکھے، عورت انگلیاں بند کر کے رکھے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

المستفتی: مولانا معاذ الاسلام، استاد مدرسہ امدادیہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اردو کی جس کتاب میں آپ نے مرد اور عورت کے رکوع میں جو فرق دیکھا ہے وہ صحیح ہے، یعنی عورت رکوع میں قلیل جھکے گی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر ملا کر رکھے گی اور اپنے دونوں بازوؤں کو پہلو سے ملائے ہوئے رکھے گی؛ البتہ مرد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھے گا اور دونوں بازوؤں کو پہلو سے جدار رکھے گا۔ (مستفاد: بہشتی زیور ۱۷/۱۷۲)

وأما المرأة فتنحني في الركوع يسيراً ولا تفرج؛ ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا، وتحني ركبتيها ولا تجافي عضديها، لأن ذلك أستر لها. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قبيل مطلب في إطالة الركوع للجاثي، كراچی ۱/ ۴۹۴، زكريا ديوبند ۲/ ۱۹۷)

ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه لقوله عليه السلام لأنس: إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك. (هداية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۱/ ۱۰۶، تاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني سنن الصلاة، زكريا ۲/ ۱۳۴، رقم: ۱۹۵۵، ۱/ ۵۰۵، درمختار، كتاب الصلاة، باب

صفة الصلاة، كراچی ۱/ ۴۹۳، زكريا ۱/ ۱۹۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۲/۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۲۲۹/۳۳)

عورت کا سجدہ میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ

سوال [۲۶۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت کے لئے سجدہ میں جانے سے پہلے بیٹھنا پھر سجدہ میں جانا، سجدے میں عورت کا سرین کوزمین پر چپکانا اور دونوں پیرداہنی جانب نکالنا، عورت کے لئے سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے سرین پھر گھٹنے رکھنا کیسا ہے؟

المستفتی: ممتاز احمد قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورت کے بارے میں حضرت تھانویؒ نے زمین پر پہلے گھٹنے رکھ کر سجدہ میں جانے کی بات لکھی ہے؛ حالانکہ سرین کو پہلے زمین پر ٹیکنے

کے بعد سجدہ کرنا زیادہ استر معلوم ہوتا ہے؛ لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی صراحت نہیں ملی اور حضرت تھانویؒ نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں پیروں کو داہنی طرف نکال کر کے سجدہ کر لے؛ لیکن پہلے سرین زمین پر ٹیکے بغیر دونوں پیروں کو داہنی طرف نکالنا دشوار کن اور مشکل بات ہے؛ اس لئے سرین زمین پر ٹیکنے کے بعد ہی سجدہ کرنا آسان ہو سکتا ہے۔
(مستفاد: بہشتی زیور حصہ دوم ۱۷)

أنها لاتنصب أصابع القدمين . (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، كراچي ۱/ ۵۰۴، زکریا ۲/ ۲۱۱)

ویزاد علی العشر أنها لاتنصب أصابع القدمين . (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۱/ ۵۶۱، کوئٹہ ۱/ ۳۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۷۹/۳۹)

پیشانی کو اوڑھنی سے ڈھانک کر اس پر سجدہ کرنا

سوال [۲۶۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت کا اپنی پیشانی کو اوڑھنی سے ڈھانک کر اس پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟
نوٹ: ہمارے یہاں مستورات نماز اسی طرح پڑھتی ہیں؛ جبکہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نماز کا یہ طریقہ کتب احناف میں نہیں ہے؛ لہذا عربی و مستند فتاویٰ کی عبارت سے معقول جواب سے نوازیں۔

المستفتی: ممتاز احمد قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عورت سر کو اچھی طرح ڈھانک لیتی ہے

اور اس کے دوپٹے کا کنارہ پیشانی تک آجاتا ہے اور سجدہ میں پیشانی کا کچھ حصہ دوپٹے پر آجائے اور اسی حالت میں سجدہ کر لے، تو بلاشبہ سجدہ درست ہو جائے گا، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام گرمی یا سردی کی وجہ سے اپنے پہنے ہوئے کپڑے کے کنارہ پر سجدہ کر لیتے تھے؛ لیکن افضل یہی ہے کہ سجدہ کی حالت میں پوری پیشانی دوپٹے سے حائل ہوئے بغیر سجدہ میں جائے۔

عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. (بخاري شريف، النسخة الهندية ۵۶/۱، رقم: ۳۸۳ ف: ۳۸۵)

قال عمر رضی اللہ عنہ إذا وجد أحدكم حر الأرض، فليضع ثوبه بينه وبين الأرض، ثم ليسجد عليه. (مصنف ابن أبي شيبة جديد ۵۰/۲، رقم: ۲۷۸۷)

عن علي رضی اللہ عنہ قال: إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته. (مصنف ابن أبي شيبة جديد ۵۰/۲، رقم: ۲۷۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۷۹/۳۹)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۲/۸/۲۷

عورتوں کا حرم میں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا

سوال [۲۶۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا حرم شریف میں چہرہ ڈھانک کر نماز ہو جائے گی؟

المستفتی: اہلیہ حاجی اکرم، ششی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عورتیں حرم شریف میں عورتوں کے لئے متعین کردہ جگہوں پر نماز پڑھتی ہیں، تو وہاں پر چہرہ کھول کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں

اور جن جگہوں میں اجنبی مرد کی نگاہ پڑنے کا خطرہ ہو وہاں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا چاہئے اور اگر عورت حالت احرام میں ہے تو نقاب کا کپڑا چہرہ پر لگنا ممنوع ہے؛ اس لئے کہ حالت احرام میں یا تو چہرہ کھلا رکھے یا اپنی پیشانی سے اوپر ہیٹ یا اس جیسی کسی چیز کے ذریعہ نقاب کے کپڑے کو چہرہ سے دور رکھے وہ کپڑا چہرے سے لگنا نہیں چاہئے۔

يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة. (اوجز المسالك جديد ۱۶/۳)

و تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال. (شامي، كتاب

الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، كراچی ۱/۴۰۶، زکریا ۲/۷۹)

وليس للمرأة أن تغطي وجهها وأنها لو أسدلت على وجهها شيئاً

وجافته عنه لا بأس بذلك. (بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل واما بيان ما يحظره

الاحرام ۳/۲۱۰، جديد زكريا ۲/۴۰۹، قديم ۲/۱۸۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ذی قعدہ ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۹۵/۳۹)

سجدہ میں پیر کی انگلیوں کا رخ

سوال [۲۶۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عورت سجدہ کی حالت میں دونوں قدم کھڑا کر کے انگلیاں قبلہ کی طرف کر لے یا کوئی دوسری کیفیت ہوگی؟

المستفتی: سلامت اللہ کھنڈوا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سجدہ کی حالت میں مردوں کی طرح قدمین کو

کھڑا کئے بغیر تورک کی حالت میں قبلہ کی طرف کرے گی، مردوں کی طرح قدمین کو کھڑا نہیں کرے گی؛ البتہ انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرے گی۔

وذكر في البحر أنها لاتنصب أصابع القدمين. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، كراچی ۱/۵۰۴، زکریا ۲/۲۱۱)

ويزاد على العشر أنها لاتنصب أصابع القدمين. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۱/۵۶۱، کوئٹہ ۱/۳۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۶/۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۵۰/۳۸)

سجدے میں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا واجب ہے یا سنت؟

سوال [۲۶۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا اس حدیث کی روشنی میں جس میں سجدے کے اندر سات ہڈیوں کو زمین پر لگانے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں گھٹنوں کا زمین پر لگانا واجب ہے یا سنت؟ اگر سنت ہے تو پھر اس حدیث کا جواب ہمارے نزدیک کیا ہے، نیز گھٹنوں کی تشریح فرمادیں کہ گھٹنہ کس حصہ کو کہیں گے اور سجدہ کی حالت میں گھٹنہ کا کون سا حصہ زمین پر لگانا مقصود ہے؟

المستفتی: سلامت اللہ، خادم جامعہ خیر العلوم پورے گاؤں کھنڈوا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حنفیہ کے نزدیک راجح قول کے مطابق سجدہ میں گھٹنوں کا زمین پر رکھنا واجب ہے اور آپ نے جس حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے مسلک احناف کی تائید ہوتی ہے؛ لہذا جواب دینے کی ضرورت نہیں اور گھٹنوں سے مراد پیر کے درمیان کی ابھری ہوئی ہڈی ہے، اسی ہڈی کا سجدہ میں زمین پر رکھنا واجب ہے؛ البتہ عورت گھٹنوں کو مردوں کی طرح کھڑا کر کے زمین پر نہیں رکھے گی؛ بلکہ پنڈلیوں سمیت گھٹنوں کا جتنا حصہ زمین پر لگ سکے اتنے ہی کی وہ مکلف ہے؛ اس لئے کہ چٹ کر سجدہ کرنے کی صورت میں مکمل گھٹنوں کا زمین پر ٹیکنا مشکل ہے۔

عن علي رضي الله عنه إذا سجدت المرأة فلتحفظ زواجرها لتضم فخذيها.
(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب المرأة كيف تكون في سجودها، مؤسسہ علوم القرآن جدید ۲/۴۰، رقم: ۲۷۹۳، قديم ۱/۲۷۰)

وذكر في البحر أنها لا تنصب أصابع القدمين. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، كراچی ۱/۴۰، زكريا ۲/۲۱۱)
ويسجد واضعاً ركبتيه، ثم يديه وفي الشامي: قدمنا الخلاف في أنه سنة، أو فرض، أو واجب، وأن الأخير أعدل الأقوال وهو اختيار الكمال.
(شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، كراچی ۱/۴۹۷، زكريا ۲/۲۰۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۶/۱۴۲۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۶۵۰)

عورت کا دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہونا

سوال [۲۶۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دوسرے سجدے کے بعد عورت کے لئے بیٹھنا پھر کھڑا ہونا کیسا ہے؟

المستفتی: ممتاز احمد قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ملی؛ لیکن سرین پریٹیک لگائے بغیر دونوں پیر جو داہنی طرف نکلے ہوئے ہیں انہیں اپنی جگہ واپس لا کر کھڑے ہونے میں سخت دشواری پیش آسکتی ہے، اگرچہ اس سلسلہ میں صراحت نہیں ملی، مگر موجودہ صورت سے خود بخود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرین کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے میں عورت کے لئے زیادہ آسانی ہے۔ (مستفاد: از بہشتی زیور حصہ دوم ۱۷)

أنهالاتنصب أصابع القدمين. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة،

کراچی ۱/۵۰۴، زکریا ۲/۲۱۱)

ويزاد على العشر أنها لاتنصب أصابع القدمين. (البحر الرائق، كتاب

الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۱/۵۶۱، کوئٹہ ۱/۳۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۲ھ

۱۴/۸/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۷۹/۳۹)

بازوؤں کو پہلو سے ملائیں یا کہنیوں کو زمین پر بچھائیں؟

سوال [۲۶۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں بازوؤں کو پہلو سے ملا لے اور کہنیوں کو زمین پر بچھالے عملاً دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر کس کو ترجیح دی جائے؟

المستفتی: سلامت اللہ کھنڈوا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فقہاء نے عورتوں کے لئے سجدہ کی جو مسنون

کیفیت بیان کی ہے کہ پیٹ کو رانوں سے ملا کر کہنیوں کو زمین پر بچھا کر اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا کر سجدہ کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خوب پردہ کے ساتھ سجدہ کیا جائے اور اعضاء ظاہر نہ ہوں اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی طرح بازوؤں کو پہلوؤں سے بالکل الگ نہ رکھے؛ بلکہ جہاں تک ہو سکے ملا کر رکھے تاکہ اعضاء ظاہر نہ ہوں اور اس طرح سے کہنیوں کو زمین پر بچھانا اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملانا کچھ مشکل نہیں؛ لہذا ترجیح کی بھی ضرورت نہیں۔

عن یزید بن ابی حبیبؓ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضمما بعض اللحم إلى الأرض. (مراسیل ابي داؤد ۸/۸، رقم: ۸۷)

عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز، وتلتصق فخذيهما ببطنها. (مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي ۳/۳۸، رقم: ۵۰۷۲)

والمرأة تنخفض فلا تبدي عضديها، وتلتصق بطنها بفخذيها، لأنه أستر وفي الشامي: وتفتش ذراعيها. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، زكريا ۲/۲۱۱، شامي كراچی ۱/۴/۵۰)

ذلك لأن مبنى أمرها على الستر، فكان السنة في حقها ما كان أستر من الهيئات. (كبيرى، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة جديد اشرفية ديوبند ۳۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۷/۱۴۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸/رجب ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۴۱/۲۵)

سجدہ میں عورتوں کا تورک کرنا

سوال [۲۶۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت سجدہ میں جاتے وقت پہلے زمین پر بیٹھگی پھر تورک کے ساتھ سجدہ کرے گی یا بیٹھنے کے بجائے پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر ناک و پیشانی رکھ کر سجدہ کرے گی، حالت سجدہ میں کیا عورت کے لئے تورک مسنون ہے جیسا کہ عام طور پر عورتیں سجدہ کرتی ہیں یا تورک نہ کرے گی؟

المستفتی: سلامت اللہ، کھنڈوا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کے سجدے کی مسنون کیفیت یہ ہے کہ زمین سے چمٹ کر پیٹ کو رانوں سے ملا کر بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا کر کہنیوں کو بچھا کر سجدہ کرے اس کیفیت پر سجدہ کرنے کا تقاضہ یہ ہے کہ عورت زمین کا سہارا لے کر سجدے میں جائے، سہارا لیئے بغیر سجدہ میں جائے گی تو دشواری پیش آئے گی، اب اگر سہارا لینے میں بیٹھنے کی شکل بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں؛ اس لئے کہ یہاں بیٹھنا مقصود نہیں ہے؛ بلکہ سجدہ کی مسنون کیفیت کو حاصل کرنا مقصود ہے، اسی طرح مسنون کیفیت کے مطابق سجدہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ عورت اپنے پیروں کو داہنی طرف نکال لے ورنہ اسے دشواری پیش آئے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۲۲۵/۷، فتاویٰ محمودیہ جدید ڈائجیل، ۲۳۰/۵)

عن یزید بن أبی حبیب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فوضما بعض اللحم إلى الأرض.
(مراسیل ابي داؤد، ۸۵، رقم: ۸۷)

عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز، وتلتصق فخذيهما بطنها. (مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي ۱۳۸/۳، رقم: ۵۰۷۲)

عن معمر عن قتادة قال جلوس المرأة بين السجدين متوركة على شقها الأيسر الحديث (مصنف عبد الرزاق ۱۳۹/۳، رقم: ۵۰۷۵)

والمرأة تنخفض فلا تبدي عضديها، وتلتصق بطنها بفخذيها، لأنه أستر وفي الشامي: وتفترش ذراعيهما. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحائض، زكريا ۲/۲۱۱، شامي كراچی ۱/۴۱)

ويكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود استراحة، ولو فعل لا بأس. وفي الشامي: أي على الأرض قال في الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض، والثاني الجلسة الخفيفة، وقال شمس الأئمة الحلواني: الخلاف في

الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي، ولو فعل كما هو مذهب لا بأس به عندنا، كذا في المحيط. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، كراچی ۱/۵۰۹، زکریا ۲/۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹ھ/۶/۲۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۵۰/۳۸)

عورتوں کا نماز و دیگر عبادت کے لئے مسجد جانا

سوال [۲۶۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: (۱) کہ ہمارے علاقہ میں اس وقت بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات اٹھی ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جماعت کی نماز کے لئے آنے میں شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے؛ بلکہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنا چاہئے دریافت طلب امر یہ ہے کہ قرآن و حدیث و آثار اور حنفی و شافعی فقہ میں ہمیں اس مسئلہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ہم اس وقت اپنی عورتوں کو جماعت کی نماز کے لئے مسجد بھیج سکتے ہیں، اگر شریعت کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تو پھر عامۃً اس پر عمل کیوں نہیں، اگر ممانعت ہے تو وہ کن دلائل سے؟

(۲) نیز کیا شب برأت، شب قدر وغیرہ مخصوص راتوں میں عورتیں عبادت کے

لئے مسجد میں آسکتی ہیں؟

المستفتی: ابوالحسن قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) عورتوں کے لئے مردوں کی طرح مسجدوں

میں جا کر جماعت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، دور صحابہ سے عورتوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے؛

اس لئے کہ عورتوں کا جماعت میں شرکت کے نام سے نکلنے میں فتنہ اور برائیوں کا سخت خطرہ ہے؛ اس لئے جماعت میں شرکت ان سے معاف ہے؛ لہذا جماعت کی نماز کے لئے عورتوں کو مسجد بھیجنا جائز نہ ہوگا۔

عن عمرؓ، أنه نهى الشواب عن الخروج، ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام الخ (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب الإمامة، فصل وحرأما بيان من يصلح للإمامة بزكريا ۱/۳۸۸، كراچي ۱/۱۵۷)

(۲) شب برأت اور شب قدر وغیرہ میں بھی عورتوں کو عبادت کے لئے مسجد میں جانا جائز نہیں؛ بلکہ عورتیں اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں۔

عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: لورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل . (ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب في خروج النساء في العيدين، النسخة الهندية ۱/۱۲۰، دارالسلام رقم: ۵۴۰، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، النسخة الهندية ۱/۸۴، دارالسلام رقم: ۵۶۹، صحيح ابن خزيمة ۲/۸۱۸، رقم: ۱۶۹۷، مصنف عبد الرزاق ۳/۱۴۹، رقم: ۵۱۱۳) فقط واللهم سبحانك وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۵۱۲۳/۳۳)

عورتوں کی جماعت کا حکم

سوال [۲۶۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، نیز نماز تراویح کی جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: عزیز الرحمن، مہمدھارتھ نگری، معلم مدرسہ شاہی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چاہے نماز فرض ہو یا تراویح تنہا عورتوں کی جماعت جس میں امام بھی عورت ہی ہو کر وہ ہے۔

عن عائشة -رضی اللہ عنہا- أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: لا خیر فی جماعۃ النساء إلا فی مسجد جماعۃ. (المعجم الأوسط، دار الفکر ۶/۴۴۹، رقم: ۹۳۵۹، مسند أحمد بن حنبل ۶/۶۷، رقم: ۲۴۸۸۰، ۶/۱۵۴، رقم: ۲۵۷۲۸)

ویکرہ تحریمًا جماعۃ النساء ولو فی التراویح الخ (در مختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة، زکریا ۲/۳۰۵، کراچی ۱/۵۶۵، طحطاوی، کتاب الصلاة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة قدیم ۱۶۶، جدید دارالکتاب دیوبند ۴۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۶/۲/۲۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۴۳۶۱/۳۲)

تنہا عورتوں کی جماعت کا حکم

سوال [۲۶۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر عورتیں آپس میں جماعت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو کس طرح کریں گی؟

المستفتی: محمد قاسم گانوڑی بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے؛ بلکہ اپنے اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھنا افضل ہے۔

عن عبد اللہ -رضی اللہ عنہ- عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، و صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك النسخة الهندية ۱/۸۴، دار السلام رقم: ۵۷۰، المستترك، كتاب الصلاة قديم ۱/۳۲۸، جديد ۱/۳۱۴، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ۲/۸۱۵، مسند البزار ۵/۴۲۶، رقم: ۲۰۶۰) عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لاخير في جماعة النساء إلا في مسجد. (مسند أحمد بن حنبل ۶/۶۷، رقم: ۲۵۷۲۸، ۱۵۴/۶، ۲۴۸۸۰، رقم: ۲۵۷۲۸)

ويكره تحريمًا جماعة النساء ولو في التراويح، وفي الشامية: وأنها إذا توسطت لاتزول الكراهة الخ (در مختار مع الشامى، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ۲/۳۰۵، ۳۰۶، كراچي ۱/۵۶۵، هدايه، كتاب الصلاة، باب الإمامة اشرفي ديوبند ۱/۱۲۳، تاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الحث على الجماعة ۱/۶۰۸، زكريا ۲/۲۸۱، رقم: ۲۴۲۶)

صلا تهن فرادى أفضل. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إمامًا لغيره ۱/۸۵، جديد ۱/۴۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ
الحق محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
الجواب صحیح:
۲۳/۴/۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۰۱/۳۴)

تنہا عورتوں کا جماعت کرنا

سوال [۲۶۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورتوں کی تنہا جماعت مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن اگر کوئی لڑکی حافظ قرآن ہو اور رمضان میں تراویح کی جماعت اس غرض سے کرے کہ اس کی وجہ سے قرآن پاک یاد رہے گا،

تو اس کا یہ فعل کیسا ہے، آیا جواز کی صورت میں داخل کر کے اس کو تراویح پڑھانے کی اجازت دی جائے گی یا اس کو تراویح پڑھانے سے منع کر دیا جائے گا، عدم جواز کی صورت میں قرآن پاک یاد رکھنے کی آسان صورت کیا ہو سکتی ہے۔

واضح رہے کہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب^{رحمۃ اللہ علیہ} لکھنوی نے حاشیہ علم الفقہ ۲/۹۵ میں عورتوں کی جماعت کو غیر مستحب لکھا ہے اور مکروہ تحریمی ہونے کی تردید کی ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: عبدالقادر مہولی بہرائچ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تنہا عورتوں کی جماعت خواہ فرائض نماز کے لئے ہو یا نوافل کے لئے بہر صورت کراہت کے ساتھ جائز ہے، قرآن پاک کی یادداشت کے لئے جماعت کرنے سے کراہت ختم نہیں ہوتی؛ بلکہ علیٰ حالہ کراہت باقی رہتی ہے؛ البتہ عورت جماعت کر لے اور امامت کرنے والی درمیان صف میں کھڑی ہو، تو نماز کراہت کیساتھ درست ہو جائے گی اور علم الفقہ میں غیر مستحب کہنا درست ہے؛ لیکن یہ اس وقت ہے جب عورت امام بن کر درمیان صف میں کھڑی ہو؛ اس لئے کہ اس طریقہ ابتداء اسلام میں عورتوں کی جماعت مستحب تھی، پھر استحباب منسوخ ہو گیا تو جماعت غیر مستحب ہو کر باقی رہ گئی؛ لہذا غیر مستحب سے کراہت تنزیہی کا ثبوت ہوا، جیسا کہ اس کی وضاحت علامہ ابن الہمام اور صاحب تبیین الحقائق نے کی ہے، نیز صاحب علم الفقہ کی کراہت تحریمی کی تردید بھی درست ہے؛ اس لئے کہ کراہت تحریمی اس وقت لازم آتی ہے؛ جبکہ عورت امام بن کر صفوں کے آگے مرد کی طرح کھڑی ہو؛ لیکن جب عورت وسط صف میں کھڑی ہو تو کراہت میں کمی آجاتی ہے، یعنی تحریمی باقی نہیں رہتی؛ لہذا فقہاء کا عورتوں کی جماعت کو مکروہ قرار دینے اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب^{رحمۃ اللہ علیہ} کا کراہت تحریمی کی تردید کر کے کراہت تنزیہی کہنے میں کوئی تعارض باقی نہ رہا۔

عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. فقلت لعمرة: أو ممنع؟ قالت: نعم. (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغسل، ١/١٢٠، رقم: ٨٦١، ف: ٨٦٩، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، النسخة الهندية ١/١٨٣، بيت الأفكار رقم: ٤٤٥)

عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة. (المعجم الأوسط، دارالفكر ٦/٤٤٨، رقم: ٩٣٥٩، مسند أحمد بن حنبل ٦/٦٧، رقم: ٢٤٨٨٠، ٦/١٥٤، رقم: ٢٥٧٢٨)

عن ريطة الحنيفة، أن عائشة-رضي الله عنها- أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة. (مصنف عبد الرزاق ٣/١٤٠، رقم: ٥٠٨٦)

عن حجيرة بنت حصين^{رض} قالت: أمتنا أم سلمة^{رض} في صلاة العصر قامت بيننا. (مصنف عبد الرزاق ٣/١٤٠، رقم: ٥٠٨٢)

فإنهن لو صلين جماعة جازت بالإجماع.....لاستجماع شرائط الجواز (إلى قوله) مع ما يوجب كراهته من ارتكابه المحرم. (عناية على شرح الهداية، فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ١/٣٦٣-٣٦٤ كوثنه ١/٣٠٦)

فإن فعلم يقف الإمام وسطهن لأن عائشة^{رض} فعلت كذلك حين كان جماعتهن مستحبة، ثم نسخ الاستحباب. (تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، امدادية ملتان ٤٣٦-١٣٦)

وقال ابن الهمام فإنما يفيد نسخ السنية وهو لا يستلزم ثبوت كراهة التحريم في الفعل؛ بل التزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى. (فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ١/٣٦٥، كوثنه ١/٣٠٧)

وقال الشافعي: تحت قول الحصكفي ”ويكره تحريما جماعة النساء، فإن فعلن تقف الإمام وسطهن“ إنها إذا توسطت لاتزول الكراهة، وإنما أُرشدوا إلى التوسط، لأنه أقل كراهية من التقدم. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ذكرها ۲/۳۰۶، كراچی ۱/۵۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۶/۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۷۷۷۷)

عورتوں کا مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنا

سوال [۲۶۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مسجد میں عورتوں کے لئے پردے کے ساتھ بیچ وقتہ نماز، نیز نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا اہتمام حنفی مسلک کے اعتبار سے درست ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب، غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کے لئے بیچ وقتہ نماز کی جماعت میں

شرکت کرنا کسی فضیلت کا باعث نہیں ہے، ان کے لئے گھروں کی کوٹھری میں تنہا نماز پڑھنا جماعت کی نماز سے زیادہ افضل ہے اور خاص طور پر اس زمانہ میں عورتوں کا بیچ وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مساجد میں جانا مکروہ اور سخت فتنہ کا باعث ہے، اگرچہ جماعت پردہ کے اہتمام کے ساتھ ہی کی جاتی ہو تب بھی ممنوع ہے اور حنفی مسلک میں عورتوں کو باجماعت نماز کے لئے مسجد میں آنے جانے کی کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ

محمودیہ ڈائجیل ۲۶/۲۷-۲۷/۲۸)

عن عبد اللہ -رضی اللہ عنہ- عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال:

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (سنن أبي داؤد شريف، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، النسخة الهندية ۱/۸۴، دارالسلام رقم: ۵۷۰، مسند البزار ۵/۴۲۶، رقم: ۲۰۶۰، المعجم الكبير للطبراني ۹/۲۹۵، رقم: ۹۴۸۲، مصنف عبد الرزاق ۳/۱۴۹، رقم: ۵۱۱۶) ويكره حضورهن الجماعة، ولو لجمعة، وعيد، ووعظ مطلقاً، ولو عجزوا ليلاً على المذهب المفتى به لفساد الزمان. (الدر المختار مع شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا ۲/۳۰۷، كراچی ۱/۵۶۶، البناء، كتاب الصلاة، باب الإمامة، اشرفية ۲/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ رجب المرجب ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۵۱/۳۷)

حافظہ عورت کا تراویح کی نماز باجماعت پڑھانا

سوال [۲۶۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت حافظ قرآن ہے تو وہ قرآن یاد رکھنے کی غرض سے رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت کر سکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ مقتدی صرف عورتیں ہوں اور وہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔

(۲) اگر جماعت کر لی تو قرأت بلند آواز سے کر سکتی ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے قرأت کرنے کی صورت میں نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

(۳) اگر نماز فاسد ہو جاتی ہے تو پڑھی گئی تراویح کی قضا لازم ہے یا نہیں؟

المستفتی: مشرف خاں، بہرائچ (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) ایسی صورت میں نماز تراویح مکروہ ہو جائے

گی بعد میں لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

ویکرہ للنساء أن یصلین و حدھن الجماعۃ الخ (ہدایہ، کتاب الصلاة،

باب الإمامة، اشرفی دیوبند ۱/۲۳)

عن عائشة -رضی اللہ عنہا- أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال:
لا خیر فی جماعۃ النساء إلا فی مسجد جماعۃ. (المعجم الأوسط، دارالفکر
۶/۴۸، رقم: ۹۳۵۹، مسند أحمد بن حنبل ۶/۶۷، رقم: ۲۴۸۸۰، ۶/۱۵۴،

رقم: ۲۵۷۲۸)

(۲) راجح قول کے مطابق نماز اگر چہ فاسد نہیں ہوتی ہے؛ لیکن پھر بھی آواز اتنی بلند نہ کرے جس سے باہر مردوں کو سنائی دے اور ایسی صورت میں نماز کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ خلیلیہ ۱/۲۵۸)

ولا نجیز لهن رفع أصواتهن، ولا تمطیظھا، ولا تلینھا، وتقطیعھا لما
فی ذلک من استمالۃ الرجال إلیهن وتحریک الشهوات منھم. (منحة الخالق،
کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زکریا ۱/۴۷۱، کوئٹہ ۱/۲۷۰، حاشیة الطحطاوی علی
مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، دارالکتاب دیوبند ۱/۲۴۲، شامی، کتاب
الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب فی العورة، کراچی ۱/۴۰۶، زکریا ۲/۷۹)

(۳) نماز فاسد نہیں ہوئی۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳/۱۲/۱۴۱۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ رزی الحجیہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۶۳۱)

عورتوں کا رمضان میں نماز تراویح پڑھنے کے لئے مساجد میں جانا

سوال [۲۶۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ جن مساجد میں باقاعدہ عورتوں کے لئے پردہ کا انتظام مستقل ہے یا عارضی طور پر رمضان المبارک میں کیا گیا ہے، وہاں عورتوں کا جانا اور نماز فرض اور سنت تراویح ادا

کرنا کیسا ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟

المستفتی: ڈاکٹر مہتاب علی نگرالہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگرچہ مساجد میں پردہ کا انتظام ہے، مگر عورتوں کے لئے نماز کے بہانہ سے باہر آنے کا موقع ملے گا؛ اس لئے شریعت نے عورتوں کو جماعت میں شرکت کے لئے مسجد جانے سے منع کر دیا ہے؛ اس لئے ایسی مسجدوں میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جن میں پردہ کا انتظام کیا گیا ہو۔

ویکرہ حضورہن الجماعة، ولو لجمعة، وعید الخ. (درمختار،

کتاب الصلاة، باب الإمامة، زکریا ۲/۳۰۷، کراچی ۱/۵۶۶)

عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأي ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل ممنعن المسجد؟ قالت: نعم. (مسلم شریف، کتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، النسخة الهندية ۱/۱۸۳، بیت الأفكار رقم: ۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۱۱/۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰/ذی قعدہ ۱۴۱۵ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۱/۲۰۹)

عورت کا نماز پنج گانہ اور تراویح کی امامت کرنا

سوال [۲۶۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عورت کا فرض نماز پنج گانہ یا تراویح کی امامت کرنا کیسا ہے، جبکہ عورت ہی

امام ہو اور عورتیں ہی مقتدی ہوں مع حوالہ جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: حافظ مقصود احمد انصاری، مقام سکھڑا، ڈاکخانہ ڈھکولی، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہر صورت میں عورت کی امامت ممنوع ہے، اگر

مرد مقتدی ہو تو مرد کی نماز ہی نہیں ہوگی اور عورتیں مقتدی ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة. (المعجم الأوسط، دارالفکر ۶/۴۴۸، رقم: ۹۳۵۹، مسند أحمد بن حنبل ۶/۶۷، رقم: ۲۴۸۸۰، ۶/۱۵۴، رقم: ۲۵۷۲۸)

عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه، فقال:..... ألا لاتؤمن امرأة رجلا. الحديث (سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب في فرض الجمعة، النسخة الهندية ۱/۷۵، دارالسلام رقم: ۱۰۸۱)

ويكره تحريمًا جماعة النساء ولو في التراويح الخ (در مختار، كتاب الصلاة،

باب الإمامة، زكريا ۲/۳۰۵، كراچي ۱/۵۶۵، كوئٹہ ۱/۴۱۸) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۶۹۳)

مستورات کا مسجد میں نماز پڑھنا

سوال [۲۶۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستورات کے لئے مسجدوں میں پردہ کے معقول نظم کے

ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام ہو جائے، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم نماز جمعہ پردہ کے خاص

اہتمام کے ساتھ کسی مسجد یا کسی بڑے ہال میں شہر کی مستورات جمع ہو کر ایک ساتھ ادا

کر لیں، خطیب صاحب بیان فرمادیں تاکہ مستورات کی بھی اصلاح ہو جائے تو یہ کیسا ہے؟

المستفتی: محمد عسکری طویلہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس فتنہ اور فساد کے زمانہ میں عورتوں کا مسجدوں

میں جا کر فرض نمازیں اسی طرح جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنے کی تلقین کرنا اور اس کا انتظام کرنا ایک نئے فتنہ کا دروازہ کھولنا ہے، اسی طرح خطیب کا بیان سننے کے لئے جمعہ کے دن مسجد یا مسجد کے پڑوس میں جمع ہونا بھی فتنہ سے خالی نہیں ہے؛ اس لئے کہ مسجدوں میں جو خالی جگہ عورتوں کے لئے مقرر کی جائے گی یا جو کمرے یا ہال وغیرہ عورتوں کے لئے مقرر کئے جائیں گے اس کا ہر وقت تحفظ موجودہ حالات میں بہت مشکل ہے؛ اس لئے عورتوں کے مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کا انتظام کرنا ہرگز درست نہیں۔

ویکرہ حضورہن الجماعة، ولو لجمعة، ووعظ مطلقاً، ولو عجوز الیلا علی المذہب المفتی بہ لفساد الزمان. (در مختار مع شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة، زکریا ۳۰۷/۲، کراچی ۵۶۶/۱، البناہ، کتاب الصلاة، باب الإمامة، اشرفیۃ دیوبند ۳۵۴/۲)

عن طارق بن شہابؓ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال: الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة إلا أربعة: عبد مملوک، أو امرأة، أو صبی، أو مریض. (سنن أبی داؤد، باب الجمعة للممک والمراة النسخة الهندیة ۱/۵۳، دار السلام رقم: ۱۰۶۷، المستدرک، کتاب الصلاة، قدیم ۴۲۵/۱، جدید رقم: ۱۰۶۲)

ولایحضرن الجماعات ”لقوله تعالیٰ وقرن فی بیوتکن الخ“ قال المصنف فی الکافی، والفتویٰ الیوم علی الکراهة فی الصلاة کلها لظهور الفساد ومتی کره حضور المسجد للصلاة، فلأن یکره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذین تحلوا بحلیة العلماء أولى، ذکره فخر الإسلام. (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة کوئٹہ ۳۵۸/۱، زکریا ۶۲۷/۱)

اگر عورتوں کو خطیب کا بیان سنانا مقصود ہے تو مہینہ میں ایک دو مرتبہ کسی مخصوص ہال میں اس کا انتظام کیا جائے اور اس میں سخت پردہ کے اہتمام کے ساتھ علماء اور بزرگوں کا بیان کروایا جائے اور جمعہ کے دن مردوں کی آمد و رفت کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے؛ اس لئے جمعہ کے دن اس کی اجازت نہیں ہے۔

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن. (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ۱/۲۰، رقم: ۱۰۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۵/۱۴۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۸۳۷۱/۳۷)

عورتوں کا بلا عذر فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا

سوال [۲۶۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں کی عورتیں بلا عذر فرض نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تفصیل سے سمجھائیں؟

المستفتی: محمد طاہر علی خان بنگلور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فرضیت قیام سے عورتیں مستثنیٰ نہیں؛ بلکہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے اور بلا عذر ترک قیام سے نماز نہیں ہوتی ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۵۲، جدید میرٹھ ۹/۲۵۵)

ومنها القيام لقادر عليه. (تنوير الأبرار مع الشامى، كتاب الصلاة،

باب صفة الصلاة، بحث القيام، زکریا ۲/۱۳۱، کراچی ۱/۴۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲/رجب المرجب ۱۴۱۵ھ

۲/۷/۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۰۸/۳۱)

عورت کا جنس پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۶۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ عورت کے لئے ایسی جنس پہننا جس میں اس کے پورے بدن کی بناوٹ نظر آتی ہو کیسا ہے؟ اور اسے پہن کر اگر عورت نے نماز پڑھی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مدلل جواب مرحمت فرمائیں؟

المستفتی: محمد یعقوب، غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورت کے لئے جنس کا پہننا ناجائز ہے؛ اس

لئے کہ جنس اتنی چست اور تنگ ہوتی ہے کہ اس سے اعضاء کی بناوٹ اور حجم نظر آتا ہے، تاہم جنس کے دبیز ہونے کی وجہ سے جسم کا اندرونی حصہ نظر نہیں آتا ہے؛ اس لئے اس میں نماز کراہت کے ساتھ درست ہو جاتی ہے اور یہ کفار و مشرکین کا لباس ہے، اس کو پہن کر ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے جو شرعاً جائز نہیں۔

عن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه

بقوم فهو منهم. (ابوداؤد شریف، کتاب الصلاة، باب في لبس الشهره ۲/۵۵۹،

دارالسلام رقم: ۴۰۳۱)

من تشبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار،

أو بأهل التصوف، والصلحاء الأبرار فهو منهم: أي في الإثم والخير.

(مرقاة المفاتيح، مکتبہ اشرفی ۸/۲۵۵)

عن ابن عباسؓ، قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، صحيح البخاري ۲/ ۸۷۴، رقم: ۵۶۵۶، ف: ۵۸۸۵)

كذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره، فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. (تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، مكتبة اشرفي ديوبند ۴/ ۸۸)

أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. (حلبی کبیر اشرفی، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة ۲۱۴، شامی، کتاب الصلاة، باب شرط الصلاة، زکریا ۲/ ۸۴، کراچی ۱/ ۱۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۵/ ربيع الاول ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۶۱/۴۰)

عورت کا ساڑھی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۶۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ساڑھی پہن کر عورتوں کی نماز کیسی ہے؟ مکروہ ہے یا نہیں اگر مکروہ ہے، تو بالتفصیل باحوالہ تحریر فرمائیں عین کرم ہوگا؟

المستفتی: محمد طیب حسین، سفیر مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ساڑھی سے پورا ستر چھپ جائے تو نماز درست ہے؛ البتہ جہاں غیر مسلم عورتوں کا مخصوص لباس سمجھا جاتا ہے عام مسلم عورتوں کا لباس

نہیں سمجھا جاتا ہے تو وہاں تشبہ بالکفار کی وجہ سے ساڑھی پہننا مطلقاً مکروہ تحریمی ہے چاہے نماز میں ہو یا خارج نماز میں جیسا کہ مغربی شمالی یوپی میں ہے۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. (مسلم شریف، باب النهی عن لبس الرجل ثوب المعصفر، النسخة الهندية ۱۹۳/۲، بیت الأفكار رقم: ۲۰۷۷)

حضور ﷺ نے ثوبین معصفرین کی ممانعت کی علت یہ بیان فرمائی کہ یہ کفار کے لباس ہیں، ان کے ساتھ تشبہ جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲۵۲/۴، فتاویٰ رحیمیہ ۶/۲۵۴)

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. (ابوداؤد، کتاب اللباس، باب في لبس الشهره ۵۵۹/۲، دارالسلام رقم: ۴۰۳۱، مشکوٰۃ شریف ۳۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ رزی قعدہ ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳/۳۷۷)

عورت کا چست لباس پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۶۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت کے لئے تنگ چوڑی دارپانجامتہ پہننا جس میں گھٹنوں تک کا حصہ بالکل ٹائٹ رہتا ہے جائز ہے یا نہیں اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد صلاح الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کے لئے ایسا لباس پہننا جس میں اعضاء مستورہ کی ہیئت نظر آئے مکروہ تحریمی ہے۔ اور چوڑی دارپانجامتہ میں گھٹنے سے نیچے

تک کی ہیئت ظاہر ہوتی ہے جو ستر میں داخل ہے؛ لہذا اس کا پہننا بھی مکروہ ہوگا تاہم ایسے چست لباس میں نماز پڑھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے؛ جبکہ اندرونی حصہ کی کھال نظر نہ آتی ہو۔

(مستفاد: محمودیہ ڈائجیسٹ ۳۱۱/۱۹، میرٹھ ۳۳۲/۲۷، کتاب المسائل ۴۳۱/۲۷)

عن أبي هريرة ^{رض} قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

(مسلم شریف، کتاب اللباس والزینة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، النسخة الهندية ۲/۲۰۵، بيرت الأفكار رقم: ۲۱۲۸)

أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. (شامي، مطلب في النظر إلى وجه الامرد، زكريا ۲/۸۴، كراچی ۱/۴۱۰، حلبی كبر، كتاب الصلاة، الشرط الثالث اشرفی ۲۱۴)

كذلك اللباس الرقيق، أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره، فهو حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. (تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزینة، باب تحريم استعمال أواني الذهب، مكتبة اشرفی دیوبند ۴/۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۶۰/۴۰)

نماز کی حالت میں عورت کی کلائی کھل جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۶۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عام طور پر بعض عورتوں کی کلائی بحالت نماز کھل جاتی ہے، ایسی صورت میں ان کی نماز باقی رہے گی یا فاسد ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد مسلم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عورت کی کلائی کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ نماز کی حالت میں تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کی مدت کے بقدر کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؛ اس لئے کہ کلائی عورت کے ستر میں داخل ہے اور ستر کا چوتھائی حصہ کھلا رہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

ویمنع حتی ان عقادھا کشف ربع عضو قدر أداء رکن بلاصنعہ - وذلك قدر ثلث تسبیحات. (شامی، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زکریا ۲/۸۲، کراچی ۴۰۸۱)

امراة صلت وربع ساقها أو ثلث ساقها مكشوف لم تجز صلوتهما وقيل الانكشاف عفو بالإجماع. (تاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلوة وواجبات وسننها وأدبها، زکریا ۲/۲۳، رقم: ۱۵۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۲۵/۴۰)

کھلے ہوئے یا جوڑا بنائے ہوئے بالوں پر دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھنا

سوال [۲۶۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت غسل کرنے کے بعد اپنے کھلے ہوئے بالوں پر دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں، اور بالوں کا جوڑا باندھ کر اس پر دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھے گی تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر دوپٹہ کے ذریعہ سارے بال چھپ جائیں تو نماز درست ہے چاہے بال گندھے ہوئے ہوں یا یوں ہی چھوڑ دیا ہو۔

وإن انكشف ربع المسترسل: أي النازل عن رأسها فسدت صلوٰتھا، لأنہ عورة. (کبیری، کتاب الصلاة، اما الشرط الثالث، کراچی سہیل اکیڈمی ۲۱۰، اشرفیہ ۲۱۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶/ ذی قعدہ ۱۴۰۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۳۵۳)

ہاف آستین والے کپڑوں میں عورتوں کی نماز

سوال [۲۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض جگہوں پر عورتوں کے کرتے کی آستین کہنیوں تک ہوتی ہے اور حرہ عورتوں کے لئے گٹوں تک ہاتھ چھپانا فرض ہے، تو ایسی عورتوں کی نماز ہوگی یا نہیں جو کہنیوں تک کی آستین والے کپڑے میں نماز پڑھتی ہیں اور اگر یہ عورتیں فل آستین کرتا پہن کر کام کرتی ہیں تو وہ نخل ہوتا ہے، ان عورتوں کے لئے کوئی نوکرانی نہیں ہے، کام خود سے کرنا ہوتا ہے، ان سب وجوہات کے پیش نظر ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟

المستفتی: عبداللکور، گڈاوی، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کی آستین کلائی تک ہونا فرض ہے ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی؛ لہذا جن عورتوں کی آستین کہنیوں سے اوپر ہے ان کی نماز اس حالت میں درست نہ ہوگی۔

بدن الحرة عورة إلا وجهها، وكفيها، وقدميها. (هنديہ ۱/۵۸، جدید
۱۱۵/۱، شامی، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، زكريا ۲/۷۶،
کراچی ۱/۴۰۵)

عن عائشة^{رض} أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها، أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه، وكفيه. (ابو داؤد، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، النسخة الهندية ۲/۶۷، دارالفكر ۴/۴۱۰)

اور گھر کے کام کے لئے اگر آستین اوپر کو اٹھانے کی ضرورت پڑھ جائے تو بقدر ضرورت اٹھالیں اور ضرورت پوری ہوتے ہی آستین اتار دیں جیسا کہ وضو کے لئے کیا جاتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱/ربیع الثانی ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۵۷۹۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۱/۴/۱۴۱۵ھ

لپ اسٹک لگا کر نماز و روزہ کا حکم

سوال [۲۶۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت اگر پورا میک اپ (مع لپ اسٹک کے) کر کے نماز پڑھے تو کیسا ہے؟ اگر مکروہ ہے تو کون سا مکروہ ہے اور بغیر لپ اسٹک کے کیسا ہے؟ شوہر کے حکم کے بغیر خالی اوقات میں لپ اسٹک لگا کر کے اندر رہنا یا باہر جانا کیسا ہے؟
المستفتی: عبدالعلیم ہر دوئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کا لبوں میں سرخی یعنی لپ اسٹک لگانا

جائز اور درست ہے، اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا بھی درست ہے؛ ہاں البتہ روزہ کی حالت میں اگر منہ کے اندر جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں مکروہ ہے۔

نیز عورتیں گھر کے اندر رہتے ہوئے شوہر کی اجازت کے بغیر زینت کی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں؛ البتہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر جانے کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں علاوہ ازیں لپ اسٹک کے بارے میں یہ کہنا کہ ناپاک چربی سے بنائی جاتی ہے، اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں محض کہنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۸۷، احسن الفتاویٰ ۴/۲۲۲، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۳۹/۱، جدید زکریا ۱۲۹/۳)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . [سورة النور: ۳۱] فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲/۲/۱۷

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۷۱۷۵)

عورتیں قضاء نماز کس طرح پڑھیں؟

سوال [۲۶۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورتیں اپنی قضاء عمری نمازیں ادا کرنا شروع کریں تو کس وقت و عمر سے شروع کریں آیا ۷ رسال، ۱۰ رسال، ۱۲ رسال یا پھر حیض و نفاس کا اعتبار کیا جائیگا؟

المستفتی: اقتدار انیس، مجلہ سرائے مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس دن لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اس دن سے اگر نماز نہیں پڑھی تو اسی دن سے شروع کرنا لازم ہے؛ البتہ ایام حیض کو مستثنیٰ کیا جائے گا؛ اس لئے کہ ایام حیض کی نمازیں منجانب اللہ معاف ہیں، اس طرح ہر ماہواری کا حساب لگا کر ان ایام کو چھوڑ کر بقیہ ایام کی نمازیں قضاء عمری کے طور پر ادا کی جائیں اور اس میں نیت اس طرح کرے

کہ بالغ ہونے کے بعد سے جو سب سے پہلی فلاں نماز جو قضاء ہوئی ہے وہ پڑھ رہی ہوں۔
ولو نوی أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص
لمن لم يعرف الأوقات الفائتة، أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه الخ
(الأشباه والنظائر زكريا ۱۱۵)

وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة، فإن أراد تسهيل الأمر
عليه، نوى أول ظهر عليه، أو آخره. (نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب قضاء
الفوائت، امداديه ديوبند ۱۰۷، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل العشرون قضاء
الفوائت، زكريا ۲/۴۵۴، رقم: ۲۹۶۸، البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت،
زكريا ۲/۱۵۹، كوئٹہ ۲/۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۳۳)



(۱۵) باب ما یکرہ فی الصلاة وما لایکرہ

مسجد کے دروں میں نماز پڑھنا

سوال [۲۶۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے اندر کا حصہ جب بھر جائے تو نمازی مسجد کے دروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؛ جبکہ ہر در میں ۳۳ آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ان دروں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ امام کا در میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتی: عبدالرحمن، رام نگر نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دروں کے اندر اگر صرف ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو مکروہ ہے، دودو، تین تین آدمی صف بنا کر کھڑے ہوں، تو بلا کراہت جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۱۳۷، جدید ڈبھیل ۶/۵۳۵)

والاصطفاف بین الأسطواناتین غیر مکروہ، لأنه صف فی حق کل فریق، وإن لم یکن طویلاً وتخلل الأسطوانة بین الصف کتخلل متاع موضوع، أو کفرجة بین رجلین وذلك لا یمنع صحة الاقتداء ولا یوجب الکراهة. (مبسوط سرخسی، کتاب الصلاة، باب صلوة الجمعة، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۳۵)

امام صاحب جب در میں نماز پڑھائیں تو تھوڑا سا باہر کھڑے ہوں بالکل اندر کھڑے ہونا جس طرح محراب میں مکروہ ہے، ایسے ہی در میں بھی اندر کھڑا ہونا مکروہ ہے؛ اس لئے اگر در میں نماز پڑھائیں تو تھوڑا سا باہر ہو کر نماز پڑھائیں کہ جس سے دونوں قدم باہر کو نکلے ہوئے ہوں۔

عن اسماعیل بن عبد الملك قال: رأيت أبا خالد الوالبي لا يقوم في الطاق، يقوم قبل الطاق. (مصنف لابن أبي شيبة، باب الصلاة في الطاق ۳/ ۵۰۹، رقم: ۴۷۳۷، قديم رقم: ۴۷۰۲)

الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين، أو زاوية، أو ناحية المسجد، أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، كراچی ۱/ ۶۴۶، ۰، زكريا ۲/ ۴۱۴)

وإنما لم يكره سجوده في المحراب إذا كان قدمه خارجه، لأن العبرة للقدم في مكان الصلاة. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، كوئٹہ ۲/ ۲۶، زكريا ۲/ ۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ رمضان المبارک ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۴۹۱۰)

مسجد کے دروازہ پر امام صاحب کا کھڑا ہونا

سوال [۲۶۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے دروازہ میں اگر نماز پڑھائی جائے تو امام کے پاؤں کا کونسا حصہ باہر رہنا چاہئے اور کونسا اندر مثلاً اگر زید امامت کرتا ہے تو گرمی کے موسم میں مسجد کے برآمدے کے دروازہ میں زید امامت کر رہا ہے، تو زید کے پاؤں کا کونسا حصہ باہر رہنا چاہئے اور کونسا اندر؟

المستفتی: ساجد حسین قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسجد کے دروازے میں نماز پڑھائی جائے تو امام کو ایڑی کا حصہ باہر رکھنے میں وہی حکم ہے جو محراب میں کھڑے ہونے کا ہے۔

قال في الشامي: وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه وقد ماه خارجه، لأن العبرة للقدم مطلقاً. (در مختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، زكريا ۲/ ۴۱، كراچی ۱/ ۶۴۵)

وإنما لم يكره سجوده في المحراب إذا كان قدماه خارجه، لأن العبرة للقدم في مكان الصلاة. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، كوئٹہ ۲/ ۲۶، زكريا ۲/ ۴۶)

عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن علي: أنه كره الصلاة في الطاق. (المصنف لابن أبي شيبة، باب الصلاة في الطاق ۳/ ۵۰۷، رقم: ۴۷۲۷، قديم رقم: ۴۶۹۴)

حاشیہ امداد الفتاویٰ کے اندر ہے پس اگر باہر کے درجہ میں جماعت ہو تو صحن کے وسط کا لحاظ رکھنا چاہئے اور امام ابوحنیفہ کی روایت اکرہ للإمام أن يقوم بين الساريتين الخ کا مطلب یہ ہے کہ مابین الساريتين کھڑا نہ ہو؛ بلکہ در سے باہر کھڑا ہو جیسا کہ محراب میں بھی یہی حکم ہے کہ بالکل محراب کے اندر کھڑا نہ ہو؛ بلکہ قدم باہر ہونے چاہئیں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/ ۲۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۶۲/۳۳)

امام صاحب کی ایرٹی کا محراب سے باہر نہ ہونا

سوال [۲۶۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر امام محراب کے اندر کھڑا ہے اور محراب ایک بالشت اونچی ہے اور اس کی ایرٹیاں محراب سے نکلی ہوئی نہیں ہیں، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں اگر ہوگی تو

مکروہ ہوگی یا غیر مکروہ، اگر مکروہ ہے تو کون سا مکروہ ہے؟

المستفتی: محمد جاوید، دورہ حدیث، مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محراب کا حصہ ایک بالشت اونچا ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آتا ہے؛ ہاں البتہ وہ حصہ اگر دونوں طرف کی دیواروں سے باہر کو نکلا ہوا نہیں ہے جس سے امام کی ایڑی باہر کو ہو جائے تو ایسی محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مکروہ تنزیہی ہے اور نماز بہر صورت صحیح ہو جاتی ہے؛ البتہ ثواب میں کمی آتی ہے۔

و کرہ قیام الإمام فی المحراب لاسجودہ فیہ وقدماء خارجہ؛ لأن العبرة للقدم مطلقاً، قال الشامي: وفي حاشية البحر للملئ الذي يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيه تأمل. (شامي مع الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، كراحي ۱/۶۴۶، زكريا ۲/۴۱۴)

عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت أبا خالد الوالبي لا يقوم في الطاق، يقوم قبل الطاق. (مصنف لابن أبي شيبة، باب الصلاة في الطاق ۳/۵۰۹، رقم: ۴۷۳۷، قديم رقم: ۴۷۰۲)

قال: محمد رحمه الله: لا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد ورأسه في السجود في الطاق، ويكره أن يقوم في الطاق. (الفتاوى التاتارخانيه، كتاب الصلاة، الفصل الرابع فيما يكره للمصلي، وما لا يكره، جديد زكريا ۲/۲۱۰، رقم: ۲۱۹۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۱۱/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/ذی قعدہ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۸۴۵/۴۰)

محراب کے مقابل صف کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھانا

سوال [۲۶۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے اندر جماعت کی نماز بیچ میں پڑھتے ہیں یعنی محراب میں امام کا مصلیٰ نہیں ہوتا؛ بلکہ محراب سے ایک صف باہر اور مصلیٰ حسب معمول پیچھے ہوں تو کیا یہ درست ہے، مسجد کی حدود کافی طول و عرض میں ہے ایک صف نمازی ہیں بہر حال نماز محراب میں ہو یا بیچ میں؟

المستفتی: محمد یوسف مفتاحی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محراب صف کے بیچ میں ہو تو چاہے امام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے یا وسط صف میں محراب کے بالمقابل کھڑا ہو کر نماز پڑھائے بہر صورت بلا کراہت نماز درست ہوتی ہے، مقصود اگلی صف کے درمیان رخ پر کھڑا ہونا ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳/۳۶۱، امداد الفتاویٰ ۱/۴۳۰)

والسنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر السنة، أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحارب ما نصبت إلا وسط المساجد، وهي قد عنيت لمقام الإمام، والظاهر أن هذا في الإمام الراجح لجماعة كثيرة لثلاث يلزم عدم قيامه في الوسط، فلو لم يلزم ذلك لايكره الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة و بدعة، كراچي ۱/۶۴۶، زكريا ۲/۳۱۰)

وينبغي للإمام أن يقف إزاء الوسط، فإن وقف في ميمنة الوسط، أوفي مسيرته، فقد أساء لمخالفة السنة هكذا في التبيين. (هنديہ، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام، زكريا ۱/۸۹)

حدثنی ابو ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. (سنن أبي داؤد، کتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف، النسخة الهندية ۱/۹۹، دار السلام رقم: ۶۸۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۹۱۰۳۶-۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۷/۲/۱۴۲۳ھ

امام صاحب کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر امامت کرنا

سوال [۲۶۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ علماء لکھتے ہیں کہ مسجد کی محراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ ہے اور اس کی علت یہ لکھتے ہیں کہ اس میں تشبہ بالیہود ہے اور امام کی حالت کا مقتدیوں کو علم نہیں ہوتا ہے؛ جبکہ یہودیوں کی محراب الگ ہوا کرتی ہے اور مروجہ محراب مسجد میں ہی ہوتی ہے اور امام اگر اندر کھڑا ہو جائے تب بھی امام کی حرکات کا علم ہوتا ہے اور امام بہت سارے مقتدیوں کو نظر آتا ہے؛ جبکہ موجودہ محرابیں بہت چوڑی بنائی جاتی ہیں، تو کیا اس صورت میں مکروہ ہوگا؟

المستفتی: محمد فضل اللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ تہذیبی ہے اور علماء کراہت کی وجہ ان دونوں علتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ سوال نامہ میں ہے، مگر کراہت کی اصل علت ایک تیسری چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ امام و مقتدی کا مقام واحد میں بھی ہونا لازم ہے اور محراب اگر چہ جزو مسجد سے اور مسجد سے الگ دوسرا مقام نہیں ہے؛ لیکن پھر بھی اختلاف مکانین اور بتانین مکانین کا اشتباہ موجود ہے اور حقیقت اختلاف جواز صلوة کو مانع ہوتا ہے اور شبہہ اختلاف کراہت کو مستلزم ہوتا ہے اور امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا شبہہ اختلاف کو مستلزم ہے؛ اس لئے مکروہ ہے۔

وحقیقۃ اختلاف المكان تمنع الجواز فشبہة الاختلاف توجب
الکراهة ، والمحراب وإن کان من المسجد فصورتہ وهیئته اقتضت
شبہة الاختلاف الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، مطلب إذا تردد
الحکم بین سنة وبدعة، کراچی ۱/۶۴۶، زکریا ۲/۴۱۴، موسوعۃ الفقہیة
الکویتیة ۳۶/۱۹۶، البحر الرائق کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، کوئٹہ ۲/۲۶،
زکریا ۲/۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۲۸۱)

امام صاحب کا محراب کے اندر نماز پڑھانا کیوں مکروہ ہے؟

سوال [۲۶۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ امام کا محراب کے اندر نماز پڑھانا کیوں مکروہ ہے اور کتنا باہر نکل کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟
المستفتی: امام جامع مسجد دھنورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کراہت کی بہت سی علتیں بیان کی جاتی ہیں
ان میں زیادہ راجح یہی ہے کہ اگر امام محراب کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو کنارے کے لوگوں
پر امام کا حال مشتتبہ رہتا ہے اور اگر قدم محراب سے باہر ہو تو اشتباہ ختم ہو جاتا ہے۔
(مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۳۱۰)

عن اسماعیل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن علي: أنه كره
الصلاة في الطاق. (المصنف لابن أبي شيبة، باب الصلاة في الطاق ۳/۵۰۷،
رقم: ۴۷۲۷، قدیم رقم: ۴۶۹۴)

وقيل اشتباه حاله على من في يمينه ويساره، فعلى الأول يكره مطلقاً،

وعلى الثاني لا يكره عند عدم الاشتباه، وأيد الثاني في الفتح، بأن امتياز الإمام في المكان مطلوب، وتقدمه واجب وغايته اتفاق الملتين في ذلك، وارتضاه في الحلية وأيده. (شامی، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، كراچی ۱/۶۴۶، زكريا ۲/۱۴۱، فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، زكريا ۱/۴۲۵، كوئٹہ ۱/۳۵۹، مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، فصل في بيان ما يكره في الصلاة، جديد دار الكتب العلمية بيروت ۱/۱۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۳/۲/۲۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ صفر المظفر ۱۴۱۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۱۰/۲۸)

در میں نماز پڑھنے یا پڑھانے کا حکم

سوال [۲۶۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا امام کے یا مقتدی کے در میں کھڑے ہونے سے نماز پایہ تکمیل کو پہنچانے کی یا نہیں، در سے مراد وہ جگہ ہے جو مسجد کے اندرونی اور باہری حصہ کے بیچ دیوار ہوتی ہے اس کے بیچ کھڑا ہونا مراد ہے۔ نیز امام اگر محراب کے اندر ہو تو کیا نماز درست ہے؟

المستفتی: حاجی محمد صدیق عمری کلاں مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ در کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا بھی ایسا ہی ہے جیسے محراب کے اندر نماز پڑھانا اور فقہاء نے پورے طریقہ سے محراب کے اندر کھڑے ہونے کو مکروہ لکھا ہے؛ لہذا امام کو محراب میں اس طرح کھڑا ہونا چاہئے کہ امام کی ایڑی محراب کی دونوں طرف کی دیوار سے باہر ہو یعنی کم از کم چار انگل کے بقدر باہر کھڑے ہونا چاہئے یہی شکل باہر کے در میں کھڑے ہونے کی ہے۔

عن علي أنه كره الصلوة في الطاق. (المصنف لابن أبي شيبة ۵۰۷/۳، رقم: ۴۷۲۷، قديم: ۴۶۹)

ويكره قيام الإمام وحده في الطاق وهو المحراب، ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائما خارج المحراب. (عالمگیری، باب ما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، فيما يكره في الصلاة قديم ۱۰۸/۱، زكريا جديد ۱۶۷/۱)

وذهب أبو جعفر إلى أن فيه اشتباه الحال على من على يمينه، ويساره، والتقدم شرع للتيسير على القوم ليظهر حاله لهم، فإذا أفضى إلى خلاف موضوعه كره، فعلى هذا لا يكره عند عدم الاشتباه؛ لكن مقتضى ظاهر الرواية كراهة قيامه مطلقا سواء اشتبه حاله أم لا، فاللائق لنا، أن نجتنب عنها. (مجمع الأنهر، باب ما يفسد الصلاة، فصل في بيان ما يكره فيها جديد بيروت ۱۸۷/۱، ۱۸۸)

ہاں البتہ اگر امام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدیوں سے مسجد بھر گئی ہو تو ایسی صورت میں بعض مقتدیوں کے لئے پیچھے کے دروں میں کھڑے ہونے میں وہ شرط نہیں ہے جو امام کے لئے ہے؛ بلکہ مقتدیوں کا مکمل در کے اندر کھڑا ہو جانا جائز اور درست ہے۔

والإصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه، لأنه صف في حق كل فريق، وإن لم يكن طويلا وتخلل الأسطوانة بين الصف، كتخلل متاع موضوع، أو كفرجة بين رجلين وذلك لا يمنع صحة الاقتداء ولا يوجب الكراهة. (المبسوط للسرخسي ۳۲/۱، باب الجمعة، درالفكر بيروت، ۳۵/۲، دارالكتب العلمية بيروت) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۱۱/۴

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ شوال المکرم ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۸۱۰/۳۹)

امام صاحب کا محراب میں کھڑا ہونا

سوال [۲۶۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مسجد کی اگلی دیوار میں بنی محراب میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اگر وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو نماز میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ اسی طرح اگر مسجد کے برآمدہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو اور برآمدہ کا حجم باہر نکلا ہو ہے تو نماز میں کوئی خرابی ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد شتاق مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام کا محراب میں اس طریقہ پر کھڑا ہونا کہ پیر بھی محراب کے اندر ہوں یہ مکروہ ہے؛ ہاں البتہ تنگی اور ضرورت کی حالت میں محراب میں کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۲۱۵، امداد الفتاویٰ ۱/۴۲۰، امداد الاحکام ۲/۱۲۵)

عن اسماعیل بن عبد الملک قال: رأیت أبا خالد الوالبي لا يقوم في الطاق، يقوم قبل الطاق. (مصنف لابن أبي شيبة، باب الصلاة في الطاق ۵۰۹/۳، رقم: ۴۷۳۷)

ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب لقيامه خارجه وسجوده والكرهه لاشتباه الحال على القوم، وإذا ضاق المكان فلا كراهة. (مراقبي الفلاح، حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات قديم ۱۹۸، جديد دار الكتاب ديوبند ۳۶۰-۳۶۱)

ذهب أبو جعفر إلى أن فيه اشتباه الحال على من على يمينه، ويساره، والتقدم شرع للتيسير على القوم ليظهر حاله لهم. (مجمع الأنهر،

کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، فصل فی بیان ما یکره فی الصلاة، جدید

دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱/۱۸۸)

اگر چھجے میں امام کھڑا ہوتا ہے اور چھجے برآمدہ کی دیوار سے باہر نکلا ہوا ہے، نیز امام کی ایڑی برآمدہ کی طرف نمایاں رہتی ہے تو مکروہ نہیں ہے اور اگر نمایاں نہیں رہتی؛ بلکہ دیوار سے مسجد کی طرف اندر کوجاتی ہے تو محراب کے اندر کھڑے ہونے کی طرح کراہت کا حکم یہاں بھی ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۷/۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۰۲/۳۵)

مقتدی کی رعایت میں امام صاحب کا رکوع کو لمبا کرنا

سوال [۲۶۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک امام کا عمل اور قول ہے کہ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور جب امام رکوع میں ہو تو اس کو اگر اپنے جان پہچان نمازی کی آہٹ معلوم ہو تو اس کے شامل ہونے کے انتظار میں رکوع کو اتنا طویل کر دے کہ وہ نمازی رکوع میں شامل ہو جائے تب رکوع سے سر اٹھائے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، نمازی کی اعانت ہے، بحوالہ بہار شریعت ۱۲۳، جلد ۱۳ ان کے اس فعل سے نمازی ناراض ہیں۔

دوسرے امام کا یہ قول ہے کہ امام صاحب کا یہ قول اور عمل قرآن پاک کی اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔

ترجمہ: کامیاب اور با مراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس آیت شریفہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: کہ صحابہ کرام

جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے، تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے (ہمہ تن نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے) حضرت علیؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا: کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے۔ درمنثور، اور اسی قسم کا مضمون حدیث مبارکہ میں بھی وارد ہوا ہے۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں ہے قرأت اور اذکار مسنونہ کو زائد طول دینا، خواہ قوم راضی ہو یا نہ ہو مکروہ تحریمی ہے، بحوالہ تنویر درمختار و مثلہ، امام کو نماز میں زیادہ دیر تک رہنا مکروہ تحریمی ہے؛ بلکہ امام کو چاہئے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت اور ضرورت وغیرہ کا خیال رکھے، جو سب میں زیادہ صاحب ضرورت ہو اس کی رعایت کر کے قرأت کرنا بہتر ہے؛ تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہو جو قلت جماعت کا سبب ہو جائے۔ (درمختار ۱/۳۹۷، ۸۳۶)

امام صاحب کا یہ قول و فعل جان بوجھ کر قصد نماز سے دھیان ہٹا کر اس آنے والے نمازی کی خاطر سب نمازیوں کو تکلیف دے کر یہ فعل کرنا نماز کو فاسد کرتا ہے، یہ نماز تو غیر اللہ کی ہوگی اللہ کے واسطے کیا ہوئی، یہ قرآن و حدیث اور فقہ کے مسائل کے خلاف ہے پس ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا نماز کو برباد کرنا ہے؟

المستفتی: سرور علی خان، راجپور (پو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں آنے والا شخص امام کی جان پہچان کا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، ان جان ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، اگر زیادہ تاخیر کرتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو بھی مکروہ تحریمی ہوگی؛ اس لئے امام کو ایسا نہیں کرنا چاہئے، بہر حال نماز فاسد نہ ہوگی۔

و کرہ تحریمًا إطالة ركوع، أو قراءة لإدراك الجائي، أي أن عرفه وإلا فلا بأس به، ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقًا؛ لكنه نادر وتسمى مسألة الرياء، فينبغي التحرز عنها. (الدر المختار مع الشلمي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة،

مطلب في إطالة الركوع للجائئ، زكريا ۱۹۸/۲، كوئٹہ ۰۱/۳۴، مصري ۶۲/۴، ہكنا في

فتاویٰ دارالعلوم ۵/۴، امداد الفتاویٰ ۵/۱ (۴۰۵/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

۱۴۰۸/۵/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۱۰/۲۴)

مقتدی کا امام صاحب کے رکوع و سجدہ کے بعد رکوع و سجدہ کرنا

سوال [۲۶۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میں امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا دو رکعت مکمل ہو چکی تھی، امام صاحب قعدہ اولیٰ سے تشهد پڑھ کر اٹھ گئے میں تشهد پڑھتا رہا، اتنے میں امام صاحب نے تیسری رکعت کا رکوع کر لیا میں کھڑا ہوا کہ اتنے میں وہ رکوع سے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اس تاخیر کی وجہ سے نہ تو امام کے ساتھ رکوع کر سکا اور نہ ہی دونوں سجدے؛ بلکہ چوتھی رکعت میں امام کو پالیا تو ایسی صورت میں میری نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: نہال احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں جبکہ آپ نے امام کے بعد

رکوع کر لیا تو آپ کی نماز درست ہوگی؛ البتہ ایسا قصدًا اور جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴/۴۱)

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما جعل الإمام

ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا - وإذا سجد فاسجدوا.

الحديث (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب إقامة الصفوف من تمام الصلاة ۱/۱۰۰،

رقم: ۷۱۳، ف: ۷۲۲)

نعم تكون المتابعة فرضاً بمعنى أن يأتي بالفرض مع إمامه، أو بعده كما لو ركع إمامه، فركع معه مقارناً أو معاقباً وشاركه فيه، أو بعد ما رفع منه، فلو لم يركع أصلاً أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه، أو بعده بطلت صلاته. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام، كراچی ۱/۴۷۱، زکریا ۲/۱۶۶)

الاقتداء عبارة عن المشاركة والمتابعة..... إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يستحب وما يكره في الصلاة، كراچی ۱/۲۱۸، زکریا ۱/۵۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ رجب الثانی ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۳/۳۵)

مقتدی کا امام کی تکبیر مکمل ہونے سے قبل انتقال رکن کرنا

سوال [۲۶۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اکثر مقتدی امام کی تکبیر مکمل ہونے سے پہلے انتقال رکن کر جاتے ہیں، ایسا عمل پہلے ”سلام“ میں بھی ہوتا ہے جب امام صاحب لمبی قرأت کے ساتھ دو سانسوں میں الگ الگ سلام پھیرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی، نیئی تال، اتر اکھنڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اقتداء کا مطلب امام کی اتباع کرنا ہوتا ہے بریں بنا امام کی تکبیر مکمل ہونے سے پہلے مقتدیوں کا انتقال رکن کر جانا مکروہ ہے اور سلام کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک سلام الگ الگ سانس کے ساتھ پھیرے۔

عن أبي هريرة^{رض}، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فركعوا—وإذا سجد فاسجدوا. الحديث (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب إقامة الصفوف من تمام الصلاة ۱/ ۱۰۰، رقم: ۷۱۳، ف: ۷۲۲)

ويكره رفع الرأس ووضعه قبل الإمام. (شامي، كتاب الصلاة، باب ماتفسد الصلاة، مطلب في بيان السنة، كراچی ۱/ ۶۵۴، زكريا ۲/ ۴۲۵)

الاقتداء عبارة عن المشاركة والمتابعة..... إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يستحب وما يكره في الصلاة، كراچی ۱/ ۲۱۸، زكريا ۱/ ۵۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۸۴۶/۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۵/۱/۱۴۳۱ھ

امام صاحب کا اوپر کی منزل پر نماز پڑھانا

سوال [۲۶۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں ہمیشہ امام صاحب نیچے نماز پڑھاتے تھے؛ لیکن اب جگہ کی کمی کی وجہ سے اوپر دوسری منزل پر نماز پڑھانے چلے گئے ہیں؛ لہذا باقی آدمی جو اس وقت ہوتے ہیں یا جو دیر سے آتے ہیں وہ نیچے ہی نماز پڑھتے ہیں اوپر جگہ نہ ہونے کی صورت میں؛ لہذا نیچے والوں کی نماز جائز ہوتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: سید حسین پھانگ بازار مراد آباد (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام سے آگے نہ ہوں تو سب کی نماز صحیح

ہو جائیگی؛ لیکن امام کے اوپر دوسری منزل پر ہونے کی وجہ سے سب کی نماز مکروہ ہوگی۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱/۲۸۸)

ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد، ويلزمه كراهة الصلوة أيضا فرفقه. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها مطلب في أحكام المسجد، زكريا ۲/۴۲۸، كراچی ۱/۶۵۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲/رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۹۵۸/۲۶)

مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کے لئے سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۶۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام پر قعدہ اولیٰ چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب تھا، امام نے قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کے لئے سلام پھیرا، اب بتلائیے کہ اگر کوئی شخص مسبوق ہو تو کیا وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنے کے لئے سلام پھیرے گا یا صرف سجدہ سہو میں شریک ہوگا، اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنے کے لئے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟
المستفتی: معین الدین، گڈاوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسبوق صرف سجدہ سہو میں امام کی اتباع کرے گا سلام میں نہیں؛ لہذا اگر مسبوق نے جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی، اعادہ لازم ہوگا اور اگر بھولے سے سلام پھیرا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲/۱۲۲، ۱۸۶/۷، جدید ڈائجیل ۶/۵۵۶)

ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام..... لأن هذا

السلام للخروج عن الصلاة، وقد بقي عليه أركان الصلاة، فإذا سلم مع الإمام فإن كان ذاكراً لما عليه من القضاء فسدت صلاته، لأنه سلام عمد وإن لم يكن ذاكراً له لا تفسد، لأنه سلام سهو فلم يخرج عن الصلاة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو، زكريا ۱/۲۲۲، قديم كراچی ۱/۱۷۶)

والمسبوق يسجد مع إمامه قيد بالسجود، لأنه لا يتابعه في السلام؛ بل يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء، فإن سلم فإن كان عامداً فسدت وإلا لا. (فتاوى شامی، كتاب الصلاة، باب سجود السهو كراچی ۲/۸۲، زكريا ۲/۴۶۵، البحر الرائق، زكريا، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ديوبند ۲/۱۷۶، كوئٹہ) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳ھ/۷/۲۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷/رجب المرجب ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۸۷۷۷)

امام کے سلام ثانی سے قبل مقتدی کا نماز مکمل کر لینا

سوال [۲۶۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر مقتدی قصداً امام کے سلام ثانی میں اقتداء نہ کرے؛ بلکہ پہلے فارغ ہو جائے یا امام کی لمبی سانس ہونے کی وجہ سے مقتدی پہلے فارغ ہو جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی بعد میں پھر اس عبارت کے دیکھنے کی ضرورت پڑتی، تو وہ کتاب نہیں ملی جس میں یہ مسئلہ دیکھا تھا اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: عبدالصمد، مدرسہ فیض العلوم بلرام گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں مقتدی کی نماز فاسد نہ ہوگی؛

بلکہ مکروہ تحریمی ہوگی ہے؛ لیکن اگر مقتدی نے امام سے قبل سلام کی ابتداء نہیں کی ہے تو مقتدی کی نماز مکروہ بھی نہ ہوگی؛ بلکہ بلا کراہت درست ہو جائے گی۔

عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته. (سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۸، رقم: ۱۴۰۷)

وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه الخ (مراقبي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في صفة الأذكار، دارالكتاب ديوبند جديد ۳۱۱، قديم ۱۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۲/۱۴۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ صفر المظفر ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۶۸۸)

مقتدی امام سے قبل سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۶۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید مدرک ہے اور اپنے امام سے پہلے سلام پھیر دیتا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا مکروہ اور مکروہ ہونے کی صورت میں واجب الاعادہ ہے یا نہیں؟
المستفتی: فرید الدین، امر وہوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بغیر عذر کے مذکورہ مقتدی نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا ہے تو اس کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ مکمل ہوگی کراہت کی وجہ سے نماز میں کمی آئی ہے، مگر اعادہ ضروری نہیں۔

عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته. (سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۸، رقم: ۱۴۰۷)

لو أتم المؤتمر التشهد، بأن أسرع فيه وفرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى بما يخرج من الصلاة كسلام وكلام، أو قيام جاز: أي صحت صلاته بحصوله بعد تمام الأركان، وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۲/۲۴۰، كراچی ۱/۵۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۲/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۵۲۷۳۶)

بحالت مجبوری قعدہ اخیرہ میں صرف تشهد اور رکوع و سجود میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا

سوال [۲۶۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اضطراری حالت میں مثلاً بارش ہو رہی ہو، گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ ہو یا جماعت کھڑی ہو اختصار کے طور پر رکوع اور سجود کی صرف ایک تسبیح قعدہ اخیرہ میں صرف تشهد پڑھ کر سلام پھیر دینے سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: شیخ احمد، عظمیٰ، بحرین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رکوع و سجود میں تسبیح سنت ہے اور اسی طرح تشهد کے بعد درود شریف بھی سنت ہے اور ترک سنت مفسد صلوٰۃ نہیں ہے؛ اس لئے نماز صحیح ہو جائے گی؛ البتہ یہ ترک صرف مکروہ ہوا کرتا ہے۔

وسننہا: ترک السنۃ لایوجب فسادا ولا سهوا؛ بل إساءة لو عامدا غیر مستخف (تحتہ فی الشامیۃ) فلو غیر عامدا فلا إساءة أيضا. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قبیل مطلب: فی قولہم الإساءة دون الكراهة، زکریا ۱۷۰/۲، کراچی ۱/۷۴، حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی بیان سننہا، دارالکتاب دیوبند جدید ۲۵۶، الموسوعة الفقهیۃ الكويتیۃ ۲۷/۶۲)

ثم تسبیحات الرکوع، والسجود سنة الخ (هدایۃ، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، اشرفی ۱/۱۱۰)

وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو لیس بفریضة عندنا الخ (هدایۃ، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، اشرفی ۱/۱۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۵/ذی الحجۃ ۱۴۱۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۹۱۶)

چھلی صف میں تنہا نماز پڑھنا

سوال [۲۶۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جماعت کی نماز میں اگر ایک شخص اکیلا نماز پڑھے اور اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر نہ لائے تو تنہا نماز نہیں ہوگی، اعادہ واجب ہے یہاں کسی سے ایسا ہو گیا تھا تو انہوں نے اعادہ کروایا تھا؟

المستفتی: ماسٹر سکندر علی رحمت گنج پٹنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگلی صف میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص چھلی صف میں تنہا نماز پڑھے تو اس کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی؛

البتہ اگر اگلی صف میں کوئی ایسا آدمی جو اس مسئلہ کے متعلق معلومات رکھتا ہو اور اس کو کھینچنے سے اس کی نماز فاسد ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھنا بہتر اور اولیٰ ہے؛ لہذا سوال نامہ میں جو واقعہ پیش کیا گیا ہے سب کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز لوٹائی گئی ہے یہ غلط ہوا ہے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔

عن عطاء: في الرجل يدخل المسجد وقدم تم الصف، قال: إن استطاع أن يدخل في الصف دخل، وإلا أخذ بيد رجل فأقامه ولم يقم وحده.
(المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسہ علوم القرآن ۴/۳۲۶، رقم: ۲۰۲، ۲۰۶، قديم رقم: ۴۶۱)

أتى جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر وقيل: يجذب واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع، فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف، ثم قال في القنية: والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام، فإذا جرّه تفسد صلاته. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما تفسد الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، كراچی ۲/۶۴۷، زكريا ۲/۱۶، عالمگیری، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره ۱/۱۰۷، تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في ما يكره في الصلاة، وما لا يكره ۱/۵۶۹، جديد زكريا ۲/۲۱۲، رقم: ۲۱۹۶، عزيز الفتاوى ۱/۱۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۴/۲/۱۴۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴/۲/۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۹۵۰۳۶)

ایک سانس میں دونوں طرف سلام پھیرنا

سوال [۲۶۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک سانس میں دونوں طرف پھیرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، سنت

یا استقباب کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو دائیں طرف سلام پھیر کر کتنے وقفہ کے بعد بائیں جانب سلام پھیرنا چاہئے؟

المستفتی: محمد احمد قاسمی بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک سانس میں دونوں سلام پھیرنا مسنون یا مستحب نہیں ہے؛ بلکہ مسنون و مستحب یہی ہے کہ ہر ایک سلام الگ الگ دو سانسوں میں پھر جائے۔
قال في مجمع البحار هو تخفيفه وترك الإطالة فيه لحديث التكبير جزم والسلام جزم، فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خففه وحذفه، انتهى (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب حذف السلام، مطبع ميرٹھ قديم ۱۳۴/۲، جديد، دار البشائر الإسلامية ۵۸۱/۴)

وروي عن إبراهيم النخعي قال: التكبير جزم والسلام جزم.
(ترمذي شريف، كتاب الصلاة، باب ماجاء أن حذف السلام سنة ۱/۶۶)
وقال البنوري: الجزم في اللغة انقطع. (معارف السنن، اشرفي بکڈپو ديوبند ۱۱۶/۳)

اور دونوں سلاموں کے درمیان وقفہ صرف اتنا کافی ہے کہ دائیں جانب سلام مکمل ہو جانے کے بعد چہرہ بائیں جانب سلام پھیرنے کے لئے دائیں جانب سے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں جتنی دیر لگے، اتنا ہی وقفہ کافی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ

۲۲/۲/۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۷۸/۳۸)

نماز یا غیر نماز میں کتے کی طرح بیٹھنا

سوال [۲۶۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: (۱) کہ نماز کی حالت میں کتے کی طرح نہ بیٹھنا چاہئے کیا غیر نماز میں اس کی اجازت ہے؟

(۲) کیا سرین کوزمین پر ٹیکنا اور ساقین کو کھڑا کر لینا اور دونوں ہاتھوں سے ساقین کو گھیر لینا یہ بیٹھک بھی کتے کی بیٹھک میں شمار ہوگی؟ اگر کتے کی بیٹھک میں شمار نہ ہوگی تو بھی اس کے حکم سے آگاہ فرمائیں؟

المستفتی: شمس الحق، موسیٰ پور سنبھل مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) غیر نماز میں اگر اس طرح بیٹھنا عرف میں

برائیس سمجھا جاتا ہے تو مباح ہے اور اگر عرف میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو ممنوع ہوگا۔

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (رسم المفتی ۹۵)

(۲) اس طرح بیٹھنے سے بھی نماز میں ممانعت کی گئی ہے۔

عن أبي هريرة ^{رض} يقول: أو صاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث.....

نہانی عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء القرد، ونقر كنقر الديك. (مسند احمد

بن حنبل ۲/۲۶۵، رقم: ۷۵۸۵)

والإقعاء أن يضع اليتية على الأرض وينصب ركبتيه نصباً الخ (هندية،

الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره، قديم زكريا ۱/۱۰۶، جديد ۱/۱۶۵)

ويكره..... أن يقعي إقعاء الكلب، وتفسيره أن يضع يديه على الأرض

وينصب فخذيته، وفي الهداية: والإقعاء أن يضع اليتية على الأرض وينصب

ركبتيه نصباً وهو الصحيح. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان

ما يكره وما لا يكره جديد زكريا ۲/۲۰۰-۲۰۱، رقم: ۲۱۴۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۳/۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹۰۹/۳۱)

مانک پر نماز پڑھانا کیسا ہے؟

سوال [۲۶۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مانک پر نماز پڑھانا کیسا ہے، اگر بغیر مانک کے سارے نمازیوں کو آواز پہنچ جائے پھر بھی مانک استعمال کیا جاتا ہے؛ تاکہ مکمل سورہ پڑھنے کی آواز سب کو پہنچ جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد فضل اللہ، لالباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مانک میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نیت سے مانک استعمال کرنا کہ سب نمازیوں کو آواز صاف پہنچ جائے اور مقتدی قرأت سننے کی وجہ سے نشاط میں رہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ (مستفاد: جوہر الفقہ ۹۹/۵، فتاویٰ عثمانی ۵۵۴/۱، امداد الفتاویٰ ۸۴۰/۱)

والجہر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر، فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ۵۷۰/۹، كراچی ۳۹۸/۶)

بأنه صرح في السراج بين الإمام إذا جهر فوق الحاجة، فقد أساء والإساءة دون الكراهة ولا توجب الفساد. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، كراچی ۵۸۹/۱، زكريا ۳۳۷/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۴۵۵)

لاؤڈ اسپیکر پر فرض پنچ گانہ کی ادائے گی کا حکم

سوال [۲۶۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جن مساجد میں تین چار صفوں کی جماعت ہوتی ہے اور ہر صف میں پندرہ بیس سے زیادہ مقتدی نہ ہوتے ہوں، ان میں سری نمازوں میں لائوڈ اسپیکر پر نماز پڑھانا ضروری ہے؟ جبکہ امام صاحب کی آواز تیز ہے پست نہیں ہے، صرف تکبیرات کے لئے لائوڈ اسپیکر ضروری نہیں ہے۔

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: لائوڈ اسپیکر پر فرض نماز جائز ہے؛ البتہ ضرورت کے بغیر لائوڈ اسپیکر استعمال نہ کرے تو بہتر ہے، مگر پھر بھی نماز بلا کراہت درست ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶۰۴/۱، جواہر الفقہ ۱۰۹/۵)

والجہر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعددي فائدتہ إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر، فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط. (شامی، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ۵۷۰/۹، كراچی ۳۹۸/۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۶/۱۵ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۰۶/۳۹)

لاؤڈ اسپیکر پر نماز

سوال [۲۶۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ سے لے کر ۲۶ تاریخ تک تراویح کی نماز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھنے میں ذرہ برابر کسی قسم کی دقت نہیں ہوئی؛ لیکن ۲۷ تاریخ کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر فرض و تراویح اور وتر کی نماز پڑھی گئی، مقتدیوں کے علاوہ بستی کے آس پاس رہنے والی عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں ان لوگوں کو پوری طرح دقت اور خلل پیدا ہوا اور جو مسلمان مسجد کے باہر تھے تراویح میں شامل نہیں تھے، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر میں کلام پاک پڑھتے وقت دھیان نہیں دیا تو کیا یہ گنہگار نہیں ہوں گے، یہ فعل شریعت کی رو سے جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: امان اللہ، ۲۴ پرگنوی، معلم مدرسہ حیات العلوم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ۲۷ ستمبر یا ۲۸ ستمبر میں عام راتوں سے زیادہ نمازی جمع ہو جائیں اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آواز سنائی نہیں دیتی ہے تو یہ ایک ضرورت کے تحت داخل ہوگا اور جائز ہوگا اور اگر خاص کر کے اس رات میں نمائش کی جاتی ہے اور نمازیوں میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہے تو مکروہ تحریمی ہوگا۔

والجہر أفضل في غير ذلك، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۳/۲۵۷، شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ۹/۵۷۰، كراچی ۶/۳۹۸)

وإذا جهر الإمام فوق حاجة الناس فقد أساء؛ لأن الإمام إنما يجهر لإسماع القوم ليذبوا في قرأته ليحصل إحصار القلب. (فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة باب الإمامة، زكريا قديم ۱/۷۲، زكريا جديد ۱/۱۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۲/۲۱

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱/صفر/المظفر ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۸/۲۹)

کثیر مجمع میں مانگ سے نماز پڑھانا

سوال [۲۶۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کثیر مجمع میں مانگ میں نماز پڑھانے کے متعلق تفصیلی احکامات بیان فرمائیں؟
المستفتی: محمد ظہیر الحق، افضل گڑھ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کثیر مجمع میں مانگ میں نماز پڑھانا بلا کراہت

جائز ہے اور درست ہے۔ (مستفاد: جوہر الفقہ ۱۱۹/۵)

والجہر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدية فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر، فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زکریا ۹/۳۷۰، کراچی ۶/۳۹۸، الموسوعة الفقهية الكويتية) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ شوال المکرم ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۴۷۰/۳۳)

نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا

سوال [۲۶۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید عالم ہے مسجد میں خطیب و امام ہے نماز فرائض پنج گانہ و عیدین میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتا ہے، اگر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ کرے اور مکبر حضرات تکبیر کہیں تو ہجوم کثیر ہونے کی وجہ سے اور دو منزلہ یا سہ منزلہ مسجد ہونے کی وجہ سے دو والے نمازیوں کو اور بالائی منزل والے نمازیوں کو امام کی آواز نہیں پہنچتی اور بہت سے نمازیوں کی نماز صحیح ادا نہیں ہو پاتی کیوں کہ کچھ قیام میں بعض رکوع میں اور بعض سجدے میں ہوتے ہیں؛

لہذا ضرورت و احتیاجاً لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے، زید کا دلیل کے طور پر کہنا ہے کہ مکبر اس کی اصل ہے جو شریعت کے اصول کے مطابق ہے اور عدم جواز استعمال لاؤڈ اسپیکر شرع سے ثابت نہیں ہے، زید دوسری دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ مانک کے ذریعہ جو آواز ہارن تک پہنچ کر مصلیان کو مسموع ہوتی ہے اس میں سرمو انفصال نہیں ہے اور وہ آواز بعینہ بغیر انفصال امام کی آواز ہے؛ لہذا مانع نماز کوئی چیز اس میں نہیں ہے، عمر و بھی عالم ہے اس کا کہنا ہے کہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نمازیوں تک آواز پہنچانے کے لئے شرعاً ممنوع ہے اور ہارن سے سنی ہوئی آواز پر نمازیوں کا عمل مفسد نماز ہے، یعنی ان کی نماز نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ لاؤڈ اسپیکر کا واسطہ خارج نماز ہے، جو فساد نماز کا موجب ہے، دوسرے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال آواز کو دور تک پہنچانے کے لئے جبکہ وہ شئی خارج نماز ہے اور معاون رفع صوت امام ہے اور بغیر امام کی آواز نہیں کہہ سکتے کہ قدرے امام کی آواز اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز فصل و انفصال کی حامل ہے جو فساد نماز کے لئے کافی ہے، دور والے نمازیوں کو بعینہ بغیر انفصال امام کی آواز مسموع نہیں ہوتی۔

تیسرے لاؤڈ اسپیکر کی آواز آواز بازگشت کی طرح ہے کہ بولنے والا خاموش ہو، مگر آواز کی گنجان باقی رہتی ہے، آواز بازگشت الگ ایک آواز ہوتی ہے۔

چوتھے لاؤڈ اسپیکر کے ایمپلی فائر کے اندر ایک پرزہ ہوتا ہے جب اس کا استعمال ہوتا ہے، تو آواز میں تکرار سنائی دیتی ہے، جس سے متکلم یا امام کی آواز میں سامع کو صاف طور پر انفصال معلوم ہوتا ہے اور شریعت کے حکم کے مطابق غیر نمازی کا نمازی کی اصلاح کے لئے فعل جبکہ نماز میں عمل کرے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کا حال بھی ایسا ہی ہے؛ لہذا اس کا استعمال نماز کے لئے ممنوع اور موجب فساد نماز ہے، دریافت یہ کرنا ہے کہ زید و عمر و میں کس کا قول شریعت کے مطابق ہے، مزید اگر زید کی بات صحیح ہے تو کیا چھوٹی مساجد میں جہاں امام کی آواز کافی ہوتی ہے، وہاں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال درست ہوگا یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال میں ذکر کردہ زید و عمر کے درمیان بحث کا

خلاصہ یہ ہے کہ زید لاؤڈ اسپیکر کی آواز عین آواز منکلم اور عمر واس کو غیر آواز منکلم ثابت کرنا چاہتا ہے؛ لہذا اس سلسلہ میں علماء کرام اور سائنسدانوں کی کافی تحقیق و جستجو کے بعد اب یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعینہ منکلم کی آواز ہے جو لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے یہ آواز آواز باگشت نہیں؛ لہذا اس کو نماز میں استعمال کرنے سے کسی کی نماز فاسد نہ ہوگی نہ امام کی اور نہ ہی مقتدیوں کی جب نماز میں اس کا استعمال مضر نہیں تو جمعہ و عیدین میں بھی اس کا استعمال مضر نہ ہوگا؛ البتہ بلا ضرورت اس کا استعمال کرنا بہتر نہیں ہے اور عمر و کا عدم جواز پر اصرار اور اپنے اصرار پر جو دلیل پیش کی ہے وہ عدم تحقیق کی بناء پر ہے۔

(مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۸۴۶)

والجہر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدّي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذّاكر، فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط. (شامی، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ۹/۵۷۰، كراچی ۶/۳۹۸)

والجہر أفضل في غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكبر، ولأنه يتعدّي نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۶/۹۲۱)

وإذا جهر الإمام فوق حاجة الناس فقد أساء؛ لأن الإمام إنما يجهر لإسماع القوم ليذبوا في قرآنه، ليحصل إحضار القلب. (هندية، كتاب الصلاة، باب الإمامة، زكريا قديم ۱/۷۲، زكريا جديد ۱/۱۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۶۰۰۵)

نماز میں سر پر ٹوپی رکھنا مسنون ہے یا مستحب

سوال [۲۷۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا اعتراض ٹوپی پر ہے اس کا کہنا ہے کہ نماز میں ٹوپی سر پر رکھنا سنت نہیں ہے؛ بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ مستحب کہہ سکتے ہیں، حضور اکرم ﷺ کی کسی حدیث یا قرآن یا کسی آیت سے اس کا ثبوت نہیں، پس دریافت طلب امر یہ ہے کہ ٹوپی نماز میں سر پر رکھنا سنت ہے یا کسی بھی طرح سے سر کا ڈھانپنا سنت ہے وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: وفاء الرحمن، دڑھیال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹوپی پہننا اسلامی شعار اور مسلمانوں کا مہذب لباس ہے، صحیح حدیث پاک میں حضور ﷺ سے عام حالات میں سر پر ٹوپی رکھنے کا ثبوت ہے اور صحابہ کرام ﷺ کے سروں پر ایسی ٹوپی ہوا کرتی تھی جو سر سے چپکی رہتی تھی، تو جب عام حالات میں ٹوپی پہننا مسلمانوں کا لباس اور شعار رہا ہے، تو نماز کی حالت میں ٹوپی اتار دینا کہاں سے ثابت ہوگا۔

عن ابن عمرؓ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلبس

قلنسوة بيضاء. (المعجم الكبير للطبراني ۱۳/۲۰۴، رقم: ۱۳۹۲)

أخرج البيهقي عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر: أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم، كان يلبس قلنسوة بيضاء. (شعب الإيمان للبيهقي ۵/۱۷۵،

رقم: ۶۲۵۸، كذا في مجمع الزوائد، باب في القلنسوة ۱۲۱/۵ بيروت، المعجم الأوسط

رقم: ۳۴۲/۴، رقم: ۶۱۸۳، ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في العمائم ۲/۵۶۴، دار السلام

رقم: ۹۴۸، مسند أحمد ۱/۲۳، رقم: ۱۵۰، ترمذي، ابواب اللباس، باب بلا ترجمة

۳۰۸/۱، دار السلام رقم: ۱۶۴۴، كنز العمال ۷/۴۶، رقم: ۱۸۲۸۲)

أخرج الترمذي عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال: سمعت
أبا كبشة الأنماري يقول: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم، بطحا قال المحشي: أي مبسوطة لازقة برؤسهم غير مرتفعة عنها
الخ (ترمذي مع هامشه، ابواب اللباس بلا ترجمه ۱/ ۳۰۸، دارالسلام رقم: ۱۷۸۲)

كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا: أي
لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء، الكمام جمع كمة وهي الفلنسة.
(النهاية في غريب الحديث والأثر دار الكتب العلمية ۱/ ۱۳۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۸۱/۳۸)

ننگے سر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ اگر زید نماز پڑھنے آیا اور وہ ٹوپی لانا بھول گیا یا جان بوجھ کر نہیں لایا تو اس
کی نماز کیسی ہوگی؟

المستفتی: محمد عمیم لکھنؤ پوری، مدرسہ اسلامیہ، کراہ بدایوں (پوٹی)
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بلا ٹوپی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، نماز بہر حال

صحیح ہو جائے گی۔

ویکرہ الصلاة حاسرا رأسه تکاسلا أو تھا ونا. (الفتاویٰ التاتار خانیة،
کتاب الصلاة، الفصل الرابع ما یکرہ للمصلي وما لا یکرہ، زکریا ۲/ ۲۰۲، رقم: ۲۱۴۷،
المحیط البرہانی، کتاب الصلاة، الفصل الرابع ما یکرہ في الصلاة، وما لا یکرہ، المجلس
العلمی جدید ۲/ ۱۳۹، رقم: ۱۴۱۹)

و کره للمصلي حسر رأسه: أي كشفه لما في ذلك من ترك

الوقار. (شرح النقاية، كتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، اعزازيه

ديوبند ۱/۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۳/۶ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۲۰۳۷۷)

بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا

سوال [۲۷۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ نماز میں سر پر ٹوپی پہننے کا کیا حکم ہے، کیا بغیر کے ٹوپی نماز ہو سکتی ہے؟

المستفتی: مہربان علی بڑوٹوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بغیر ٹوپی کے نماز ادا ہو جاتی ہے؛ لیکن بلا عذر بغیر

ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

و کره صلواته حاسراً أي كاشف الرأس للتكاسل الخ (الدر المختار،

كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، زكريا ۲/۴۰۷، كراچی ۱/۶۴۱،

کوئٹہ ۱/۴۷۴)

وحاسراً الرأس: أي كاشفاً إياه، وهذا إذا كان للتكاسل، وقلة

رعيتها. (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، دار الكتب

العلمية بيروت ۱/۱۸۷)

وصلاته حاسراً رأسه للتكاسل، أو للتهاون بها، ليس المراد

بالتهاون الإهانة بالصلاة، فإنها كفر؛ بل المراد قلة رعيتها ومحافظة

حدودها. (شرح وقايه، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها،

اشرفی (۱/۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۱۲۸۹)

مستقل بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا

سوال [۲۷۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بغیر ٹوپی کے مستقل نماز پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتی: مطلوب احمد متولی تھانہ والی مسجد سیوہارہ، بجنور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہمیشہ مستقل طور پر بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں؛ بلکہ کثیر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سروں پر ٹوپی رہا کرتی تھی، تو نماز کے وقت ٹوپی اتار کر نماز پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں؛ بلکہ حضرات فقہاء کی عبارات سے اور احادیث شریفہ کی تائیدات سے ٹوپی پہن کی نماز پڑھنا مسنون و مستحب ثابت ہوتا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور ﷺ کے اصحاب کی ٹوپیاں سر سے چمکی ہوئی ہوتی تھیں اور بعض روایت میں آیا ہے کہ صحابہ کے سروں پر ٹوپوں کے اوپر عمامہ ہوا کرتا تھا، بعض روایات میں مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان عمامہ کا فرق اتنا ہے کہ مشرکین بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں، مسلمان ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں، ہاں البتہ حالت احرام میں ٹوپی کی ممانعت ہے، ننگے سر رہنے کا حکم ہے اسی طرح صلاۃ استنقاء میں ننگے سر ہو کر تذلل کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، جس میں بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔

و کرہ صلوتہ حاسراً: أي كأشفا رأسه للتكاسل، ولا بأس به للتذلل،

واما للإهانة فكفر. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها، زکریا
۴۰۷/۲، کراچی ۱/۶۴۱، کوئٹہ ۱/۴۷۴)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله! ما يلبس
المحرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلبس القميص
ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس. (صحيح البخاري، باب لبس الخفين
للمحرم إذا لم يجد النعلين ۱/۲۰۹، رقم: ۱۵۱۹، ف: ۱۸۴۲)

وتكره الصلاة، حاسراً رأسه إذا كان يجد العمامة وقد فعل ذلك
تكاسلاً، أوتهاوناً بالصلاة، ولا بأس به إذا فعله تذلاً وخشوعاً؛ بل هو حسن.
(هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره، زکریا قدیم
۱۰۶/۱، زکریا جدید ۱/۱۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۲/۲۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ صفر لمظفر ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۸۹/۳۹)

ٹوپی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

سوال [۲۷۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ ما یقول العلماء العظام "دامت فیوضہم" اعرض الأدلة
المفصلة في ضوء الكتاب والسنة، لنسلك طريق السنة النبوية، ونرجوا
أن تجیبونا بجواب واضح وتمسکوا بأیدینا إلى معالم الطريق.

المستفتی: محمد عمیر قاسمی، ہاپوڑ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: إن رسولنا الکریم صلی اللہ علیہ وسلم

یلبس القنسوة عادة، بالإضافة إلى ذلك قدورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مع القنسوة فاتضح أن أداء الصلاة مع القنسوة سنة، والأحاديث فيما يلي: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فوجدتهم يصلون في البرانس والأكيسة وأيديهم فيها. (المعجم الكبير ۱۸/۳۲۶، رقم: ۸۶۱، مجمع الزوائد ۵۱/۲) قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقنسوة ويدها في كفه.

(صحيح البخاري ۵۶/۱، تحت الترجمة كتاب الصلاة باب ۲۳)

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس كمة بيضاء. (المعجم الأوسط ۴/۳۴۲، رقم: ۶۱۸۳، مجمع الزوائد ۵/۱۲۱)

عن أبي هريرة قال: رأيت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قنسوة بيضاء شامية. (شمس الأفاق لابن العلان المكي ۱۱۸، انظر جامع الأحاديث ۵۵۸/۶، رقم: ۱۶۸۱۳)

عن ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس الحديث. (شمس الأفاق ۱۸۸، انظر جامع الأحاديث ۵۵۸/۶، رقم: ۱۶۸۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۶/۳۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الثانیہ ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: رجسٹر خاص)

مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپوں کا استعمال کرنا

سوال [۲۷۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بہت سی مساجد میں مصلیوں کے لئے ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، ایک شخص کہتا ہے ان ٹوپوں کو رکھنا حرام ہے استعمال میں لانا بھی حرام؛ جبکہ مذکورہ شخص لیڈرز ٹیلر ہے، شب و روز

واہیات میں مصروف رہتا ہے، گھر میں ٹی وی، وی سی آر، دوکان میں ٹیپ ریکارڈ بجاتا ہے، ٹوپی کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرما کر وضاحت فرمادیں کہ آیا ایسے شخص کو امام بنانا درست ہے یا جمعہ کے دن خطبہ سے قبل وعظ و نصیحت کر سکتا ہے؛ جبکہ نصف مصلیان اس سے ناراض ہیں؟

المستفتی: انوار الحق، صدیقی، جامع مسجد، سیکر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجدوں میں جو چٹائی کی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں، ان کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے؛ اس لئے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہوتی ہے اور اس میں ایسا لباس پہن کر حاضر ہونا ممنوع ہے جس کو پہن کر معزز اور باعظمت مجلس اور تقریب میں شرکت کو ناگوار سمجھا جاتا ہو۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۳۳)

قال اللہ تعالیٰ: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . [الأعراف: ۳۱]

وتكره الصلاة، في ثياب البذلة الظاهر أن الكراهة للتنزيه.

(حاشیة الطحطاوي علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی المکروہات، دار الکتب دیوبند جدید ۳۵۹)

و كذلك يكره الصلاة في ثياب البذلة، وروى: أن عمر رضي الله عنه، رأى رجلاً فعل ذلك، فقال: أ رأيت لو كنت أرسلتک إلى بعض الناس أ كنت ثمه في ثيابك هذه؟ فقال: لا، فقال عمر رضي الله عنه الله أحق أن يتزين له.

(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما يكره في الصلاة، وما لا يكره، المجلس العلمي جدید ۱۳۹/۲، رقم: ۱۴۲۰)

اور ٹی وی، وی سی آر فلمی امور کا جو شوقین ہے وہ فاسق ہے اس کے پیچھے نماز

مکروہ ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵/۳/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۹۱۱/۳۱)

چٹائی، پلاسٹک اور بینت کی ٹوپی میں نماز

سوال [۲۷۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل جو رواج ہے کہ مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی یا کھجور والی ٹوپی رکھوا دیتے ہیں، اسی طرح ایک ٹوپی بینت کی آرہی ہے جالی دار کیا ان ٹوپوں کو اوڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی خرابی تو نماز میں نہیں آئیگی؟

المستفتی: قاری زبیر عالم، پیرزادہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نمازی بحالت نماز اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے لباس میں حاضر ہونا ممنوع ہے، جس لباس کو پہن کر معزز مجمع یا مجلس میں حاضر ہونے میں ناگواری ہوتی ہو اور چٹائی کی ٹوپی پہن کر معزز مجمع اور تقریب میں جانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے؛ اس لئے ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۴۲۵/۱، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۷۲۶/۱، جدید ڈائجیل ۱۹۱/۱۵، ایضاح المسائل ۱۳۴، احسن الفتاویٰ ۳/۴۳۷)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . [الأعراف: ۳۱]

وفي ثياب البدلة وهي ما يلبس في البيت ولا يذهب به إلى الكبراء. (شرح

الوقايه، كتاب الصلاة، باب ماتفسد وما يكره فيها، قبيل باب الوتر، والنوافل، اشرفي ۱/ ۱۶۹)

وكرهت الصلاة في ثياب البدلة..... ما يلبس في البيت ولا يذهب به إلى

الكبراء. (شرح النقاية، كتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، اعزازية ديوبند ۱/ ۹۵)

وتكره الصلاة في ثياب البدلة..... ثوب لا يصبان عن الدنس ممتهن

وقيل ما لا يذهب إلى الكبراء. (مراقی الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات،

دارالكتاب ديوبند ۳۵۹، قدیم ۱۹۷)

نیز پلاسٹک کی ٹوپی سے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، ہاں البتہ بیبت کی ٹوپی پہن کر معزز مجمع میں جانے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے؛ اس لئے اس میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۲/۱۴۱۷ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۹۳/۳۲)

رومال سر پر باندھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں رومال ہے، جس کو بوقت ضرورت سر سے باندھ کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور مصلے کی جگہ بچھا بھی لیتے ہیں اور ہم اس رومال سے وضو کر کے اپنے اعضاء پوچھ لیتے ہیں، تو اس کپڑے کو سر سے باندھ کر نماز پڑھ لیں، تو نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: سلامت اللہ، سلطان پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس رومال سے وضو کے اعضاء پوچھتے ہیں اس کو سر پر باندھ کر نماز پڑھنا اور اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھنا سب جائز ہے؛ اس لئے کہ شرعاً وہ رومال پاک ہے۔

أن الخرقۃ التي يتمسح بها، تجوز الصلاة معها، وإن كان ما أصابها من البلل كثيراً فاحشاً الخ (البحر الرائق ۱/۹۳، کتاب الطہارۃ، زکریا ۱/۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۸۲/۲۹)

بغیر ٹوپی کے یا چٹائی وغیرہ کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ مسجد کے اندر پہلے سے ہی پلاسٹک یا کپڑے کی ٹوپی رکھی ہوں، اگر وہ ٹوپیاں گندی ہوں تو اس صورت میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد آصف لال مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہر مسلمان کے پاس نماز کے لئے اپنی ٹوپی ہونی چاہئے، نماز میں ایسے لباس سے شریک ہونا چاہئے کہ جس لباس سے معزز مجلس میں حاضر ہونا باعث عزت سمجھا جاتا ہے، اور ایسے لباس کے ساتھ نماز میں شریک ہونا مکروہ ہے، جس کے ساتھ معزز مجلس میں شرکت کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے؛ لہذا چٹائی وغیرہ کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے؛ اس لئے کہ ایسی ٹوپی پہن کر کسی معزز مجلس میں شرکت کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے؛ بلکہ کپڑے کی صاف ستھری ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہئے۔

وقال الشامیة: في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأکابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها، قبیل مطلب فی الخشوع، کراچی ۱/۶۴۱، زکریا ۲/۴۰۷)

وتكره الصلاة، حاسرا رأسه تذلا، وكذا في ثياب البدلة.

(هندیة، کتاب الصلاة، فصل فی العوارض، اشرفیة ۲/۴۴۷)

ومنها أن يصلي في ثياب البدلة والمهنة، واحتج له في الذخيرة، بأنه روي عن عمر رضي الله عنه، أنه رأى رجلا فعل ذلك، فقال: أرايتك لو كنت أرسلتک إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه، فقال لا: فقال

عمر اللہ أحق أن يتزين له..... والظاهر أنها تنزيهية. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، كونه ۳۳/۲، زكريا ۵۷/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۷/۱۴۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴/رجب المرجب ۱۴۲۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۰۶۲/۳۸)

چٹائی کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں جو چٹائی کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، ان کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
المستفتی: سعید الرحمن، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے؛ اس لئے نماز میں ایسے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہئے جن کو پہن کر باوقار معزز مجلس میں جانے میں عار محسوس نہ ہو، چٹائی کی ٹوپی پہن کر باوقار معزز مجلس میں جانے میں عار محسوس ہوتی ہے؛ اس لئے چٹائی کی ٹوپی پہن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
(مستفاد: ایضاح المسائل ۱۳۳، احسن الفتاویٰ ۳/۳۷۷)

ویکرہ الصلاة في ثياب البذلة. (فتاویٰ تاتارخانیة ۲/۲۰، رقم: ۲۱، ۴۸)

كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما يكره للمصلي ولا يكره

و كره صلاته في ثياب بذلة ومهنة (تحتہ) و فسرہا بما یلبسہ فی بیتہ
ولا یذهب بہ إلى الأکابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية. (شامی، كتاب الصلاة،

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب في الخشوع، زكريا ۵۷/۲، ۴۰۷، كراچی ۱/۶۴۰،

حلی کبیر، كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة ۳۴۹، مكتبه سهیل اکیڈمی لاہور)

والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئته للصلاة لأن الصلاة مناجاة للرب، فيستحب لها تزيين. (تفسير خازن، سورة الأعراف ۲/۸۳، أحكام القرآن للجصاص ۳۳/۳، أحكام القرآن، دارالفكر العلمية سورة الأعراف ۴/۱۲۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۲۸/۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۶/۱۴۲۹ھ

داڑھی و رخسار چھپا کر نماز پڑھانا

سوال [۲۷۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ زید مسجد کا امام ہے حالت نماز میں اپنے چہرہ پر رومال اس طرح ڈالتا ہے کہ اس کی داڑھی اور اس کے دونوں رخسار رومال سے چھپ جاتے ہیں؛ البتہ اس کی ناک اور منہ کھلے رہتے ہیں، نیز قرأت کرنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح نماز کی حالت میں رومال ڈالنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے یا نہیں؟؛ کیونکہ خالد کا کہنا ہے کہ اس صورت میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔

(۲) چہرہ پر رومال ڈالنے کی صورت میں اگر داڑھی چھپ جائے جبکہ داڑھی چھپانے کا ارادہ نہ ہو کیسا ہے؟

المستفتی: محمد صابر قاسمی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر ناک اور منہ بند نہیں ہوتے ہیں مکروہ نہیں ہے؛ لہذا سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت میں نماز مکروہ نہ ہوگی۔ (مستفاد: محمودیہ قدیم ۷/۱۵۶، جدید ڈائجسٹ ۶/۶۶۲)

(۲) صرف داڑھی چھپ جانے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

فیکرہ التلثم وتغطية الأنف والشم في الصلاة؛ لأنه يشبه فعل
المجوس. (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی جدید ۳۵۰، مکتبہ دارالکتاب قدیم
۱۹۳، ہندیہ، زکریا جدید ۱/۶۰، ما یفسد الصلاة، الفصل الثانی فیما یکرہ فی
الصلاة وما لا یکرہ ۱/۱۰۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۲/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶/صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۱۱/۳۳)

پیشانی ڈھک کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ الف: نمازی کا سر پر کپڑا ڈال کر اس طرح نماز پڑھنا کہ پیشانی ڈھک
جاتی ہے کیسا ہے؟

ب: نمازی نے دوران نماز اس طرح سر پر کپڑا لپیٹ کر رکھا ہے کہ اس کا ایک سرا
منہ کے آگے سینے تک لٹکا رہتا ہے کیسا ہے؟

المستفتی: عبدالحق ہلدوانی، نبی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: الف: پیشانی ڈھک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے؛ اس
لئے کہ نماز میں پورا چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، ہاں البتہ سجدے کے وقت میں رومال پر سجدہ کرنا
مکروہ نہیں ہے، بس پیشانی ڈھکنے کی وجہ سے کراہت آتی ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۴۳۰-۴۳۱)
عن أنس بن مالک قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض،
بسط ثوبه، فسجد عليه. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم في
أول الوقت في شدة الحر، النسخة الهندية ۱/۲۲۵، بيت الأفكار رقم: ۶۲۰)

عن صالح بن خيوان السبائي، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي يسجد بجبينه، وقد اعتم على جبهته، فحسرت النبي صلى الله عليه وسلم عن جبهته. (المراسيل لأبي داؤد ص: ۸، رقم: ۷۶، السنن الكبرى للبيهقي، باب الكشف عن الجبهة في السجود، دارالفكر بيروت جديد ۴۳۹/۲، رقم: ۲۷۱۵)

وإمساك فمہ عند الثأوب..... فإن لم يقدر غطاه بيده..... أو كَمَّه لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة. (شامي، زكريا ۱۷۶/۲، كراچی ۴۷۸/۱، الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصلاة، آداب الصلاة عند الحنفية، هدى انتر نیشنل ديوبند ۱/۷۶۰)

ب: دوران نماز رومال کا ایک سرامنہ اور سینہ تک لٹکا ہوا ہے، اس سے اگر رکوع اور سجدہ کے وقت میں توجہ ہٹ جاتی ہے، تو سدل کے حکم میں ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوگا اور اگر توجہ نہیں ہٹتی ہے، تو مکروہ نہیں ہے۔

قال في شرح المنية: السدل هو الإرسال من غير ليس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سداً. ودخل في قوله: "ونحوه عذبة العمامة" (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها كراچی ۶۳۹/۱، زكريا ۴۰۵/۲)

العذبة بفتح العين والذال عذب الطرف المرخي من العمامة بعد تكويرها. (معجم لغة الفقهاء ۳۰۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ ربيع الاول ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۰۳۰/۲۰)

ٹوپی، چادر، یا دوپٹہ سے ڈھکی ہوئی پیشانی پر سجدہ کرنا

سوال [۲۷۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: نمازی کی پیشانی پر بال ہوں یا ٹوپی چادر دوپٹہ پڑا ہوا اور سجدہ اس کے اوپر ہوتا ہو، تو نماز مکروہ تو نہیں ہوتی؟

المستفتی: عبدالصمد رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بال چونکہ بدن کا جز ہیں؛ اس لئے اس پر سجدہ کرنے سے کراہت نہیں آئیگی؛ البتہ اگر بلا ضرورت عمامہ، چادر اور ٹوپی کے ذریعہ سے پیشانی ڈھاک لی جائے اور اس پر سجدہ کیا جائے، تو نماز میں کراہت آجائے گی اور اگر کسی خاص عذر کی وجہ سے پیشانی چھپ جائے تو بلا کراہت نماز درست ہو جائے گی۔

عن صالح بن خیوان السبائی، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأي رجلا يصلي يسجد بجبينه، وقد اعتم على جبهته، فحسرس النبي صلى الله عليه وسلم عن جبهته. (المراسيل لأبي داؤد ص: ۸، رقم: ۷۶، السنن الكبرى للبيهقي، باب الكشف عن الجبهة في السجود، دارالفكر بيروت جديد ۲/۴۳۹، رقم: ۲۷۱۵)

عن علي-رضي الله عنه- إذا صلى أحدكم، فليحسرس العمامة عن جبهته. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، موسسه علوم القرآن ۲/۵۰۰، رقم: ۲۷۷۱، السنن الكبرى للبيهقي، باب الكشف عن الجبهة في السجود، دارالفكر جديد ۲/۴۳۹، رقم: ۲۶۶۰)

ويكره السجود على كور عمامته من غير ضرورة حر، أو برد، أو خشونة أرض الخ (مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات ۱۹۵، دارالكتاب ديوبند، جديد ۳۵۵، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۰/۴، ۳۰، هندية، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، ومالا يكره ۱/۱۰۸، زكريا جديد ۱/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۱/۱۲/۹۷

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱/۱۲/۹۷
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵۷۶/۳۱)

دوران نماز کپڑوں کو ہاتھوں سے جھاڑنا

سوال [۲۷۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو کبھی ایک ہاتھ سے کبھی دونوں ہاتھوں سے جھاڑتا ہے، اس عمل سے نماز میں کوئی کراہت آتی ہے یا نہیں؟ نیز یہ عمل اتفاقیہ ہو یا اس پر مداومت کی عادت بن گئی ہو تو دونوں میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ضرورت کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ سے ایک رکن میں ایک دفعہ ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اگر دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے یا ایک رکن میں ایک ہاتھ سے بار بار کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۲۳۶)

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولانكف ثوباً، ولا شعرًا. (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب السجود على سبعة أعظم ۱/۱۱۲، رقم: ۸۰۲، ف: ۸۱۰) وكذلك يكره له أن يكف ثوبه، أو يرفعه لثلايترب. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما يكره للمصلي وما يكره، ذكرها ۲/۲۰۲، رقم: ۲۱۴۵، شرح الوقايه، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، اشرفي ۱/۱۶۷، ۱۶۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲/۷/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/رجب المرجب ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۰۹۷)

رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے دامن صحیح کرنا

سوال [۲۷۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد بکراپنے دونوں ہاتھوں سے کرتے کا پچھلا دامن صحیح کرتا ہے کہ کہیں کرتا سکر نہ رہ جائے، زید نے بکر کو اس حرکت سے باز رہنے کو کہا اور اس بات کا حوالہ ”مسائل نماز“ مؤلف حضرت مولانا رفعت صاحب قاسمی کی کتاب دکھائی اور اس کتاب میں حوالہ ہے فتاویٰ رحیمیہ کا بکرنے یہ بات کہہ کر منع کر دیا کہ فتاویٰ رحیمیہ غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو دریافت یہ کرنا ہے کہ فتاویٰ رحیمیہ معتبر ہے یا غیر معتبر اور بکر کا یہ عمل مفسد نماز ہے یا نہیں؟ اس حرکت سے باز رہا جائے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عبداللہ، ٹھاکر دروہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کرتے کے پچھلے دامن کو سکر نے سے بچانے کے لئے دونوں ہاتھوں سے صحیح کرنے کی عادت بنالینا مکروہ تحریمی ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں کمی آجاتی ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی اور فتاویٰ رحیمیہ میں جو لکھا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، فتاویٰ رحیمیہ معتبر کتاب ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ ۳۷۲/۴، ۳۷۲/۴)

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبا، ولا شعرا. (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب السجود على سبعة أعظم ۱/۱۱۲، رقم: ۸۰۲، ف: ۸۱۰)

يكره للمصلي أن يعبث بثوبه، أو لحيته، وإن جسده، وأن يكف ثوبه بأن يرفع ثوبه من بين يديه، أو من خلفه إذا أراد السجود، كذا في معراج الدراية. (عالمگیری، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، زكريا ۱/۱۰۵، زكريا جديد ۱/۱۶۴)

و كذلك يكره له أن يكف ثيابه، أو يرفعه لئلا يتترب. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما يكره في الصلاة وما لا يكره المجلس العلمي جديد ۲/ ۱۳۹، رقم: ۱۴۱۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۸۸۴/۳۶)

رکوع سے اٹھتے یا سجدہ میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے دامن سمیٹنا

سوال [۲۷۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حضرت علامہ ابن عابدین شامیؒ نے عمل کثیر کی پانچ تعریفیں کی ہیں، صاحب درمختار نے پہلی تعریف کو صحیح کہا ہے ۴۲۰/۱، قول ثانی یہ بیان کیا:

أن ما يعمل عادة باليدین كثير، وإن عمل بواحدة كالتعمم وشد السر اويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما. (شامی نعمانیة ۱/ ۴۳۰، زکریا ۲/ ۳۸۵)

ایک آدمی رکوع سے اٹھتے وقت یا سجدہ میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کے دامن کو سیدھا کرے تو بظاہر تو یہی سمجھ میں آرہا ہے کہ اس کا یہ عمل موجب کراہت تو ہوگا؛ لیکن نہ تو وہ قول اول میں داخل ہے اور نہ ثانی میں کہ اس کو عمل کثیر کہہ کر مفسد صلوة کہہ دیا جائے اور اگر ہر وہ کام جس میں دونوں ہاتھ لگ جائیں وہ مفسد صلوة ہو، جیسے یہی دو ہاتھوں سے دامن سمیٹنا، تو پھر کبیری کی اس عبارت کا کیا مطلب ہوگا۔

و ذکر فی الملتقط أنه لا يعتبر في فساد الصلاة عمل اليدين؛ ولكن يعتبر القلة، والكثرة. ص: ۴۱۸.

دونوں عبارتوں کی وضاحت فرما کر خلجان کو دور فرمادیں اور واضح طور پر لکھیں کہ

رکوع سے اٹھنے کے وقت دونوں ہاتھوں سے دامن کو سمیٹنا عمل کثیر ہے، جو کہ مفسد صلوٰۃ ہے یا صرف مکروہ ہے؟

المستفتی: سیدتیق الرحمن، کامٹی ناگپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رکوع سے اٹھتے وقت یا کسی بھی رکن انتقالی میں دونوں ہاتھوں سے دامن کا ایک مرتبہ سمیٹنا اور درست کرنا عمل کثیر میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی مفسد صلوٰۃ ہے؛ بلکہ مکروہ ہے، اسی پر مشائخ اور اکابر اہل فتاویٰ کا فتویٰ ہے۔ (کفایت المفتی قدیم ۳/۳۸۳، جدید زکریا مطول ۴/۴۵، امداد المفتیین کراچی ۳۲۱، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۶۳)

اور در مختار شامی غنیۃ المستملی شرح کبیری وغیرہ کی عبارتوں میں جہاں دونوں ہاتھوں کے استعال کو عمل کثیر کہا گیا ہے وہاں ساتھ ساتھ اس قید کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے اور رکوع وغیرہ ارکان انتقالیہ کے وقت مذکورہ عمل کو دیکھ کر کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے؛ بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز میں تو ہے؛ لیکن دونوں ہاتھوں سے یہ حرکت کر رہا ہے، جو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اور امر قبیح ہونے کی وجہ سے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کبیری میں نیچے اس عبارت کا اضافہ ہے۔

بل نظر هل هو كثير في نفس الأمر أم لا وذلك يمكن أن يكون بأحد الطرفين المتقدمين أما باعتبار غلبة ظن الناظر، أنه ليس في الصلاة وشكها (إلى قوله) وقيل يفوض إلى رأي المصلي إن استكشره فكثير وإلا فلا، وعامة المشائخ على الأول الخ (كبيري، كتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، سهيل اكيڊمي، لاہور ۴۴۲، رحيمية ديوبند قديم ۱۹۴)

اور شامی میں آخر میں اسی قسم کی عبارت لائی گئی ہے۔

والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا من الأول؛ لأن مايقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر، أنه ليس في الصلاة، وكذا من اعتبر التكرار ثلاثا متواليه،

فإنه يغلب الظن بذلك فلذا يختاره جمهور المشائخ. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره، ذكرها فيها ۲/۳۸۵، كراچی ۱/۶۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵/ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۶۰/۲۸)

رکوع سے اٹھتے اور سجدے میں جاتے وقت دامن سیدھا کرنا

سوال [۲۷۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عمر امام ہے تنہا نماز پڑھ رہا ہے رکوع سے اٹھتے وقت پیچھے کے دامن کو دونوں ہاتھوں سے درست کرتا ہے، سجدہ میں جاتے وقت تہ بند یا پا عجامہ اوپر اٹھاتا ہے اور قعدہ میں دامن سیدھا کرتا ہے تو کیا اس عمل سے نماز درست ہے یا یہ عمل کثیر ہے؟

المستفتی: محمد امیر دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رکوع سے اٹھتے وقت پیچھے کے دامن کو درست کرنا اسی طرح سجدہ میں جاتے وقت پا عجامہ یا تہ بند کو بلا وجہ اوپر اٹھانا اور قعدہ میں دامن کو سیدھا کرنا سب مکروہ ہے، اس سے احتراز لازم ہے، نماز بہر حال کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی۔ (فتاویٰ دارالعلوم ۹۳/۴، ۱۰۸/۴، فتاویٰ رحمیہ قدیم ۴/۳۷۷، جدید ۷/۲۹۰)

عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوباً، ولا شعراً. (بخاري، كتاب الاذان، باب السجود على سبعة أعظم ۱/۱۱۲، رقم: ۸۰۲، ف: ۸۱)

وكره كفه: أي رفعه ولولتراب كمشمركم، أو ذيل، وعبثه به، أي بشوبه، وبجسده إللحاجة. (در مختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، كراچی ۱/۶۴۰، ذكرها ۲/۴۰۶)

ومن كف الشوب رفعه كيلا يترب كما في منية المصلي .
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، زكريا ۲/ ۴۲،
كوثه ۲/ ۲۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ ربيع الاول ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/ ۱۲۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۳/۱۸ھ

دوران صلوٰۃ دونوں ہاتھوں سے کپڑے درست کرنا

سوال [۲۷۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کہتا ہے کہ مصلیٰ کو رکوع سجود سے اٹھ کر کرتا و پانچامہ دونوں ہاتھوں سے درست کرنا چاہئے؛ کیونکہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کرتا سرین کے اندر گھسا رہے یہ اچھا نہیں ہے اور دلیل اکابر علماء کے اقوال سے پیش کرتا ہے کہ فلاں صاحب نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا عمل کثیر نہیں؛ اس لئے مفسدات صلوٰۃ نہیں ہے؛ جبکہ عالمگیری ۱۰۳/ ۱، مراقی ۱۷۷، فتاویٰ دارالعلوم ۴۲/ ۴، میں ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے عمل کثیر ہے جو کہ مفسد صلوٰۃ ہے، اگر زید کا یہ بیان کردہ قول درست ہے تو مذکورہ بالا کتب کی عبارات کا کیا مطلب ہے؟

المستفتی: وکیل احمد قاسمی، مدرس مدرسہ اسلامیہ رڈ کی ہری دوار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مصلیٰ کا نماز میں ارکان انتقالیہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کرتا یا پانچامہ کا درست کرنا ضرورت کے وقت بلا کراہت جائز ہے اور بلا کسی ضرورت کے مکروہ تحریمی ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی؛ جبکہ عمل کثیر نہ ہو۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولانكف ثوباً، ولاشعراً. (صحيح البخاري،

كتاب الاذان، باب السجود على سبعة أعظم ۱/۱۲، رقم: ۸۰۲، ف: ۸۱۰)

وكره كفه: أي رفعه ولولتراب كمشمر كم أو ذيل وعشه به للنهي إلا

لحاجة. (رد المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها،

کراچی ۱/۶۴۰، زکریا ۲/۴۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۱/۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۸۲/۳۳)

جیب میں روپے رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۸۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ نمازی کے سامنے اوپر دائیں بائیں تصویر ہونے سے نماز مکروہ ہوتی ہے؛

لیکن جب جیب میں روپیہ ہو اور اس پر تصویر ہو تو نماز مکروہ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو وجہ کیا ہے

اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟

المستفتی: عبدالصمد بلاسپور گیٹ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جیب میں چونکہ تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے؛ اس

لئے جیب میں رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی نہ آئیگی۔

بأن معه صرة، أو كيس فيه دنانير، أو دراهم فيها صور صغار فلا تکره

لاستارها ويفيد أنه لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له، فإنه

لا يكره أن يصلي فيه لاستارها بالثوب الآخر الخ (البحر الرائق، كتاب الصلاة،

باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، زکریا ۲/۴۸ کوئٹہ ۲/۲۷)

هذا إذا كانت التصاویر مكشوفة أما إذا كانت مستورة فلا بأس به.
(الفتاویٰ التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما يكره للمصلي وما لا يكره، ذكرها
٢/٢٠٣، رقم: ٢١٤٩)

ولا يكره المستتر بكيس، أو صورة، أو ثوب آخر. (الفقه الإسلامي
وأدلته، كتاب الصلاة، المطلب الأول ما يكره في الصلاة، هدى انترنیشنل ١/٨٠٨)

ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به؛ لأن هذا يصغر
عن البصر. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في
المكروهات، دار الكتاب ديوبند جديد ٣٦٢) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ ربيع الثانی ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰۰/۲۹)
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴/۴/۳ھ

روپیہ اور کرنسی جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ انسان اور دیگر جاندار کی تصویر جیب میں لے کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
ہندوستان کے نوٹوں میں گاندھی جی کی تصویر ہوتی ہے، اسی طرح دیگر ممالک کے نوٹوں
میں وہاں کے حکمرانوں کی تصویریں ہوتی ہیں، ان کو جیب میں لے کر نماز پڑھنے میں
کراہت آئے گی یا نہیں؟

المستفتی: یعقوب غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تصویروں کو نمایاں طور پر دیوار میں یا سامنے رکھ کر
نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اور جو تصویر پلیٹ کر جیب میں رکھ دی گئی ہے، وہ نظر نہیں آرہی ہے،

تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی، نماز بلا تردد جائز ہو جاتی ہے؛ لہذا ہندوستانی نوٹوں پر مہا تما گاندھی کی جو تصویر ہوتی ہے، ان تصویر والے نوٹوں کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا بلاشبہ جائز اور درست ہے، اسی طرح سعودی ریال میں جو وہاں کے بادشاہوں کی تصویریں ہوتی ہیں اور مختلف ممالک کے نوٹوں میں وہاں کے حکمرانوں کی تصویریں ہوتی ہیں، ان نوٹوں کو جیب میں لے کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں؛ اس لئے کہ ان نوٹوں کو جیب میں رکھنے میں احترام تصویر مقصد نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ مال کی حفاظت مقصد ہوتا ہے، اسی طرح نوٹ جیسی چیزوں میں دیگر جاندار کی تصویر ہو تو اس کا بھی حکم یہی ہے۔ (مستفاد: محمود ڈابھیل ۶/۵۷۶)

لا المستقر بکیس أو صرة بان صلی ومعه صرة، أو کیس فیہ دنانیر،
 أودراہیم فیہا صور صغار، فلا تکرہ لاستتارہا. (شامی، باب ما یفسد الصلاة
 وما یکرہ کراچی ۱/۶۴۸، ومثله فی البحر الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ
 کراچی ۲/۲۷، زکریا ۲/۴۱۸)

وکذا یکرہ فی ثوب فیہ تصاویر..... وفي الظہیریة هذا إذا
 كانت التصاویر مکشوفة وأما إذا كانت مستورة فلا بأس به. (الفتاوی
 التاتاریخانیة، کتاب الصلاة، الفصل الرابع ما یکرہ للمصلی وما لا یکرہ زکریا
 ۲/۳۰۳، رقم: ۲۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۲/صفر المظفر ۱۴۳۶ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۱۱۹۳۱/۲۱)

جیب میں تصویر والا آئی کارڈ رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مصلیٰ کی جیب میں آئی کارڈ تھا دوران نماز وہ کارڈ گر گیا، اس میں اپنی تصویر سامنے آگئی تو نماز کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: عمران، انگلینڈ، گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جیب میں آئی کارڈ رکھ کر نماز پڑھنے میں کوئی

حرج نہیں، اسی طریقہ سے وہ نوٹ جس میں گاندھی جی کی تصویر ہوتی ہے اس کو بھی جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں؛ اس لئے کہ آئی کارڈ اور نوٹ میں موجودہ تصویر سامنے آگئی تو اس کی وجہ سے نماز مکروہ نہیں ہے؛ البتہ تصویر کی طرف اس طرح توجہ کرنے کی صورت میں جس سے نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو جائے مکروہ ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶/۶۷۷ ڈبھیل)

ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس، أو صرة، أو ثوب آخر، أو كانت صغيرة لاتتبين تفاصيل أعضائها للنظر قائمًا، وهي على الأرض وتحتة في الشامية: بأن صلى ومعه صرة، أو كيس فيه دنانير، أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها. (در مختار مع الشامى، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، كراچى ۱/۶۴۸، زكريا ۲/۴۱۸)

وفي المحيط: رجل في يده تصاوير وهو يؤم الناس لا تكره إمامة، لأنها مستورة بالثياب، فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، زكريا ۹/۴۸، كوئٹہ ۲۰/۲۸)

بقي من المكروهات أشياء آخر: منها الصلاة بحفرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب. (شامى، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، كراچى ۱/۶۵۴، زكريا ۲/۴۲۵)

”لأنه يلهي المصلي“ وفي الشامي: أن الخشوع في الصلاة مستحب. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكرهه ۱/۶۵۸، زكريا ۲/۴۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ رزی الحجہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۶۲/۳۹)

جیب میں تصویر رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کی جیب میں بغیر ضرورت کے تصویر رکھی ہے اور وہ پرس کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسی حالت میں نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد صابر علی، بلدوانی نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تصویر جیب کے اندر رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خرابی نہیں آتی؛ البتہ مصلیٰ پر یا سامنے یا بغل میں رکھنے سے مکروہ ہو جاتی ہے۔

ولو كانت الصورة صغيرة كالتی علی الدراهم، أو كانت فی الید، أو مستترة، أو مهانة مع أن الصلاة بذالك لا تحرم؛ بل ولا تکره الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكرهه فیها، زكريا ۲/۴۱۷،

کوئٹہ ۱/۶۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۵/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۴۵۳/۳۲)

چاند، ستارے، اور درخت کی تصویر والے جانماز کا حکم

سوال [۲۷۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ عرصہ سے چند مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اکثر مسجد کی چٹائیوں پر چاند اور تار بنا ہوا ہے اور اسی پر ہم لوگ ایک عرصہ سے سجدہ بھی کرتے آرہے ہیں اور ان پر ہم پیر بھی رکھ کر چلتے ہیں اور نماز کی حالت میں چاند اور تارے کی تصویر سامنے رہتی ہے، کیا اس چیز سے ہماری نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور ان تصویر والی چٹائیوں پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ اور مصلے پر بھی مکہ معظمہ، مدینہ منورہ یا پھر گنبد خواجہ اجمیری کا روضہ وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے، جبکہ اسلام نے تصویر یا شبیہ پر نماز کے لئے منع فرمایا ہے۔

المستفتی: آپ کے چند احباب نمازی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چاند، ستارے، درخت وغیرہ کی تصویر رکھنا اور ان تصویروں کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے؛ بلکہ جاندار کی تصویر والے مصلے پر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، چاند، ستارے جانداروں میں شامل نہیں ہیں؛ اس لئے مذکورہ چٹائیوں پر نماز بلا کراہت جائز اور درست ہوگی۔

عن سعید بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس[ؓ]..... وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر وما لانس له. (صحيح مسلم، كتاب اللباس، والرینة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، النسخة الهندية ۲/۲۰۲، بيت الأفكار رقم: ۲۱۱۰، مسند أحمد بن حنبل ۱/۳۰۸، رقم: ۲۸۱۱، ۱/۳۶۰، رقم: ۳۳۹۴)

ویکره أن يكون فوق رأسه في السقف، أو بين يديه، أو بحذائه
تصاویر، أو صورة معلقة وتحتہ فی البناية یريد صورة التماثيل التي فيها

الأرواح الخ (بنايہ، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، اشرفية جديد
٤٥٧/٢، قديم ٨٠٨/١)

فأما صورة مالا حياة له كالشجر و نحو ذلك فلا يوجب الكراهة،
لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذی روح، فلا يحصل التشبه
بهم. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في شرائط الأركان قديم كراچي ١١٦/١،
زكريا ٣٠٥/١) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
١٧ محرم الحرام ١٤١٣ھ
(الف فتویٰ نمبر: ٢٨/٢٩٨٢)

خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے منقش مصلے پر نماز

سوال [٢٤٢٢]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ آج کل جو مصلوں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر یا کسی دوسرے مذہبی
مقام کی تصویر آرہی ہے، جن کے متعلق ایک مسلمان کے دل میں غیر معمولی ادب و احترام پایا
جاتا ہے، انہی مصلوں کو امام کے خطبہ دینے کے لئے بچھا دیا جاتا ہے یا کسی اور طریقہ سے ان
کی بے ادبی ہو جاتی ہے، مثلاً پیر کے نیچے تصویر کا آجانا ایسے مصلوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟
آیا بچھا کر خطبہ دینا صحیح ہے یا نہیں؟

المستفتی: عمران اللہ، بھوچپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسا مصلیٰ جس میں خانہ کعبہ یا مسجد نبوی یا مذہبی
مقدس مقامات کی تصویر ہوتی ہے اس پر پیر رکھ کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے؛
اس لئے کہ عین کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر آدمی نماز پڑھتے ہیں تو جب اصل شئی پر کھڑے ہو کر

نماز پڑھنا خلاف ادب نہیں ہے اور اس میں چلنا پھرنا بھی خلاف احترام نہیں ہے، تو اس کی تصویر پر پیر پڑ جائے تو خلاف ادب کیسے ہے، یہ محض اپنے خیال کی بات ہے؛ لہذا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے منقش مصلے پر پیر رکھ کر نماز پڑھنا تو خلاف ادب ہے اور نہ ہی احترام کے خلاف ہے، جیسا کہ خود کعبۃ اللہ کے فرش پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا خلاف احترام نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۱/۷، جدید ۶/۶، ۶، رحمہ اللہ جدید ۳۳/۶، قدیم ۲/۶، ایضاً المسائل ۱۳۳)

فإذا صلوا في جوف الكعبة فالصلاة في جوف الكعبة جائزة عند عامة العلماء نافلة كانت أو مكتوبة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في شرائط الأركان قديم كراچی ۱/۱۲۱، زکریا ۱/۳۱۴)

ولو صلى في جوف الكعبة، أو على سطحها جاز. (هندية، كتاب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، زکریا قديم ۱/۶۳، جدید ۱/۱۲۱)

الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها. (هداية، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، اشرفي ۱/۱۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷/شعبان المعظم ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۷۸۹)

خانہ کعبہ کے تصویر دار مصلے پر نماز

سوال [۲۷۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں مسجد میں پلاسٹک کی چٹائی ہیں، جن میں کعبہ کا نقشہ بنا ہوا ہے، چند افراد کا اعتراض ہے کہ ان کو بچھانا درست نہیں؛ کیونکہ پیر پڑتا ہے اور لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اس سے کعبہ کی بے حرمتی ہوتی ہے؛ لہذا ایسے مصلوں اور چٹائیوں کو بچھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۲) کیا اس پر پیر پڑنے یا بیٹھنے سے واقعی کعبہ کی بے حرمتی کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟
 (۳) اسی طرح بعض مصلوں اور چٹائیوں پر بیت المقدس یا مسجد نبوی کی تصویر بنی
 ہوتی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔
 المستفتی: جامع مسجد تکیہ پور، بلڑیاں لکھنؤ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: منقش مصلیٰ جس پر کعبۃ اللہ اور حریم کا نقشہ
 ہوتا ہے بہر حال وہ تصویر ہے، کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھنا باعث خوش قسمتی اور امر
 مستحسن ہے تو سوال یہ ہے کہ پیروں کو کہاں رکھ کر نماز پڑھے گا، ظاہر بات ہے کہ پیروں کو
 عین کعبہ کی زمین پر رکھ کر نماز پڑھی جائیگی، اسی طرح مسجد حرام میں بیٹھنا اور پیروں سے
 چلنا خلاف ادب نہیں ہے، تو جب عین کعبہ اور عین مسجد حرام میں پیروں سے چلنا اور پیر رکھنا
 خلاف ادب نہیں تو اس کے فوٹو اور تصویر پر پیر پڑ جائے تو کیسے خلاف ادب ہے، یہ محض
 اپنے خیال کی بات ہے ایسی باتوں کے ذریعہ سے لوگوں کو شکوک و شبہات اور تشویش میں
 مبتلا نہ کیا جائے، جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے؛ لہذا کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کے
 منقش مصلے پر بیٹھنا اور پیر رکھ کر نماز پڑھنا بلا تردد اور بلا کراہت جائز اور درست ہے، اس
 میں تمام سوالات کے جوابات آچکے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدید ۶/۶۷، ۶۷، قدیم ۱۱/۷، ایضاح
 المسائل ۱۳۳۱، فتاویٰ رحمیہ جدید ۶/۳۳، قدیم ۲/۲۷)

أو لغير ذي روح لا يكره، لأنها لا تعبد وخبر جبريل عليه السلام
 مخصوص بغير المهانة كما بسطه ابن الكمال. (الدر المختار مع الشامی
 کراچی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها ۹/۱، ۶۷، زکریا ۱۸/۲، البحر
 الرائق، کراچی، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها ۲/۲۷، زکریا ۴۸/۲)

عن سعید بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباسؓ، وقال إن
 كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لانفس له. (مسلم شریف، باب تحریم تصویر

صورة الحيوان، النسخة الهندية ۲/۲۰۲، بيت الأفكار رقم: ۲۱۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳ھ/۲۱۳

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۵۹۸/۳۶)

منقش مصلے پر نماز

سوال [۲۷۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لئے لعنہ و لعنت والی ہیں مثلاً کعبۃ اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ یا دیگر مساجد وغیرہ یا روضہ اطہر کہیں اگر ان کی تصویر زمین پر پڑی ہوئی مل جاتی ہے تو ہم احتراماً اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، مثلاً اخبار پر ان چیزوں کا فوٹو یا کلینڈر پر فوٹو یا کسی اسلامی کتاب کے سرورق پر۔

اگر ان مذکورہ متبرک مقامات کی تصویر کپڑے کی شکل میں زمین میں پڑی ہوئی ہو جیسے جانماز (مصلے) اس شکل میں اس طرح کی جانمازوں کے اوپر چلا جاسکتا ہے؟ دوڑا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر امام کی حیثیت سے بیٹھ کر تسبیح پڑھی جاسکتی ہے؟ کیا خطبہ کے مقام ممبر پر بچھا کر اس پر خطبہ پڑھا جاسکتا ہے؟ (چونکہ خطبہ کی حالت میں بیٹھا بھی جاتا ہے اور کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے)

المستفتی: سید سرفراز علی مقبرہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہر مسلمان اس کی آرزو رکھتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے

اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے، ظاہر بات ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے میں عین کعبہ پر نماز پڑھنا اس کے فرش پر چلنا، اس کے اوپر کھڑا ہونا سب کچھ پایا جائے گا وہ سب عبادت کی غرض سے ہے خلاف ادب نہیں ہے، جب عین کعبہ پر چلنا کھڑا ہونا خلاف ادب نہیں ہے،

تو اس کی تصویر والے مصلے پر کھڑا ہونا اس پر چلنا اس پر خطبہ دینا بطریق اولیٰ ادب کے خلاف نہ ہوگا؛ اس لئے کہ یہ تمام اعمال عبادات ہی کی قبیل سے ہیں، اسی طرح مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نماز کے لئے چلنا پھرنا، پھر اس میں نماز پڑھنا، اعتکاف کی حالت میں سونا کوئی خلاف ادب نہیں ہے، جب عین مسجد میں یہ چیزیں خلاف ادب نہیں ہیں، تو اس کے فوٹو اور تصویر پر بطریق اولیٰ خلاف ادب نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدیدہ ۶/۶۷، ۶۷، قدیم ۱۱/۷، رحیمیہ جدیدہ ۳۳/۶، قدیم ۲۷/۶)

إذا صلوا في جوف الكعبة فالصلاة في جوف الكعبة جائزة عند عامة العلماء نافلة كانت أو مكتوبة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في شرائط الأركان قديم كراچي ۱/۲۱، زكريا ۱/۳۱۴)

ولو صلى في الكعبة أو على سطحها جاز. (هنديّة، كتاب الصلاة، فصل في

شرائط الصلاة، زكريا ۱/۶۳، زكريا جديد ۱/۱۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ صفر المظفر ۱۴۲۸ھ

۱۴۸۴۲/۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۱۶۹)

منقش مصلے پر نماز کا شرعی حکم

سوال [۲۷۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مولانا نظام الدین صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، نظام الفتاویٰ میں ۳۱/۱ پر یوں رقم طراز ہیں کہ منقش مصلے جو خانہ کعبہ اور گنبد خضریٰ کی تصویر سے مزین ہے، اس پر نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، دلیل قرآن شریف کی آیت: **ومن يعظم شعائر الله** کے تحت۔

اور مفتی شبیر احمد قاسمی مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ایضاً المسائل ۱۳۳۳/۱ پر

لکھتے ہیں کہ اس طرح کے مصلے پر نماز پڑھنا جائز ہے؛ لیکن جائے نماز کا سادہ ہونا زیادہ بہتر

ہے اور جائز دونوں طرح ہے، بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ، فتاویٰ محمودیہ؟

المستفتی: مولانا عبدالقدوس، دارالعلوم محمودیہ، پربھنی (مہاراشٹر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایسا منقش مصلے جس میں خانہ کعبہ مسجد نبوی یا

بیت المقدس کی تصویر ہوتی ہے، ایسے مصلے پر پیر رکھنے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے؛ اس لئے کہ تصویر اصل شئی کے حکم میں نہیں ہوتی؛ بلکہ اصلی شئی سے کم درجہ کی ہوتی ہے اور جب خود خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے وقت زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے اور یہ نعل تعظیم کعبہ کے خلاف نہیں ہے، تو اس کی تصویر کا پیروں کے نیچے ہونا بطریق اولیٰ تعظیم کے خلاف نہ ہوگا؛ لہذا ایسے منقش مصلے پر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہوگا؛ ہاں البتہ جائز نماز کا سادہ ہونا زیادہ بہتر ہے؛ لیکن جائز دونوں طرح ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل، ۱۳۳، فتاویٰ رحیمیہ جدیدہ ۶/۳۳، قدیم ۲/۱۷۲/فتاویٰ محمودیہ جدیدہ ۶/۶۷۰، قدیم ۷/۱۱۱، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۱۲۷، امداد المفتیین ۳۱۶)

ولو صلى في جوف الكعبة، أو على سطحها جاز. (الفتاویٰ التاتار

خانیة، کتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض، زکریا ۲/۳۷، رقم: ۱۶۲۳، المحيط

البرهاني، کتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض، المجلس العلمي جدید ۲/۲۲،

رقم: ۱۱۲۳) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۷۹۳۳/۵۷)

اشتمال صماء کی کون سی ہیئت ممنوع ہے؟

سوال [۲۷۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ حدیث میں اشتمال صماء سے منع کیا گیا ہے، وہ چادر اوڑھنے کی کون سی ہیئت ہے؟ براہ کرم جواب دیکر عند اللہ ماجور ہوں۔

المسفتی: خورشید احمد تعلیم القرآن حسن پور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اشتمال صماء کی چند صورتیں ہیں، محدثین کے

نزدیک مشہور یہ ہے کہ ایک کپڑا پورے بدن پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھ پیر باہر نکالنے کے لئے کوئی سوراخ باقی نہ رہے، پورے بدن پر شامل ہونے کی وجہ سے اشتمال کہتے ہیں اور ہاتھ پیر نکالنے کے لئے سوراخ نہ ہونے کی وجہ سے صماء کہتے ہیں، فقہاء کے یہاں ایک کپڑے کو سر سے پیر تک لپیٹ لیا جائے اور نیچے دوسرا کپڑا نہ ہو پھر ایک جانب سے اٹھا کر موٹھے پر ڈال دیا جائے، جس سے ستر عورت کھل جائے اول صورت مکروہ ہے اور ثانی صورت حرام اور مفسد صلوة ہے۔

اشتمال الصماء بالمد وهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته الخ (عمدة القاري، شرح بخاري، كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء ۳/۲۲، هكذا في المرقات، كتاب اللباس، الفصل الأول، ملتان ۳۹/۸، بذل المحمود، كتاب اللباس، باب في لبس الصماء، ميرٹھ ۵/۵۲، اشعة للمعات ۳/۵۳۸، عويصات ۲/۱۳۳، نووي، كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء والإحتباء ۲/۱۹۸، حاشية ترمذي، كتاب اللباس، باب ماجاء في النهي عن اشتمال الصماء ۱/۳۰۶، ۱/۲۰۸، حاشية أبو داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الصماء ۲/۵۶۴، ۲/۲۰۸، حاشية مشكوة شريف،

کتاب اللباس، الفصل الأول، أشرفی ۲/۳۷۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷/ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۶۲۳۳)

انگریزی فیشن والے کپڑے میں نماز

سوال [۲۷۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ انگریزی فیشن کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟
المستفتی: محمد ادریس، شاہ جہاں پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر انگریزی فیشن کے کپڑے سے انگریزوں کی مشابہت ظاہر ہوتی ہے یا ان کی مشابہت مقصود ہے یا ٹخنہ سے نیچے لباس پہنتا ہے، ان تمام صورتوں میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔

عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم، فهو منهم الحديث (ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، النسخة الهندية ۲/۵۵۹، دارالسلام رقم: ۴۰۳۱، المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ۶/۱۵۱، رقم: ۸۳۲۷)

عن أبي هريرة^{رضي}، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ما أسفل من الكعبين ففي النار ۲/۸۶۱، رقم: ۵۵۵۹، ف: ۵۷۸۷)

وعادم ساتر لا يصف ما تحته ولا يضر التصاقه و تشكله و تحته، أي بالآلية مثلاً وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظاً لا يرى منه لون

البشرية إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله، فصار شكل العضو مرئياً،
 فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول السترة. (الدر المختار مع الشامی،
 كتاب الصلاة، باب شروط الصلوة، مطلب في النظر إلى وجه الأمر، كراچی ۱/۴۱۰،
 زکریا ۲/۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۲/۳/۱۴۱۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۲/ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۹۱۶/۳۱)

باریک کپڑے میں نماز

سوال [۲۷۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
 بارے میں: کہ اگر کوئی مرد موٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؛ لیکن پھر بھی باریک کپڑا پہن
 کر نماز پڑھتا ہے، جس سے بدن نظر آتا ہے، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ اس کے متعلق
 جواب مدلل تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد اسعد، مدرس مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسا باریک کپڑا جس سے بدن کا رنگ نظر
 آجائے تو تحت السرہ إلى الركبة نظر آنے سے نماز فاسد ہو جائے گی اور ما بقیہ نظر آنے
 سے نماز مکروہ ہوگی۔

قوله: لا يصف ما تحته، بأن لا يرى منه لون البشرة احترازاً عن الرقيق
 ونحو الزجاج. (شامی، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زکریا ۲/۸۴، کراچی
 ۱/۴۱۰، کوئٹہ ۱/۳۸۰)

ويشترط في الساتر أن لا يكون رقيقاً يصف ما تحته؛ بل يكون كثيفاً
 لا يرى منه لون البشرة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/۱۷۴)

يجب أن يكون صفيقًا كثيفًا، فالواجب الستر بما يستر لون البشرة، ولا يصفها من ثوب صفيق، أو جلد، أو ورق، فإن كان الثوب خفيفًا، أو رقيقًا يصف ما تحته، أو يتبين لون الجلد من ورائيه، فيعلم بياضه، أو حمرة لم تجز الصلاة به، لأن الستر لا يحصل بذلك. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصلاة، الشرط الرابع ستر العورة، شروط الستار، هدى انثر نيشنل ديوبند ۱/۶۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ شوال المعظم ۱۴۰۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۲۹۵)

چست لباس میں نماز پڑھنا

سوال [۲۷۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے چست لباس (جسے فل پینٹ ہاف شرٹ وغیرہ) پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جس سے ان کے مستورا اعضا سرین وغیرہ نمایا طور پر نظر آتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز مکروہ ہوگی یا نہیں؟ اور ان کے لئے اعادہ صلوٰۃ ضروری ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد صدق حسین (مغربی بنگال)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایسے لباس میں نماز پڑھنا، جس میں مستورا اعضا ظاہر ہوں مکروہ ہے؛ لیکن اس نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس طرح کا لباس استعمال کریں، جس سے مستورا اعضا نمایاں ہو کر نظر نہ آئیں۔

(مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۲۰۳)

أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو

وتشکل بشكله، فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستور. (شامي، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، كراچی ۱/۴۱۰، زکریا ۲/۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۰۳/۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۸/۱۴۲۸ھ

پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص ڈھیلا ڈھالا شرٹ پینٹ پہنتا ہے اور ڈھیلا بھی اس طرح ہے کہ نماز پڑھنے میں نہ ہی کوئی پریشانی ہوتی ہے اور نہ ہی جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی من تشبه بقوم فهو منهم کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا جائے گا؟

المستفتی: شاہد جمال مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شریعت میں لباس کے لئے ایک حد متعین ہے، یعنی وہ ساتر ہو، کفار و فساق کا شعار نہ ہو، عورتوں کی مشابہت کا لباس نہ ہو، اسی طرح لباس سے کسی قسم کی بدتہذیبی اور ناشائستگی کا مظاہرہ نہ ہوتا ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی لباس پہنا جائے تو اس میں شرعا کوئی حرج نہیں؛ لہذا آپ کا پینٹ شرٹ اسی حدود کے دائرہ میں ہے اور یہ لباس غیروں کے لئے خاص بھی نہیں ہے؛ اس لئے من تشبه بقوم فهو منهم کے حکم میں داخل نہیں ہوگا؛ لیکن پھر بھی پینٹ شرٹ ہمارے دیار و اطراف میں اتقیا و صلحاء اور علماء کا لباس نہیں ہے چاہے ڈھیلا ڈھالا ہی کیوں نہ ہو؛ اس لئے ایسے لباس کا ترک اولیٰ اور بہتر ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۹/۲۶۷)

لم يقصره على نوع دون نوع فإن الإسلام لم يقرر للإنسان نوعاً خاصاً، أو هيئة خاصة للباس.....إنما وضع مجموعة من المبادئ والقواعد الأساسية يجب على المسلم أن يتحفظ بها في أمر لباسه، فمن مقدمة هذه المبادئ أن اللباس يجب أن يكون ساتراً لعورة الإنسان.....والمبدأ الثاني: إنما يقصد به الستر والتجمل.....والمبدأ الثالث: أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه للمسلم. (تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة ۴/ ۸۸۸/۷، اشرفية ديوبند)

فأما هيئة اللباس، فتختلف باختلاف عادة كل بلد. (فتح الباري، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، اشرفية ديوبند ۱۰/ ۴۰۸، دارالريان بيروت ۱۰/ ۳۴۵، تحت رقم الحديث ۵۸۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۵۸/۳۹)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۵/۱۴۳۱ھ

چست لباس پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہم نے سنا ہے کہ چست کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کل صلوة أدیت مع کراهة التحريم تجب إعادتها تو کیا اس صول کے پیش نظر ان عورتوں کے لئے اعادہ واجب ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عرفان قاسمی، حیدرآباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حضرات فقہاء نے جس فعل مکروہ کی بنا پر نماز کے اعادے کی بات کہی تو اس سے مراد ایسی کراہت ہے، جو صلب صلوة اور داخل صلوة

میں پائی جائے، خارج صلوٰۃ کسی فعل مکروہ کے ارتکاب کے وجہ سے نماز کا اعادہ واجب نہیں؛ لہذا عورتوں کا چست لباس پہننا ایک خارج صلوٰۃ فعل مکروہ ہے، اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آگئی؛ لیکن اعادہ لازم نہیں۔

کل صلوٰۃ أدیت مع کراہة التحريم تجب إعادتها-بقي هنا شيء-أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتي متطوعا، فإنه كالصریح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة..... بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تعاد بتركة، ما كان من ما هية الصلوٰۃ وأجزائها، فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ما هيتها. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أدیت مع كراهة التحريم، زكريا ۲/ ۴۸، ۱، كراچی ۱/ ۴۵۷)

الرابع سببه ترك واجب من واجبات الصلاة الأصلية سهوا وهو المراد بقوله بترك واجب لاكل واجب بدليل ما سنذكره من أنه لو ترك ترتيب السور لا يلزمه شيء مع كونه واجبا وهو أجمع ما قيل فيه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۲/ ۶۵، ۱، كراچی ۲/ ۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۶۲/۴۰)

امام صاحب کا کڑھائی والا کرتا پہن کر نماز پڑھانا

سوال [۲۷۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایسے کرتے سے نماز پڑھانا، جس میں چمکدار تار سے کڑھائی ہو یا میٹل کے تارے وغیرہ لگے ہوں جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: راشد علی، پینیل سائنس، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جس کپڑے کا سوال نامہ میں ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ کپڑا زنا نہ نہیں ہے؛ بلکہ مردانہ کپڑا ہے اور مردانہ کپڑے پر سنہری دھاری بنائی گئی ہے اور سنہری دھاری بننے کے بعد بھی وہ کپڑا مردانہ ہے زنا نہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کپڑے کا پہننا ہر مرد کے لئے جائز ہے اور جس کپڑے کا مرد کے لئے پہننا جائز ہے، اس کپڑے میں نماز پڑھنا اور پڑھانا بھی جائز ہے اور حدیث شریف میں مردوں کے لئے ریشم کا کپڑا پہننا منع آیا ہے؛ لیکن اگر ریشم کی دھاری ہو اور دھاری کی چوڑائی تین چار انگل سے زیادہ نہ ہو تو مردوں کے لئے پہننا جائز ہے اور سوال نامہ میں جس دھاری کا ذکر ہے وہ بہت باریک دھاری ہے؛ اس لئے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے؛ لیکن متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لئے شوار اور فیشن والے کپڑے پہننا غیر مناسب اور ان کے تقویٰ کے خلاف ہے، جیسا کہ وارد ہے۔ ”حسنات الأبرار سیات المقربین“ کہ بعض دفعہ اچھے لوگوں کے نیک کام بہت قریبی اور اونچے مقام لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہوتے ہیں۔

ومقتضاهُ حل الثوب المنقوش بالحریر تطریرا ونسجا إذا لم تبلغ کل واحدة من نقوشه أربع أصابع، وإن زادت بالجمع مالم یر کله حریرا۔

(شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، کراچی ۶/۳۵۲، زکریا ۹/۵۰۷)

یحرم لبس الحریر علی الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع. (شامی،

کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس ۶/۳۵۱، زکریا ۲/۵۰۶)

عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر، ونحن بآذربيجان، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس الحرير إلا هكذا و صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة. (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز

منہ ۲/۸۶۷، رقم: ۵۶۰۰، ف: ۵۸۲۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۷/ذی الحجہ ۱۴۳۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۴۳/۳۹)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۷/۱۱/۱۴۳۲ھ

چوری کے کپڑوں میں نماز پڑھنا

سوال [۲۷۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی نے چوری کے کپڑے پہن کر نماز ادا کی تو کیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟
 المستفتی: شبیر اختر بجنوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چوری کے کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔

ولوصلی فی ثوب حریر، أو ثوب مغصوب (إلی قوله) وعندنا یصح
 ویکرہ الخ (نفع المفتی والسائل ۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۸/ربیع الاول ۱۴۱۶ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۳۷۱/۳۲)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۳۸/۱۴۱۶ھ

سینٹ لگا کر نماز پڑھنے کا حکم

سوال [۲۷۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: سنا ہے کہ سینٹ لگا کر نماز نہیں ہوتی؛ کیونکہ اس میں الکل ملا ہوتا ہے اور الکل بہت مہنگا ہوتا ہے، سستے سینٹ میں نہیں ہوتا تو اگر ہم پچاس روپے سے کچھ

اوپر تک کا سینٹ لگا کر نماز پڑھیں تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد احمد شمس

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آج کل کے تمام عطریات و سینٹ میں اور دواؤں میں الکل کی آمیزش ہوتی ہے اور ہندوستان جیسے ممالک میں الکل انگور کی شراب کے علاوہ دیگر اشیاء مثلاً سبزی، غلہ، گنا وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے، جس میں ابتلاء عام کی وجہ سے حضرات شیخین امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق نجاست غلیظہ اور قطعی حرمت کا حکم نہیں ہے؛ بلکہ ایسی چیزوں سے تیار کردہ الکل کے حکم میں تخفیف ہے؛ اس لئے عطریات و سینٹ اور دواؤں میں الکل کے استعمال کی گنجائش ہے اور ہندوستان کے تیار کردہ سینٹ کو لگا کر نماز بھی درست ہو جائے گی۔ (ایضاح النوادر ۱/۲۵۷، ایضاح المسائل ۱۴۷، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۲۷۷/۶، جدیدزکریا ۱۵۷/۱۰)

وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب، والثمار، والألبان، وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة، وحكمها ما ذكره وأأن القليل: أي القدر غير المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوى على العبادة وحرام بقصد التلهي، والكثير: أي القدر المسكر منها حرام، وهذا مذهب الشيخين للأحناف. (العرف الشذي على هامش الترمذي، كتاب الأشربه، باب ما جاء في شارب الخمر ۷/۲)

وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية، والعمور، والمركات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب، أو التمر، فلا سبيل إلى حلتها، أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما، فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعماله للتداوي، أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد

الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذًا بقول أبي حنيفة. (تكملة فتح الملهم، كتاب الأشربة حكم الكحل المسكرة، اشرفية ديو بند ۳/۶۰۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۲/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۱۳۷)

سینٹ لگا کر نماز پڑھنے کا حکم

سوال [۲۷۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سینٹ لگانا اور لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتی: مظہر الحق قاسمی، تملنا ڈو

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سینٹ میں اگر کوئی نجس چیز نہ ہو تو یہ بھی عام عطر کے حکم میں ہے؛ لہذا اس کو لگانا اور لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۳۹۹/۱۵، جدید ڈائجسٹ ۱۹۲/۸، ایضاح المسائل ۱۴۷، ایضاح النوادر ۱۴۵/۱)

وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب، والثمار، والألبان، وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة، وحكمها ما ذكرنا أن القليل: أي القدر غير المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوي على العبادة وحرام بقصد التلهي، والكثير: أي القدر المسكر منها حرام، وهذا مذهب الشيخين للأحناف. (العرف الشذي على هامش الترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر ۲/۷)

وفي الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به..... وهو نص على ما يتخذ من الحنطة والشعير والعلس والذرة حلال،

عند أبي حنيفة ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه..... وعن محمد أنه حرام ويحد شاربه إذ سكر منه..... وكان أبو يوسف يقول: ما كان من الأشرية يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإنني أكرهه ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. (هداية، كتاب الأشرية، اشرفي ديوبند ۴/۴۹۶)

وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية، والعمطور، والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب، أو التمر، فلا سبيل إلى حلتها، أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما، فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعماله للتداوي، أو الأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي حنيفة. (تكملة فتح الملهم، كتاب الأشرية، حكم الكحول المسكرة، اشرفي ديوبند ۳/۶۰۸) فقط واللهم سبحانك وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۲/۱۴ھ

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۳۵/۳۳)

کیا داڑھی منڈانے کا گناہ نماز کے اندر بھی ہوتا ہے؟

سوال [۲۷۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہ بات صحیح ہے کہ داڑھی منڈوانے والے کو ہر وقت گناہ ہوتا ہے؛ جبکہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کیا نماز میں بھی اس کو گناہ ہوگا داڑھی صاف کرانے کی وجہ سے؟ قرآن واحادیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد یوسف رام نگر نبئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دائرہ منڈانے والے کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سے نماز کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، دوبارہ لوٹانا لازم نہیں ہے، مگر دائرہ منڈانے کی وجہ سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور کراہت کا گناہ نماز سے باہر اور نماز کے اندر ہر حال

میں ہوتا رہتا ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۲۶۰)

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ

۱۴۱۶/۶/۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۹۱/۳۳)

سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۳۸-۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ سونے کی انگوٹھی پہن کر مردوں کو نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب، غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴/۱۱۰)

عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما، قال أمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم..... ونهانا عن تختم الذهب الحدیث (صحیح البخاری کتاب الاستبراء، باب إفشاء السلام ۲/۹۲۱، رقم: ۵۹۹۴، ف: ۶۲۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ صفر المظفر ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۴۴۲۳)

تصویروں کی آمدنی سے گزارہ کرنے والے کی نماز کا حکم

سوال [۲۷۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تصویر سازی کی آمدنی سے گزارہ کرنے والے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
المستفتی: عبدالقادر پشاکر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح کے آدمی سے مسلمانوں کو بچنا چاہئے؛ لیکن اگر کوئی اس آمدنی سے اپنا گزارا کرتا ہے، تو نماز و روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا؛ البتہ قبولیت کا علم اللہ کو ہے۔

عن سعید بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: أدن مني، فدنا منه..... حتى وضع يده على رأسه: قال: انبثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم، وقال: إن كنت لا بد فلانا فاصنع الشجر وما لا نفس له. (صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، النسخة الهندية ۲/۲۰۲، بيت الأفكار رقم: ۲۱۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۱/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: رجسٹر خاص)

سوڈی رقم کے ذریعہ لگائے ہوئے نل سے وضو کر کے نماز پڑھنا

سوال [۲۷۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ سرکاری زمین میں مسجد کے سامنے مقتدیوں نے سود کی رقم سے نل لگوا یا عوام الناس کے لئے، اب مسجد کے سامنے ہونے کی وجہ سے لوگ اسی نل سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز صحیح ہو جائے گی یا کچھ اثر پڑے گا؟

المستفتی: محمد احمد مدرسہ اسلامیہ بشیر یہ سکر ہٹ، بھوچپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سود کے پیسے سے نل لگانا جائز نہیں ہے اور جس نے یہ عمل کیا ہے اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا اور جب اس نل میں سے لوگ پانی بھرتے رہیں گے، اس شخص کو بجائے ثواب کے گناہ ملتا رہے گا؛ اس لئے کہ اس نے مال حرام سے ثواب کا ارادہ کیا ہے اور یہ خطرناک قسم کا گناہ ہے۔

رجل دفع إلى الفقير من المال الحرام شيئاً يرجو به الثواب يكفر، قال الشامي: مثله فيما يظهر لوبنى من المال الحرام بعينه مسجداً ونحوه. (شامی، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الغنم، مطلب في التصدق في المال الحرام، کراچی ۱۲۹۲/۲، زکریا ۲۱۹/۳)

اب اس سے نجات کی یہ شکل ہے کہ جتنا پیسہ اس میں خرچ کیا گیا ہے، اتنا پیسہ اسی کی نیت سے کسی بھی عنوان سے حکومت کو واپس کر دے اور اگر پرائیویٹ کمپنی سے سود لیا ہے یا کسی فرد سے سود لیا ہے، تو اس شخص کو یہ پیسہ واپس کر دے، اس کے بعد نل میں سے پانی بھرنا جائز ہو جائے گا۔ (مستفاد: بذل الحبوب و لکھنوی ۱۲۸۱، ایضاح المسائل ۱۳۲)

اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نمازی اس نل کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے ان کی نماز ہر حال میں بلا کراہت درست ہو جائے گی، نمازیوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۱۸/۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۶/۱۶ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۰۴/۳۳)

چوری کے کپڑوں میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم

سوال [۲۷۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ایک آدمی سے کپڑا خرید کر کرتا پانچامہ سلوا یا اور اس میں نماز بھی پڑھ لی، اب پتہ چلا ہے کہ وہ چوری کا تھا، تو آپ بتائیں کہ ان کپڑوں میں نماز ہوئی یا نہیں؟ اب ان کپڑوں کا کیا کریں؟

المستفتی: عبدالحق، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں اگر چوری کا محض شبہ ہے، تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں؛ بلکہ بلاشک و شبہ اس کپڑے کا استعمال درست ہے، اگر بعد میں چوری کا یقین ہو گیا تو ایسی صورت میں پڑھی گئی نمازیں تو درست ہو گئیں؛ لیکن اب علم ہونے کے بعد پہلے اس کپڑے کو اصل مالک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور مالک نہ ملنے کی صورت اپنے استعمال میں لانے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، ۳۵/۴)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة، فقد اشترك في عارها وإثمها. (شعب الإيمان، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمة، دارالكتب العلمية ۴/۳۸۹، رقم: ۵۵۰۰)

وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن شلبي، فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك. (شامي، كتاب البيوع، الباب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تعدد، کراچی ۵/۹۸، زکریا ۷/۳۰۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۴/۳۵)

نماز میں کھانسنے کا حکم

سوال [۲۷۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض نمازیوں کا مزاج بن گیا ہے نماز میں کھانسنے کا، یعنی ان کو عذر کوئی نہیں ہے، بس بار بار کھانسنے کی عادت بنالی، کیا اس طرح نماز میں کھانسنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد اصغر سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کھانسی کی دو قسمیں ہیں: (۱) غیر اختیاری کھانسی (۲) اختیاری کھانسی، عام طور پر لوگوں کو غیر اختیاری طور پر ہی کھانسی آتی ہے اور اختیاری کھانسی یہ ہے کہ تکلف کھانا ساجائے؛ جبکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع مقصود ہوتا ہے۔ نیز یہ بات بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں حسن ظن ہی بہتر ہے؛ لہذا اگر کوئی شخص نماز میں کھانس رہا ہے تو اس کے متعلق یہ گمان کرنا چاہئے کہ یہ شخص غیر اختیاری ہی کھانس رہا ہوگا اور غیر اختیاری طور پر کھانسنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔

سوال نامہ میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ نماز میں کھانسنے کی عادت بنالی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے باہر نہیں کھانتا ہے، صاحب کھانسی سے اس سلسلہ میں تحقیق کر لی جائے کہ وہ کیسا کھانتا ہے، ہاں البتہ جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکنے کی کوشش کرنا ہر نمازی کی ذمہ داری ہے، فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بالقصد و تکلف کھانسنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور فاسد بھی ہو سکتی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن من حسن العبادة. (مسند أحمد ۲/۲۹۷، ۷۹۴۳، سنن أبي داؤد، الأدب، باب في حسن الظن، النسخة الهندية، دارالسلام رقم: ۴۹۹۳، صحيح ابن حبان دارالفکر ۱۰/۱، رقم: ۶۳۰)

ویکره السعال والتشنج قصداً، وإن كان مدفوعاً إليه لا يكره. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره ۱/۱۰۷، جديد زكريا ۱/۱۶۵)

ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزاً عن المفسد، فإنه إذا كان بغير عذر يفسد. (حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، فصل عن آدابها، دار للكتاب ديوبند جديد ۲۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۳۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۴۰/۳۸)

دوران نماز بلغم آجائے تو کیا کریں؟

سوال [۲۷۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کے درمیان منہ میں بلغم آ گیا اس بلغم کو کہاں پھینکا جائے او بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بلغم کے آنے سے وضو جاتا رہتا ہے؛ کیونکہ بلغم خون سے بنا ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: ضیاء الدین امام مسجد گلاب باڑی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کے درمیان منہ میں بلغم آجائے تو اس کو اپنے کپڑے سے صاف کر لے۔

ولایزق علی حیطان المسجد ولا بین یدیه علی الحصى ولا فوق البواری ولا تحتها، وكذا المخاط؛ ولكن يأخذ بثوبه. (عالمگیری، کتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره، زكريا ۱/۱۱۰، زكريا جديد ۱/۱۶۹)

اور بلغم میں اگر معمولی سا جما ہوا خون آجائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔
 أنه أما أن يكون من الرأس، أو من الجوف علقا، أو سائلا، فالنازل من
 الرأس إن علقا لم ينقض اتفاقا. (شامی، کتاب الطہارۃ، کراچی ۱/۱۳۷،
 زکریا ۱/۲۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷/۷ جب المرجب ۱۴۲۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰۶/۲۲۵)

اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم

سوال [۲۷۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں بھی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عشاء کی نماز میں فرض باہر محن میں پڑھ کر چند نمازی اندر مسجد میں چلے گئے بجلی سے سنبھلے چل رہے تھے، ایک آدمی نے بلب بند کر دئے کہ سنبھلے اور بھی زیادہ رفتار سے چلیں گے، اب اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوگی، دوسرے نے کہا کہ اندھیرے میں صرف فرض نماز نہیں ہوگی اور نفل سنت وغیرہ ہو جائیں گی، شرعی کیا حکم ہے؟

المستفتی: ظریف احمد، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبلہ رخ صحیح ہو تو فرض، نفل سب نمازیں بلا کراہت

اندھیرے میں جائز اور درست ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۲۵۷، جدید ڈائجیل ۶/۶۸۴)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
 أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي
 في قبلة، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، قالت:

والبیوت یومئذٍ لیس فیہا مصابیح . (صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب التطوع خلف المرأة، ۲۳/۱، رقم: ۵۰۷، ف: ۵۱۳)

رجل صلی فی المسجد فی لیلة مظلمة بالتحرى فتبین، أنه صلی إلى غیر القبلة، جازت صلواته، لأنه لیس علیه أن یقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة. (ہندیہ، الباب الثالث فی استقبال القبلة، زکریا قدیم ۱/۶۴، زکریا جدید ۱/۲۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۹۰۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵/۳/۱۱ھ

جنازہ سامنے ہوتے ہوئے فرض نماز پڑھنا

سوال [۲۷۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جنازہ سامنے رکھ کر فرض نماز پڑھنا اور جنازہ کے سامنے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ ان امور کا شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں؟

المستفتی: صفدر حسین، محلہ باغ بہادر گنج مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جنازہ رکھنے کے لئے اگر کوئی جگہ موجود ہے، تو نمازیوں کے سامنے جنازہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور رکھنے کی سخت ضرورت ہے، تو امام کے سامنے جنازہ نہ رکھے؛ بلکہ اس سے ہٹا کر رکھے اور بہتر یہ ہے کہ جہاں جنازہ رکھا گیا ہو وہاں پر پردہ ڈال دے یا نمازیوں سے پیچھے رکھ دے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳۱/۱، احسن الفتاویٰ ۲۱۵/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۶۳۹)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۵/۱۵ھ

چشمہ لگا کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چشمہ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد تکی، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جن لوگوں کو چشمہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لئے چشمہ لگا کر نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کراہت نہیں بلا کراہت ان کی نماز ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے محض شوقیہ چشمہ لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لئے نماز کی حالت میں بے ضرورت چشمہ لگانا مکروہ ہے؛ اس لئے کہ یہ نماز کی حالت میں نفل عبث ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ مع حاشیہ ۴۳۹۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲/۷/۲۲

(الف فتویٰ نمبر: ۷۳۳۲/۳۶)

جلتے چراغ کے سامنے نماز پڑھنا

سوال [۲۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں بجلی چلی جائے اور اندھیرا ہو جائے، تو ایسی صورت میں مصلیان کے آگے چراغ جلا کر نماز ادا کرنا چراغ جلنے کی صورت یہ ہے کہ نمازیوں کے سامنے ہے اور ڈیڑھ یا دو فٹ اونچائی پر ہے، تو صورت مذکورہ میں؛ جبکہ روشن آگ مصلیان کے روبرو ہے نماز کی ادائیگی درست ہے یا نہیں؟ بالتفصیل جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: غیور عالم محلہ بقیہ مراد آباد (پو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد میں بجلی چلی جانے کی صورت میں چراغ جلا کر نماز ادا کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے؛ لہذا چراغ سامنے ہونے کی وجہ سے کوئی کراہت نہیں لازم آئے گی؛ البتہ بغل میں جلانا زیادہ بہتر ہے۔

قوله شمع، أو سراج لأنهما لا يعبدان والكراهة باعتبارها إنما يعبدها المحسوس إذا كانت في الكانون وفيها الجمر، أو في التنور فلا يكره التوجه إليها على غير هذا الوجه وذكر في غاية البيان اختلاف المشايخ في التوجه إلى الشمع، أو السراج والمختار أنه لا يكره وينبغي أن يكون عدم الكراهة متفقا عليه فيما إذا كان الشمع على جانبه .
(بحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، كوئنه ۲/۳۲، زكريا قديم ۲/۵۶)

ولو توجه إلى قنديل، أو إلى سراج لم يكره، كذا في محيط السرخسي، وهو الأصح، كذا في خزنة الفتاوى. (الفتاوى العالمگیری، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره، زكريا ۱/۱۰۸)

وفي الحجة: إذا صلى وبين يديه سراج يضيء، فلا بأس به، والأولى أن لا يواجهه. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان ما يكره للمصلي وما لا يكره جديد زكريا ۲/۲۱۰، رقم: ۲۱۹۰) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/۵۹۶۷)

امام صاحب کا سجدہ سے مقتدیوں کے بعد کھڑا ہونا

سوال [۴۹/۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام صاحب کو پیروں کی تکلیف کی وجہ سے سجدہ سے کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ تمام مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب بعد میں کھڑے ہوتے ہیں، مقتدیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو امامت کے اہل ہیں، ایسی حالت میں ان امام صاحب کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں اور ان امام صاحب کے لئے کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد فضل اللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی حالت میں امام و مقتدی دونوں کی نمازیں بلا کراہت درست ہیں؛ البتہ امام صاحب کو اختیار ہے کہ کسی اچھے آدمی کو نماز کے لئے آگے کر دیں۔

عن عبيد الله بن عبد الله، قال: دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بلى -إلى- فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب إبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلوة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلوة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، الحديث (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ومرض وسفر، النسخة الهندية ۱۷۷/۱-۱۷۸، بيت الأفكار رقم: ۴۱۸)

ويصلى القائم خلف القاعد الخ (هداية، كتاب الصلاة، باب

الإمامة، اشرفي ۱۲۷/۱)

وإذا كان الإمام يصلى قاعدا بركوع وسجود، وخلفه قوم يصلون قياما بركوع وسجود، القياس أن لا تجوز صلاة القوم، وبه أخذ محمد رحمه الله وفي الظهيرية: الفرض، والنفل سواء، وفي الاستحسان، تجوز صلوة القوم، وهو قولهما. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة،

الفصل السادس في بيان من يصلح اما ما لغيره ومن لا يصلح، جديد زكريا ۲/ ۲۵۴،
رقم: ۲۳۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ صفر لمظفر ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۲۴/۳۴)

دوران نماز پا عجامہ کا ٹخنے سے نیچے رہنا

سوال [۲۷۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی سے سہو آیا عمد نماز میں تہ بند یا پا عجامہ ٹخنے سے نیچے رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟

المستفتی: ماسٹر سکندر علی رحمت گنج پٹنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عمد پا جامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے ہونا نماز کے باہر بھی گناہ کبیرہ ہے اور نماز کے اندر بھی گناہ کبیرہ ہے اور نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے، مگر اعادہ کی ضرورت نہیں، سہو اور بھول سے نیچے ہونے کی صورت میں کوئی گناہ اور کراہت نہیں ہے؛ لیکن یاد آتے ہی فوراً اوپر کرنا لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، زکریا ۴/۱۲۷، رجیمیہ قدیم ۷/۲۸۱، جدید زکریا ۵/۱۴۴، محمودیہ قدیم ۷/۱۴۱، جدید ڈا بھیل ۶/۶۵۴)

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين ففي النار ۲/ ۸۶۱، رقم: ۵۵۵۹، ف: ۵۷۸۷)

أن النهي يختص بما كان للخيلاء فلا ذم إلا ممن قصد الخيلاء.
(ارشاد الساري حديث: ۵۷۸۵، ۱۲/ ۵۹۱)

وفإن كان أجنبيا من الصلوة وليس فيه تميم لها ولا دفع ضرر فهو

مکروہ ایضا کالعبث بالثوب، أو البدن وکل ما یشغل القلب، وکذا ما هو من عادة أهل التكبر. (طحطاوی علی المراقی، کتاب الصلاة، فصل فی المکروهات جدید دارالکتاب دیوبند ۴/۳۴، قدیم ۱۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۲/۲۴ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۹۵۰۳۶)

نماز میں ٹخنہ سے اوپر تک پتلون کو موڑ لینا

سوال [۲۷۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ پتلون پہن کر اور شرائط نماز پوری کر کے پتلون کو ٹخنہ تک موڑ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اگر نماز ہو جاتی ہے تو کوئی کمی تو نہیں آتی؟

المستفتی: سراج خاں، محلہ مانپور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹخنہ سے نیچے پتلون پہننا حرام اور گناہ کبیرہ ہے

چاہے خارج صلوة ہو یا داخل صلوة ہر حال میں حرام ہے؛ لیکن جب اس کو ٹخنہ سے اوپر تک موڑ دیا جائے گا تو لٹکانے کے حکم میں باقی نہیں رہے گا اور جتنی دیر کے لئے لٹکا یا جائے گا اتنی دیر گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے گا؛ لہذا جب نماز میں داخل ہونے سے قبل موڑ کر ٹخنہ سے اوپر کر لیتا ہے اور اسی حالت میں نماز مکمل کر لیتا ہے، تو نماز مکروہ نہ ہوگی؛ اس لئے کہ موڑ دینے سے لٹکانے کا حکم باقی نہیں رہتا ہے۔

عن أبي ذرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله

يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف والفاجر، والمسبل إزاره. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحريم

اسبال الإزار، النسخة الهندية ۷۱/۱، بیت الأفكار رقم: ۱۰۶)

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم، المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحديث وتحتة في النووي المسبل إزاره فمعناه المرخي له الخ (نووي ۷۱/۱)

وينبغي أن يكون الإزار فوق الكعبين الخ. (هندية، كتاب الكراهة، الباب التاسع في اللبس، زكريا ۳۳۳/۵) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶/صفر المظفر ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۵۲/۳۱)

ٹخنہ سے نیچے لٹکنے والی پینٹ کو موڑ کر نماز ادا کرنا

سوال [۲۷۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض لوگ ٹخنوں سے نیچے تک پینٹ پہنتے ہیں اور نماز کے وقت پینٹ کو موڑ کر ٹخنہ کھول لیتے ہے، تو اس طرح پینٹ کو موڑ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟
المستفتی: شجاع الحسین، محلہ سارے گلزاری مل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹخنہ سے نیچے لٹکنے والے پاجامہ اور پینٹ کے پانچھ کو موڑ کر اوپر کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے تو نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، چاہے اندر کی طرف سے موڑ لیا جائے یا باہر کی طرف سے بہر صورت کراہت ختم ہو جائے گی؛ لیکن نماز کے بعد دوبارہ لٹکا دیا جاتا ہے؛ اس لئے ایسا لباس پہننا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

عن أبي ذرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم،..... قال: المسبل،

والمندان، والمنفق سلعتہ بالحلف الكاذب. وفي رواية والمسبل إزاره الحديث. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الإزار، النسخة الهندية ۱/۷۱، بيت الأفكار رقم: ۱۰۷)

عن أبي هريرة^{رض}، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ما أسفل من الكعبين ففي النار ۲/۸۶۱، رقم: ۵۵۵۹، ف: ۵۷۸۷)

وينبغي أن يكون الإزار فوق الكعبين. (هندية، كتاب الكراهة، الباب التاسع في اللبس، زكريا ۵/۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷/صفر المنظر ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۴۳۵۹)

ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا پتلون ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا

سوال [۲۷۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کے لئے پاجامہ اور پتلون وغیرہ کا ٹخنے کھولنے کے لئے موڑنا کیسا ہے؟
المستفتی: عبدالمعید قاسمی ہلدوانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ پہننا نماز اور خارج نماز دونوں میں ناجائز حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے؛ لہذا پاجامہ پتلون وغیرہ کا ٹخنہ کھولنے کے لئے موڑنا لازم اور ضروری ہے اور موڑنے سے بدبیت معلوم ہوتا ہے؛ اس لئے پہلے ہی سے اتنا لمبانہ بنائے کہ موڑنے کی ضرورت پیش آجائے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۲۸۶/۷، جدید زکریا ۱۴۴/۵)

عن أبي ذرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، قلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فأعادها ثلاثاً، قلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال: المسبل، والمنان، والمنفق. (ابو داؤد شريف، كتاب اللباس، باب ماجاء في الاسباب الإزار، النسخة الهندية ۵/۲، ۵۶۵، دارالسلام رقم: ۴۰۸۷)

عن أبي ذرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم،..... قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعتة بالحلف الكاذب. وفي رواية والمسبل إزاره الحديث. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحريم اسباب الإزار، النسخة الهندية ۱/۷۱، بيت الأفكار رقم: ۱۰۷)

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ما أسفل من الكعبين ففي النار ۲/۸۶۱، رقم: ۵۵۵۹، ف: ۵۷۸۷) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ
الف فتویٰ نمبر: ۶۴۶۲/۳۳

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵/۱/۱۴۲۱ھ

ٹخنوں سے نیچے پاؤں یا پتلون ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا

سوال [۲۷۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں ٹخنوں تک پاؤں یا پتلون ہونے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے نماز درست ہوگی یا نہیں؟

المسئفتی: اشرف علی اسلامیہ جو نیر ہائی اسکول، شاہ آباد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹخنوں سے نیچے پاؤں یا پتلون وغیرہ پہننا نماز

اور خارج نماز دونوں میں ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اس حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔
(مستفاد: امداد الاحکام ۱/۷۹۲، احسن الفتاویٰ ۳/۴۰۴)

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

إن الله لا يقبل صلوة رجل مسبل . (ابوداؤد شریف، کتاب اللباس، باب

سبب الإزار، النسخة الهندية ۲/۵۶۵، بيت الأفكار رقم: ۴۰۸۶)

عن أبي ذرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، قلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فأعادها ثلاثاً، قلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا، قال: المسبل، والمنان، والمنفق، سلعة بالحلّف الكاذب، أو الفاجر. (ابوداؤد شریف، کتاب اللباس، باب ماجاء في الاسباب الإزار، النسخة الهندية ۲/۵۶۵، دار السلام رقم: ۴۰۸۷، مسلم شریف، کتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الإزار، النسخة الهندية ۱/۷۱۱، بيت الأفكار رقم: ۱۰۷) فقط واللّه سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۱/۱۸ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۴۳۸/۳۳)

ٹخنے سے نیچے والے پانچ جامہ کو اوپر چڑھا کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ پینٹ کی مہری ٹخنوں سے نیچے ہونے کی بناء پر اس کو ٹخنے سے اوپر رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی خرابی آتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: غفران الرحمن، محلّہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹخنہ سے نیچے تک مہری والی پینٹ پہننا حرام ہے، اس کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کو کاٹ دینا واجب ہے؛ اگر چھوٹی کرنے سے قبل اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اوپر کوالٹ لینا لازم ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔

إن اللہ تعالیٰ لا یقبل صلوة رجل مسبل. (ابوداؤد شریف، کتاب اللباس،

باب ماجاء فی اسبال الإزار، النسخة الهندیة ۲/ ۵۶۵، بیت الأفكار رقم: ۴۰۸۶)

عن أبی ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما أسفل

من الکعبین من الإزار فی النار. (صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب ما أسفل من

الکعبین فی النار ۲/ ۸۶۱، رقم: ۵۵۵۹، ف: ۵۷۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ ذی الحجہ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۵۳۲۲۵)

بٹن کھول کر آستین موڑ کر، چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ بٹن کھول کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو کیوں؟ اگر درست نہیں ہے تو کس وجہ سے؟

(۲) آستین موڑ کر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے مع حوالہ تفصیلات کے جواب

دیں، اگر نہیں ہوتی ہے تو کس بنیاد پر؟

(۳) چین والی گھڑی ہاتھ میں باندھے ہوئے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

کیا یہ حالت نماز میں جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر کبھی اتفاقی یا شدت گرمی کی وجہ سے بیٹن اور گریبان کھول کر نماز پڑھی جائے تو بلا کراہت نماز درست ہے؛ اس لئے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے؛ البتہ مستقل نہ کیا جائے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۰۹/۵، جدید ڈابھیل ۶۱/۶۵)

معاویہ بن قرۃ..... وإن قمیصہ لمطلق الأزرار. الحدیث (ابو داؤد شریف، کتاب اللباس، باب فی حل الأزرار، النسخة الهندیة ۲/۵۶۴، دار السلام رقم: ۴۰۸۲، بذل المحمود، مطبع سہارنپور ۵۲/۵)

(۲) آستین موڑ کر نماز صحیح ہو جاتی ہے؛ البتہ اس طرح نماز مکروہ ہوتی ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۲۰۶، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۵۲/۲، جدید ڈابھیل ۶۱/۶۵)

الاستفسار صلی رافعاً کمی قمیصہ الی المرفقین هل تجوز الصلوة الاستبشار، نعم؛ لكن یکره کذا فی قاضیخان الخ (نفع المفتی والسائل ۸۵) و کره کفه: أي رفعه ولو لتراب کمشمر کم، أو ذیل الخ (الدر المختار، باب ما یفسد الصلوة، مطلب فی کراهة التخریمة والتنزیہة، زکریا ۲/۴۰۶، کراچی ۱/۶۴۰)

(۳) چین والی گھڑی باندھ کر نماز درست ہو جاتی ہے۔ (فتاویٰ احیاء العلوم ۱/۲۵۸) بقی الکلام فی بند الساعة الذي تربط به ویعلقه الرجل بزرتوبه والظاهر أنه کبند السبحة الذي تربط به الخ (شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللباس، زکریا ۹/۵۱۰، کراچی ۶/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: رجسٹر خاص)
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵/۱۱/۱۴۱۸ھ

آستین اور گریبان کا بیٹن کھلا رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ نماز کے اندر جو حضرات آستین اور گریبان کا بٹن کھلا رکھتے ہیں یا پانچامہ کی مہری موڑ لیتے ہیں اور پینٹ کے اندر شرٹ کو ڈال لیتے ہیں اور بیلٹ لگا لیتے ہیں، اور سیدھے پاؤں کا انگوٹھہ ایک جگہ پر نہیں رکھتے اس کا کیا حکم ہے؟ اور کتنی مقدار میں دونوں پاؤں کے درمیان گنجائش رکھنی چاہئے کچھ لوگ ایک بالشت سے زائد پاؤں کھول دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد حبیب اللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں کہنی تک آستین چڑھانا مکروہ ہے۔

(فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۶۳/۱۰، جدید ڈبھیل ۶۵۱/۶، کفایت المفتی قدیم ۳۸۲/۳، جدید زکریا مطول ۴۵۰/۴)

ولو صلى رافعاً كميه إلى المرفقين كره. (هندية، كتاب الصلاة، باب

ما يفسد الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره وفيما لا يكره، زكريا ۱/۱۰۶، ۱۰۶، جديد زكريا

ديوبند ۱/۱۶۵ شامي، زكريا ۲/۴۰۶، ۴۰۶، كراچی ۱/۶۴۰، باب ما يفسد الصلاة، مطلب

في كراهة التحريمه والتنزيهية)

نماز میں گریبان کھلا رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۷۸/۱۰، جدید

ڈبھیل ۶۵۵/۶، کفایت المفتی قدیم ۳۸۲/۳، جدید زکریا ۴۲۸/۳)

ٹخنوں سے نیچے پانچامہ ازار لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے؛ لہذا پانچے موڑ لینا

ضروری ہے، خارج نماز بھی یہی حکم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۲۸۲/۷، جدید زکریا ۱۴۴/۵،

فتاویٰ دارالعلوم ۴/۱۲۷)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن السدل في

الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. (ابوداؤد شريف، كتاب الصلاة، باب السدل في الصلاة،

النسخة الهندية ۹۴، دارالسلام رقم: ۶۴۳)

پینٹ میں بیلٹ ڈال لینے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی؛ لیکن نماز کے وقت شرٹ،

پینٹ سے باہر نکال لے تو بہتر ہے، نماز میں دائیں پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴/۲۹)

مشی مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف، ثم وقف قدر ركن، ثم مشی ووقف كذلك، هكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان. (در مختار علی الشامی، باب ما یفسد الصلاة، مطلب فی المشی فی الصلاة، کراچی ۱/۶۲۷، زکریا ۲/۳۸۸) نماز میں بحالت قیام دونوں پیروں کے درمیان ۴/۲ انگل فاصلہ رکھنا مستحب ہے؛ لیکن کسی نے ایک بالشت یا اس سے زائد فاصلہ رکھا تب بھی نماز صحیح ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۶/۳۱۰، جدید ۱/۵۷۶)

وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، لأنه أقرب إلى الخشوع. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث القيام، کراچی ۱/۴۴۴، زکریا ۲/۱۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶/رجب المرجب ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۶۹/۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۷/۱۴۱۹ھ

آستین چڑھا کر گریبان کھول کر اور پا عجامہ موڑ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص آستین چڑھا کر اور گریبان کھول کر اور نیچے سے پا عجامہ موڑ کر نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا کچھ کمی ہوگی؟

المستفتی: عبدالودود، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آستین چڑھا کر نماز پڑھنے سے گوکہ نماز ہو جاتی ہے؛

لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔

ولو صلى رافعا كميته إلى المرفقين كره. (هنديّة، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، زكريا ۱۰۶/۱، جديد زكريا ديوبند ۳۶۵/۱، شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، مطلب في كراهة التحريمه والتنزيهه، كراچی ۱/۶۴۰، زكريا ۲/۴۰۶)

(۲) گریبان کھول کر نماز پڑھنا چونکہ سنت سے ثابت ہے، حتیٰ کہ حضرات صحابہؓ سے حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے نے آپ ﷺ کے اس عمل کو ازراہ محبت لازم پکڑ لیا؛ اس لئے کہ اگر کوئی گریبان کھول کر نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، تاہم پھر بھی بٹن لگا کر نماز پڑھنا اولیٰ و افضل ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۰۹/۵، ۲۷۸/۱۰، ۳۳۲/۱۶، ۳۳۲/۲، ۲۳۲/۲، جدید ڈائجیل ۶۵۴/۶، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷)

أخبرنا معاوية بن قرة نا أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال: عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتا ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. (ابوداؤد شريف، كتاب اللباس، باب في حل الأزرار، النسخة الهندية، ۵۶۴/۲، دارالسلام رقم: ۴۰۸۲)

وهذا إن كان اختيارا لما هو خلاف الأولى خصوصا في الصلاة؛ لكنهما احب أن يكون على ما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان اطلاقه أزراره إذا ذلك لعارض ولم يكن من عامة أحواله صلى الله عليه ولم وذلك لما فيه من قلة المبالاة بأمر الصلاة، إلا أن الكراهة لعلها لاتبقي في حق معاوية وابنه، لكون الباعث لهما حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإتباعه فيما رأياه من الكيفية. (بذل المجهود، كتاب اللباس، باب في حل الأزرار، ۵۲/۵، مطبع سهارنپور)

(۳) ٹخنہ سے نیچا پائے جامہ پہننا مردوں کے لئے ہر حالت میں ممنوع ہے؛ حدیث شریف میں اس پر سخت ترین وعید آئی ہے، اس سے ہر حال میں اجتناب لازم ہے، اگر پائے جامہ کی مہری بڑی ہونے کی وجہ سے نماز کے وقت اوپر چڑھا لیتا ہے تو اس نماز بھی درست ہو جائے گی۔

عن أبي هريرة رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ما أسفل من الكعبين ففي النار ۸۶۱/۲، رقم: ۵۵۵۹، ف: ۵۷۸۷، مشکوة شریف ۳۷۳)

و كرهه سدل ثوبه: أي إرساله بلا لبس معتاد. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، كراچی ۱/۶۳۸، زكريا ۲/۴۰۵)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۲۰۳۰۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲ھ/۷/۲

کیا آستین کے کف پلٹنے سے نماز نہیں ہوتی؟

سوال [۲۷۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب کا کہنا ہے کہ آستین کے کف پلٹنے سے نماز نہیں ہوتی اور چین کی گھڑی باندھنے سے نماز نہیں ہوتی یہ بات درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالقادر قریشی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آستین اتنی اوپر تک چڑھائی ہیں کہ کہنیاں نظر آنے لگی ہیں، تو ایسی حالت میں نماز شروع کرنا مکروہ ہے اور کہنیوں کے نظر نہ آنے کی

صورت میں نماز بلا کراہت جائز ہے، امام صاحب کا یہ کہنا کہ صرف کف پلٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے اور نہ کسی فقہی کتب میں موجود ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۴۰۶/۳، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۳۷۲/۴، جدید زکریا ۱۰۸/۵)

ولو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره الخ (عالمگیری، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره، زكريا ۱۰۶/۱، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۶۵، مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات قديم ۱۹۲، جدید دارالكتاب دیوبند ۳۴۹)

وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية، بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين، وظاهره أنه لا يكره إلى مادونها. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، زكريا ۲/۴۰۶، کراچی ۱/۶۴۰) چین دارگھڑی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۲/۴۱۴، جدید زکریا ۱۰۵/۱۵۵)

بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزثره، والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ۹/۵۱۰، کراچی ۶/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ رجب المرجب ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۵۴)

نیکر پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مرد یا عورت کو تہ بند یا شلوار کے نیچے نیکر پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتی: حافظ مقصود احمد انصاری، سکڑا، ڈھکوتی، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر نیکر پاک ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی علت عدم جواز کی نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۴۳۲/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۶۹۳)

چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چین والی گھڑی کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد حنیف شاہ جہاں پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اسٹیل وغیرہ کی چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا بلاکراہت درست ہے؛ البتہ اسٹیل کے بجائے چمڑے کی چین استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۲۷۶/۶، فتاویٰ احیاء العلوم ۲۵۸/۱)

ومنه يعلم حکم ما کثر السؤال منه من بند السبحة فليحفظ- إلى - بقى الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزر ثوبه، والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به تأمل. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، کراچی ۳۵۴/۶، زکریا ۵۱۰/۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۱۲۵۸)

مرد عورت کا چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: چین کی گھڑی باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا مرد اور عورت کے لئے ایک ہی حکم ہے پچھلی نمازیں جو چین کی گھڑی پہن کر پڑھی ہیں وہ واجب الاعداء ہیں یا نہیں؟

المستفتی: لیتھ احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مرد اور عورت ہر ایک کے لئے چین والی گھڑی باندھ کر نماز پڑھنا درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں اور نہ چین والی گھڑی باندھ کر پڑھی گئی نمازوں کے اعادہ کی ضرورت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۰۰/۷)

بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به (إلى قوله) والظاهر كبند السبحة الذي تربط به. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ۵۱۰/۹، کراچی ۳۵۴/۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۷/۶/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ جمادی الثانیہ ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰/۴۹۰۷)

گھڑی پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عبداللہ، مہیلا تھانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چین جبکہ سونے، چاندی کی نہ ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا اور پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ (مستفاد: احیاء العلوم ۲۵۸/۱)

قلت ومنه يعلم حکم ما کثر السؤال عنه من بند السبحة، فليحفظ
 فقوله هو اللبس: أي ولو حکما كما في القنية استعمال اللحاف من
 الإبريسم لايجوز لأنه نوع لبس بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به
 ويعلقه الرجل بزر ثوبه، والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به تأمل مثله
 بسند المفاتيح وبنود الميزان الخ (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس،
 كراچی ۶/۳۵۴، زکریا ۹/۵۱۰، کوئٹہ ۵/۲۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۹/جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۷۷۵/۲۴)

تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا

سوال [۲۷۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
 بارے میں: کہ کسی جاندار کی تصویر اگر کپڑے میں بنی ہوئی ہو تو اس کپڑے سے نماز ہوگی یا نہیں؟
 المستفتی: شیم اختر بجنوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تصویر دار کپڑے میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔

(مستفاد: بہشتی زیور ۲۵/۲۸)

عن أنس[ؓ] قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي
 صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاویر تعرض
 في صلاتي. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوبه مصلب، أو تصاویر
 هل تفسد صلاته ۱/۵۴، رقم: ۳۷۲، ف: ۳۷۴)

و كذلك يكره الصلاة في ثوب فيه تصاویر. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة،

الفصل الرابع فيما يكره في الصلاة وما لا يكره المجلس العلمي جديد ۲/۱۳۹، رقم: ۱۴۲۱،

الفتاویٰ التاتار خانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره، قديم زكريا ۱/۱۰۷، جديد زكريا ۲/۳۰۳، رقم: ۲۱۷۹، هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره زكريا ۱/۱۰۷، جديد ۱/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۶/۳/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۷۱/۳۲)

عورت کا جاندار کی تصویر والا ہار پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی عورت نے گلٹ کے سکوں کے ہار بنائے؛ حالانکہ اس گلٹ کے اندر شبیر یا کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس ہار کو گلے میں پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟
المستفتی: شبیر اختر بجنوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس ہار کے ساتھ نماز مکروہ ہوگی۔
(مستفاد: بہشتی زیور ۲/۲۵)

وكذلك يكره الصلاة في ثوب فيه تصاویر. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، المجلس العلمي جديد ۲/۱۳۹، رقم: ۱۴۲۱)

وصورة حيوان في ثوبه. (شرح النقاہ، كتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، اعزازه ديوبند ۱/۹۵، شرح وقايہ، كتاب الصلاة، باب ما تفسد الصلاة، وما يكره فيها، اشرفي ۱/۱۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۶/۳/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۷۱/۳۲)

زنجیر والے بٹن لگا کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زنجیر والے بٹن کو لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل تشریح فرمائیں بہت کرم ہوگا۔

المستفتی: محمد حنیف جلال نگر شاہجہاں پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زنجیر والے بٹن کے سلسلہ میں کوئی صریح جزئیہ نظر سے نہیں گذرا؛ البتہ اصول و نظائر سے اس کی حرمت کی نفی ثابت ہوتی ہے؛ اس لئے اس کے ساتھ نماز بلا کراہت جائز و درست ہوگی؛ کیونکہ مرد کے لئے سونا چاندی اور دوسری دھاتوں کا پہننا ممنوع ہے اور بٹن، گھنٹی، زنجیر اور ہمیانی حلقے وغیرہ کو پہننے میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔

ولابأس بأزرار الذهب الخ (الدر المختار، کتاب الحظر والإباحة،

فصل في اللبس، زکریا ۹/۵۱۱، کراچی ۶/۳۵۵)

استعمال اللحاف من الإبريسم لایجوز، لأنه نوع لبس الخ (شلمی، کتاب

الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زکریا ۹/۵۱۰، کراچی ۶/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۵۸/۲۴)

دوران نماز سلوگن پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے

سوال [۲۷۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ آج کل ریڈی میڈ میصوں پر کچھ نہ کچھ سلوگن انگریزی میں چھپا ہوتا ہے، اگر اس سے پچھلی صف والا مقتدی اس عبارت کو پڑھ کر سمجھ لیتا ہے، تو کیا یہ عمل فعل کثیر میں نہ آئے گا اور نماز ناقص نہ ہو جائے گی؟

المستفتی: عبدالحق ہلدوانی نبئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پچھلی صف والے لوگ اگر اس لکھی ہوئی چیز کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں، تو نماز کراہت کے ساتھ درست ہو جاتی ہے؛ بشرطیکہ زبان سے اس کا تلفظ نہ کیا ہو۔

لنظر المصلي إلى مكتوب وفهمه سواء كان قرآناً، أو غيره قصد الاستفهام، أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام. (طحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، نص فيما لا يفسد الصلاة، دارالكتاب ديوبند جدید ۳۴۱)

ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ولو مستفهماً. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، زكريا ۳۹۷/۲، كراچی ۱/۶۳۴، ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة ۱/۱۰۱، جدید زكريا ديوبند ۱/۱۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۶/۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۰۶۳۹)

دوران نماز مسجد میں لٹکی ہوئی تسبیح پر نگاہ کا پڑنا

سوال [۲۷۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ آج کل اکثر مساجد میں کعبہ کے رخ پر جو دیوار ہے، اس پر پلاسٹک

یا اسٹیل کی چھوٹی کھونٹی پر تسبیح لٹکا دیتے ہیں نمازیوں میں جو صاحب چاہیں تسبیح اتار لیں اور ذکر کریں اور واپس ٹانگ دیں، زید کو اس پر کچھ ذہنی اشکال یہ ہے کہ کعبہ کے رخ پر اس طرح تسبیحوں کا لٹکانا یہ تسبیح کی بے ادبی تو نہیں، نماز میں پڑھتے وقت تسبیح کی طرف نگاہ جانے کا احتمال رہتا ہے، بہت سے لوگ تسبیح کو اس جگہ پُنج کر چلے جاتے ہیں، بہر حال اس بارے میں علماء و مفتیان کا کیا خیال ہے؟

المستفتی: محمد اسحاق بے پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کھونٹیوں پر تسبیح کے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ البتہ ذکر و اذکار کے بعد ان کو عظمت و احترام سے اپنی جگہ رکھ دیا جائے، ان کو پٹخنا درست نہیں اور نماز کے درمیان اگر ان تسبیحوں پر نگاہ پڑ جائے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۲۲/۸)

ولا یفسدھا نظره إلی مکتوب أو بین یدیه إلی حائط القبلة فی مسجد صغیر الخ (در مختار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، ما یکره فیہا،

کراچی ۱/۶۳۴، زکریا ۲/۳۹۷-۳۹۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲/۳/۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۱۴۹/۳۵)

پان کا ٹکڑا منہ میں لے کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ عمر پان کھاتا ہے پان کا ایک ٹکڑا ڈاڑھ کے نیچے رکھ کر نماز پڑھ لی

اور حلق میں کوئی چیز بھی نہیں گئی تو اس پان کی وجہ سے نماز میں کوئی کراہیت آئے گی یا نہیں؟ جبکہ پان میں کسی بھی طرح کی خوشبو اور بدبو بھی نہیں ہے۔

المستفتی: محمد فرحان، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عمر کی نماز بلا کراہت درست ہے، بشرطیکہ ڈاڑھ کے نیچے رکھے ہوئے پان کے ٹکڑے کا اثر حلق میں نہ گیا ہو اور اس کی وجہ سے قرأت وغیرہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی ہو۔

ولو صلى وفي فيه شيء يمسكه إن كان لا يمنعه من القراءة؛ ولكن يخل بها كدرهم، ودينار، أو لؤلؤة لا تفسد صلاته، لأنه لا يفوت شيء من الركن؛ ولكن يكره، لأنه يوجب الإخلال بالركن حتى لو كان لا يخلُّ به لا يكره. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، قبيل فصل في صلاة الخوف قديم، كراچی ۱/۲۴۲، زکریا ۱/۵۵۳)

ولا يصلي وفي فيه دراهم، أو دنانير لا يمنعه عن القراءة، وإن منعه عن القراءة لم تجز صلاته، وهكذا ذكر في بعض المواضع، وذكر في موضع آخر، إن منعه عن أداء الحروف تفسد الصلاة، وإن لم يمنعه عن عين القراءة، وإنما منعه عن سنة القراءة، لا تفسد صلاته؛ ولكن يكره له ذلك، وإن لم يمنعه شيئاً فلا بأس به. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ما يكره في الصلاة وما لا يكره، المجلس العلمي جديد ۲/۱۴۱، ۱۴۲، رقم: ۱۴۲۸، كوئٹہ ۱/۴۳، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما يكره للمصلي وما لا يكره، زکریا ۲/۲۰۶، رقم: ۲۱۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۳۹/۴۰)

منہ میں گولی رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے منہ میں ایک طرف زبان کے نیچے دواء کی گولی رکھ کر نماز پڑھی اور اس دواء کا کوئی اثر حلق میں نہیں گیا اور نہ ہی زید نے اس کو چبایا، نماز پڑھتے ہوئے کوئی دقت بھی نہیں ہوئی تو کیا زید کی نماز مکروہ ہوئی یا بلا کراہت جائز ہوئی؟

المستفتی: عبدالغفور، ٹانڈہ، راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے زبان کے نیچے دبی ہوئی گولی کو چبا یا نہیں اور اس کا اثر بھی حلق میں نہیں گیا تو زید کی نماز بلا کراہت درست ہوگئی، بشرطیکہ اس گولی کی وجہ سے قرأت وغیرہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو۔

ولو صلى وفي فيه شيء يمسكه، إن كان لا يمنعه من القراءة؛ ولكن يُخِلُّ بها كدرهم، أو دينار، أو لؤلؤة لا تفسد صلاته، لأنه لا يفوت شيء من الركن؛ ولكن يُكره، لأنه يوجب الإخلال بالركن حتى لو كان لا يخل به لا يكره. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، قبيل فصل في صلاة الخوف، قديم كراچی ۱/۲۴۲، زکریا ۱/۵۵۳، حاشیة چلپی علی تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها، مکتبہ امدادیہ ملتان قدیم ۱/۱۶۵، زکریا ۱/۴۱۲)

وإن صلى وفي فمه شيء يمسكه جازت صلاته، وهذا إذا كان في فمه درهم، أو دينار، أو لؤلؤة، على وجه لا يمنعه من القراءة، فإن كان يمنعه من القراءة لا تجوز صلاته، لأنه أكل. (المبسوط للسرخي، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، قبيل باب صلاة المريض، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۱۰) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۴۹/۲۰)

نئے جوتے پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۲۷۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نیا جوتا پہن کر مطلق نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث و قرآن کے ذریعہ فیصلہ فرمائیں۔
المستفتی: محمد واجد مرشد آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر جوتا یا چپل طاہر ہیں تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؛ لیکن بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ خالی پیر نماز ادا کی جائے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۲۹۶)
سعید بن زید الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة، في النعال ۱/۵۶، رقم: ۳۸۴، ف: ۳۸۶)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومتنعلاً. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة، في النعل، النسخة الهندية ۱/۹۶، دار السلام رقم: ۶۵۳، مسند البزار ۱/۹، رقم: ۳۵۱۲)
أما في زماننا ينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة النصارى، فإنهم يصلون متنعلين لا يخلعونها عن أرجلهم الخ (بذل المحجود، دار البشائر الإسلامية ۳/۵۹۹، مصري ۱/۴ ۳۲۱) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶/صفر/مظفر ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۶۴۳/۲۵)

کیا پلاسٹک کی چٹائی پر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟

سوال [۲۷۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایضاح المسائل میں تحریر ہے کہ چٹائی کی ٹوپیاں جو کہ مسجد میں رکھی جاتی ہیں اور ٹھہ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو کیا پلاسٹک کی چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالرشید، مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایضاح المسائل میں چٹائی کی ٹوپی میں نماز کو اس لئے مکروہ کہا گیا ہے، کہ اس ٹوپی کو پہن کر کسی معزز تقریب اور مجمع میں شرکت کرنے کو عیب محسوس کیا جاتا ہے، تو خدا کے دربار میں حاضری میں اس سے زیادہ عیب ہے اور پلاسٹک کی چٹائی کوئی انسان پہنتا نہیں؛ بلکہ اس پر بیٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے لیٹتا ہے اور اس پر بیٹھنا لیٹنا عیب نہیں ہے؛ اس لئے اس پر نماز پڑھنا بھی معیوب نہیں ہے؛ لہذا بلا کراہت اس پر نماز جائز ہے۔

أنس بن سیرینؓ، قال: سمعت أنس بن مالکؓ، يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيراً، ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير ۱/۹۲، رقم: ۶۶۱، ف: ۶۷۰)

عن أبي سعيدؓ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. (سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة على الحصير، النسخة الهندية ۱/۷۵، دار السلام رقم: ۳۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱۶/۲/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۴۳۲۵/۳۲)

گھڑی دیکھ کر رکعت کا تعین کرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

سوال [۲۷۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نمازی کے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہے، تیسری رکعت میں سہو ہو گیا کہ تین رکعت ہوئی یا چار، مگر گھڑی دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ تین رکعت ہو گئی؛ چونکہ وہ پانچ منٹ میں ۴ رکعت پڑھتا ہے، اسی اندازے پر اس نے تین رکعت ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو اس صورت میں نماز باقی رہی یا فاسد ہو گئی؟

المستفتی: محمد یونس جامع مسجد، احمد گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح دیکھنا مکروہ تحریمی ہے نماز فاسد نہ ہوگی۔

ویفسدھا نظره إلی مکتوب وفہمہ ولو مستفہما وإن کرہ الخ.

(در مختار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما ینکرہ فیہا، زکریا ۲/۳۹۷، کراچی ۱/۶۳۴)

ولو نظر إلی مکتوب وفہمہ، فالصیح أنه لا تفسد صلاتہ

بالإجماع. (ہدایہ، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما ینکرہ فیہا، اشرفی بکڈپو

دیوبند ۱/۱۳۸، حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب ما یفسد

الصلاة، دارالکتاب دیوبند جدید ۳۴۱، ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب السابع فیما

یفسد الصلاة، زکریا ۱/۱۰۱، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۶۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴/رجب المرجب ۱۴۱۳ھ

۲۴/۷/۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۵۸/۲۹)

کپڑے پر ایک درہم سے کم نجاست لگی ہو تو نماز کا حکم

سوال [۲۷۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے کپڑے پر نجاست بقدر معاف لگی ہوئی ہے، تو کیا اس میں بلا کراہت نماز درست ہے؟

المستفتی: محمد جاوید، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ایک درہم سے کم نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس سے نماز واجب الاعادہ تو نہیں ہوگی، مگر مکروہ ہو جائے گی۔

وعفا الشارع عن قدر درهم، وإن کره تحریماً، فیجب غسله (قال فی الشامی) أشار أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به (إلى قوله) ففي المحيط يكره أن يصلي ومعه قدر درهم، أو دونه من النجاسة عالمآبه لاختلاف الناس فيه. (شامی، کتاب الصلاة، باب الأنجاس، کراچی ۱/۳۱۷، زکریا ۱/۵۲۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۵/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۱۲۴/۴۰)

ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا

سوال [۳۷۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں یا مکروہ ہے اور اگر مکروہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی اور مسجد گھر اور تنہائی کا حکم یکساں ہے یا مختلف؟

المستفتی: وسیم اکرم مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا نماز میں اور جو حالت نماز کے تو اربع میں سے ہے، مثلاً نماز کے انتظار میں ہو یا مسجد کی طرف نماز کے لئے

چلتے ہوئے تو مکروہ تحریمی ہے اور خارج صلوٰۃ ضرورت کی وجہ سے ہو تو مکروہ نہیں ہے اور اگر بلا ضرورت ہو تو مکروہ تنزیہی ہے۔

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم..... وإذا دخل المسجد كان في صلوٰۃ ما كانت تحبسه. (بخاري شريف، كتاب الصلاة، باب الصلاة في المسجد السوق ۱/۶۹، رقم: ۴۷۲، ف: ۴۷۷)

وتشبيكها ولو منتظراً الصلوة، أو ماشياً إليها للنهي ولا يكره خارجها لحاجة، قال الشامي ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقة والتشبيك في الصلاة، وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور ثم قال فلو لدون حاجة؛ بل على سبيل العبث كره تنزيهاً. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، كراچی ۱/۶۴۲، زكريا ۲/۴۰۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۸۰۳۵/۳۷)

کیا وضو کے بعد بیڑی پینے سے نماز میں کراہت آتی ہے؟

سوال [۲۷۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی آدمی وضو کی حالت میں بیڑی پی کر صرف کلی کر کے نماز پڑھ لے تو کیا اس شخص کا وضو باقی رہتا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی کراہت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ بد بوضو کلی کرنے سے زائل نہیں ہوتی۔ نیز وضو مکروہ ہوتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد قریشی، اصالت پورہ، بڑی مسجد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بیڑی پی کر کلی کر لی جائے تو نماز

بلا کراہت جائز ہے؛ جبکہ کلی سے بدبو ختم ہو جاتی ہو اور اگر بدبو ختم نہ ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے، بیڑی پینے کی وجہ سے وضو میں کوئی فرق نہیں آتا، وضو بدستور باقی رہتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۴۳۳ھ) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ ارذی الحجۃ ۱۴۱۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۴۸/۳۷)

شیعہ کی اذان سے پڑھی گئی نماز کا حکم

سوال [۶/۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا فرقہ شیعہ کے لوگوں کی مسجد میں ان کی دی ہوئی اذان سے ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوگی، تو اب تک جو نمازیں پڑھی گئی ہیں، کیا ان کی قضا واجب ہے؟ اور قضا کی کیا صورت ہوگی اور اگر ہو جائے گی تو کیا دونوں فرقوں کا اس ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں اپنی اپنی جماعت الگ الگ کرنا جائز ہے یا نہیں؛ جبکہ علماء سے سنا گیا ہے کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں کرنا جائز نہیں ہے؟

المستفتی: محمد یسین، شکر پوری، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ کہنا کہ شیعوں کی اذان کے ساتھ سنیوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مغالطہ ہے؛ اس لئے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لئے اذان شرط نہیں ہے؛ ہاں البتہ سنت کے خلاف ہوتا ہے؛ لہذا شیعوں کی اذان کے ساتھ جو نمازیں پڑھی گئیں ہے وہ صحیح ہو گئیں۔

لأنها (أي الصلاة) جائزة بدون الأذان والإقامة . (هداية، كتاب الصلاة،

دونوں فرقوں کے لوگوں کا ایک ساتھ الگ الگ جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نیز ایک زبردست اختلاف و فتنہ کا باعث ہے، اس سے گریز کرنا چاہئے؛ لیکن پھر بھی جو نمازیں پڑھی گئی ہیں، ان کو لوٹا لازم نہیں۔

ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان. (شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، کراچی ۱/۵۵۳، ذکر یا ۲/۲۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۸/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/رجب المرجب ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۷۷۸۳)



(۱۶) باب ما یفسد الصلاة وما لا یفسد

عمل کثیر کی مقدار و تعریف

سوال [۲۷۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کی حالت میں ”عمل کثیر“ کی نوعیت و مقدار کیا ہے؟

المسئفتی: ذکاء اللہ جامع مسجد چھاؤنی اندور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عمل کثیر کی تین تعریفیں کی گئی ہیں۔

(۱) نماز کی کو دور سے دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہے، اگر شک کرے تو عمل قلیل ہے۔

(۲) عمل کثیر اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔

(۳) نماز پڑھنے والا جس کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے، جس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہے، پہلا

قول زیادہ راجح ہے اور یہ مفسدات صلوٰۃ بن سکتا ہے۔

لو نظر إلیہ ناظر من بعید إن کان لایشک أنه فی غیر الصلاة فهو کثیر مفسد وإن شک فلیس بمفسد، وهذا هو الأصح..... أن ما یقام بالیدین عادة کثیرو إن فعله بید واحدة..... قلیل..... أن یفوض إلی رأی المبتلی بہ وهو المصلي فإن استکثره کان کثیراً، وإن استقله کان قلیلاً.

(عالمگیری، کتاب الصلاة، لباب السابغ فیما یفسد لصلاة، زکریا ۱/۱۰۲، جدید زکریا ۱/۱۶۰)

أصحها ما لا یشک بسببه الناظر من بعید فی فاعله أنه لیس فیها (تحتہ فی الشامیة) صححہ فی البدائع، وتابعہ الزیلعی، والوالجی، وفی المحيط:

أنه الأحسن، وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب، وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة، وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب في الشبهة بأهل الكتاب، زكريا ۲/۳۸۵، كراچی ۱/۶۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۸/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۵۲۹/۳۷)

عمل کثیر کی تعریف

سوال [۲۷۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عمل کثیر کیا چیز ہے، نیز کتنا عمل کثیر کرنے پر نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ مفصل جواب سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: اکرام باری سنس، تحصیل اسکول مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عمل کثیر کی مقدار کی تعیین میں علماء وفقہاء نے متعدد اقوال نقل فرمائے ہیں، ان میں سے راجح اور مفتی بہ قول یہی ہے کہ نمازی بحالت نماز اس طرح عمل کرے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ شاید نماز میں نہیں ہے نماز سے باہر ہے۔
وَ اختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير، قال بعضهم: ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه ذلك حتى قالوا: إذا زرق ميصه في الصلاة فسدت صلاته وإذا حل أزراره لا تفسد، وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشبهه عليه أنه في الصلاة فهو

قلیل وهو الأصح. (بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، زکریا قدیم ۱/۲۴۱، حاشیہ شرح وقایہ، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکرہ فیہا ۱/۶۵، فتاویٰ قاضی خان، کتاب الصلاة، فصل فیما یفسد الصلاة ۱/۱۳۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۸۰، سیٹ: ۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۰/۱۲۳۹)

نماز میں دونوں ہاتھوں کے یا ایک ہاتھ کے ۳ مرتبہ سے زائد استعمال کا حکم

سوال [۲۷۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا مثلاً دونوں ہاتھوں سے کپڑوں کو درست کرنا اور بار بار کرنا یا دامن کو دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کرنا یا دونوں ہاتھوں سے کھجانا کیسا ہے؟ ایک ہاتھ سے کچھ کرتا ہے تو کتنی بار کر سکتا ہے؟ اس کی کچھ حد مقرر ہے یا نہیں؟ چاہے کتنی بار ہاتھ کا استعمال نماز میں کرے نماز میں کچھ نقصان نہیں ہوگا؟

میں نے ایک صاحب سے کہا کہ نماز میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا یا ایک ہاتھ کا بھی تین دفعہ سے زیادہ کرنا منع ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے، تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ دونوں باتیں غلط ہیں، اگر ہے تو لکھا ہوا دکھاؤ، برائے مہربانی مع ثبوت کے جواب مرحمت فرمائیں نوازش ہوگی۔

المستفتی: حاجی محمد ابراہیم ہلدوانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کی حالت میں عمل کثیر مفسد صلوة ہے اور عمل قلیل مفسد صلوة نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کے استعمال کو عمل کثیر میں شمار کیا گیا ہے،

ایک ہاتھ کا استعمال بھی بے ضرورت ایک ہی رکن میں مسلسل تین دفعہ یا اس سے زائد ہو جائے، تو اس کو بھی عمل کثیر میں شمار کیا گیا ہے، ضرورت کی وجہ سے وقفے وقفے سے ایک ہاتھ کا استعمال تین مرتبہ سے زائد بھی ہو جائے تو عمل کثیر میں شامل نہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کرنا کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے یہ بھی مفسدات صلوٰۃ میں شامل ہے۔

ویفسدھا کل عمل کثیر.....وفیه أقوال خمسة أصحها مالایشک بسببه الناظر في فاعله أنه ليس فيها.....والقول الثاني: أن ما يعمل عادة باليدين کثیر.....الثالث: الحركات الثلاث المتواليه کثیر. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، مطلب فی التشبه بأهل الكتاب، زکریا ۲/۳۸۵)

العمل الكثیر یفسد الصلوٰۃ والقلیل لا واختلفوا بينهما علی ثلاثة أقوال، الأول: أن ما یقام بالیدين عادة کثیر.....وما یقام بید واحد قلیل.....وكل ما یقام بید واحدة فهو بسیر ما لم یتكرر.....والثاني: أن یفوز إلى رأي المبتلی به.....وهذا أقرب الأقوال إلى رأي أبي حنیفة.....والثالث: أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد أن لا یشک أنه فی غیر الصلاة فهو کثیر مفسد. (هندیة، کتاب الصلاة، الباب السابع فیما یفسد الصلاة وما یکره فیها، زکریا ۱/۱۰۲، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۶۰)

واختلفوا فی القلة والكثرة قال بعضهم: كل ما یقام بالیدين فهو کثیر، وما یقام بید واحدة فهو یسیر ما لم یتكرر—وقال: بعضهم إن كان بحال لو رآه إنسان لیستیقن أنه لیس فی صلاة فهو کثیر.....وهذا اختیار العامة. (قاضی خان، کتاب الصلاة، فصل فیما یفسد الصلاة، ۱/۲۸-۱۳۰ جدید زکریا دیوبند ۱/۸۰، سیٹ: ۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۳/۱۴۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/ربیع الال ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۶۶/۳۹)

اللہ، اکبر، اور اکبار کے معنی

سوال [۲۷۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اکبر اور اکبار کے معنی کیا ہیں؟ لغوی ترجمہ عنایت فرمائیں۔
المستفتی: ابرار احمد، ہردوئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اللہ کے معنی ہے، کیا اللہ ہیں؟ اور اکبار کبر کی جمع ہے اس کے معنی ڈھول اور طبل کے ہیں، اس لفظ سے تحریمہ باندھنے سے نماز شروع ہی نہ ہوگی اور درمیان صلوٰۃ کہنے سے نماز فاسد ہو جائیگی۔

وإن قال الله أكبر لا يصير شارعا، وإن قال ذلك في خلال الصلاة تفسد الصلاة. (كبيری، كتاب الصلاة، باب فرائض الصلاة، اشرفی ۲۵۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۵/۱۴۱۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳/۵۷۵)

تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالیہ کو سراً کہنا

سوال [۲۷۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے تکبیر تحریمہ یا رکوع وغیرہ کی تکبیر سہواً چھوڑ دی یا جہراً کہنے کے بجائے سراً کہہ دی تو کیا ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کی ضرورت ہے یا بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی؟ امام صاحب سے ایسا بار بار ہوتا رہتا ہے۔

المستفتی: محمد اشتیاق، بھاگلپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام صاحب نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دی تو ایسی صورت میں نماز ہی نہ ہوگی، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع وغیرہ کی تکبیر سہواً چھوٹ گئی یا تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات کو جہر کے بجائے امام صاحب نے آہستہ کہا، تو ایسی صورت میں نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔

من فرائضها التي لا تصح بدونها التحريمه. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، كراچی ۱/۴۴۲، زکریا ۲/۱۲۷، ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول في فرائض الصلاة ۱/۶۸، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۲۵)

وسننها ترك السنة لا يوجب فساداً ولا سهواً؛ بل إساءةً لوعامداً..... جهر الإمام بالتكبير..... و تكبير الركوع، وكذا الرفع منه، وتكبير السجود وكذا نفس الرفع منه، وكذا تكبيره (در مختار) لحديث أنه عليه السلام كان يكبر عند كل رفع و خفض. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، كراچی ۱/۷۳ تا ۴۷۶، زکریا ۲/۱۷۰ تا ۱۷۳، ہندیہ، كتاب الصلاة،

الفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها ۱/۷۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۴/۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۴ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۱۵۴/۳۵)

کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بلا تکبیر رکوع میں چلے جانا

سوال [۲۷۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض لوگ جماعت میں ایسے وقت شریک ہوتے ہیں جب امام رکوع میں ہوتا ہے، تو جو لوگ دوڑ کر آتے ہیں اور صرف ایک مرتبہ تکبیر کہہ کر رکوع میں

چلے جاتے ہیں، تو ان کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ اسی طرح جو لوگ دوڑ کر آتے ہیں جھکے جھکے تکبیر کہہ کر رکوع میں امام کیساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو قیام نہ ہونے کی وجہ سے کیا نماز میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں؟

المستفتی: شکیل احمد بسواں، رامابھاری سیتاپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہے بغیر رکوع میں چلا جائے تو کراہت کیساتھ نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر تکبیر تحریمہ بھی جھکے جھکے کہہ کر امام کیساتھ شریک ہو جائے، تو نماز صحیح نہ ہوگی اعادہ کرنا لازم ہوگا۔

لو أدرك الإمام راكعاً فحنى ظهره كبر إن كان إلى القيام أقرب صح الشروع..... (إلى قوله) وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع. (مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها، قدیم ۱۱۹، اشرفی ۲۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۳/۱۴۱۶ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۴۳۹۷)

امام کے دعائیہ آیت میں سکتہ کرنے پر مقتدیوں کا آمین کہنا

سوال [۸۲/۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام نے جہری نماز میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع ”اللہ ما فی السموات“ سے آخر تک تلاوت کیا سورہ کے آخر میں ہے واعف عنا سکتہ واغفر لنا سکتہ وارحمنا سکتہ یہ تینوں سکتہ کی آیات ہیں قرأت نماز میں امام نے یہ تینوں سکتہ پڑھے، مثلاً واعف عنا سکتہ تو مقتدیوں نے کہا آمین پھر پڑھا واغفر لنا تو پھر مقتدیوں نے کہا آمین تو درمیان نماز

مقتدیوں کا آمین کہنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد اصغر ولد محمد شفیع، پرائیما بازار، ٹائٹھہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام کا اس دعائیہ آیت میں سکتہ کرنے پر مقتدیوں

کے آمین کہنے سے ان کی نماز فاسد نہ ہوگی، جیسے کہ امام کی قرأت پسند آجائے اور مقتدی رونے لگے یا نعم و بلی جیسے الفاظ کہے یا صراحتہ دعاء کرے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

لألد کر جنۃ، أو نار (در مختار) قال الشامی تحتہ لأن الآئین ونحوہ إذا کان یذکر ہما صار كأنہ قال اللهم إني أسئلك الجنة وأعوذ بك من النار ولو صرح به لا تفسد صلوتہ. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد وما یکرہ فیہا، کراچی ۱/۶۱۹، زکریا ۲/۳۷۸، حلبی کبیر، کتاب الصلاة، فصل فیما یفسد الصلاة، ۴۳۲)

فلو أعجبتہ قراءة الإمام فجعل یسکی و یقول: بلی و نعم، أو آری لا تفسد (سراجیۃ) لدلالته علی الخشوع. (در مختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکرہ فیہا، کراچی ۱/۶۱۹، زکریا ۲/۳۷۸، الموسوعة الفقہیة الکویتیة ۲۷/۱۲۱) ولا تفسد بالدعاء لذكر جنۃ، أو نار عند قراءة الإمام، فجعل یسکی و یقول: بلی أو نعم، لدلالته علی الخشوع. (الفقہ الإسلامی وأدلته، ہدی انٹرنیشنل دیوبند ۲/۲۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۵/۱۴۲۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الأولى ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۷۱۵)

کسی کے کہنے پر مقتدی کا زور سے تکبیر کہنے کا حکم

سوال [۲۷۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ جمعہ کی نماز کی جماعت شروع ہو چکی تھی، تب اوپر کی منزل سے ایک شخص نے آواز دی کہ تکبیر کہہ دیں اوپر آواز نہیں آرہی ہے، ایک شخص نے جو نماز کی نیت کر چکے تھے اور ہاتھ باندھ چکے تھے، تکبیر اولیٰ تو با آواز بلند نہ کہی تھی، مگر رکوع سے لے کر آخر سلام تک با آواز تکبیرات کہیں انہوں نے نماز سے باہر والے شخص کا لقمہ لیا اس صورت میں تمام مصلیان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی یا نیچے منزل میں جو امام صاحب کے عین پیچھے والے نمازی تھے، ان کی نماز ہوگئی یا نہیں اور اوپر والی منزل کے نمازیوں کی نماز نہیں ہوئی یا نیچے کی منزل اوپر کی منزل کے تمام نمازی ایک ہی حکم میں ہیں؟

المستفتی: جنید عالم، امام مسجد بلال، اہتل و ہارمراو آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں یہ بات واضح ہے کہ اوپر والے کے آواز دینے کے کچھ وقفہ بعد رکوع کی تکبیر کہی ہے، تو نیچے کے جس شخص نے مکبر بن کر تکبیر کہی ہے، اگر اس نے محض اوپر والے کی آواز دینے سے تکبیر نہیں کہی ہے؛ بلکہ اس کے اندر خود احساس پیدا ہوا ہے کہ زور سے تکبیر کہنی چاہئے، تو اگر اپنے احساس کی بنا پر تکبیرات کہی ہیں تو اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا؛ بلکہ سب کی نماز بلا کراہت درست ہوگئی، ہاں البتہ اگر تکبیر کہنے والے نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا نہ اس کے اندر احساس پیدا ہوا تھا؛ بلکہ محض اوپر والے کی آواز کی تعمیل کرنے کے لئے تکبیرات شروع کر دی ہیں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

سوال نامہ میں صاف طور پر ذکر ہے کہ اوپر والے کی آواز سنائی دینے کے کچھ وقفہ کے بعد اس نے تکبیر کہنی شروع کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے تکبیر کہنے والے کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کسی کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

إن حصل التذکر بسبب الفتح تفسد مطلقاً (وقولہ) و إن حصل تذکرہ

من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقاً. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة

وما یکرہ فیہا، کراچی ۱/۶۲۲، زکریا ۲/۳۸۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۲/۱۵)

وينبغي للمصلي أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه . (البناءة، كتاب الصلاة،
اشرفيه ۴۴۲/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۷/۱۴۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶/رجب المرجب ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۹۱۳/۳۸)

خارج صلوٰۃ شخص کے کہنے پر مقتدی کا تکبیر کہنا

سوال [۸۴/۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) مسجد میں اندر نماز ہو رہی تھی نمازیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے اوپر بھی کافی لوگ نماز پڑھ رہے تھے خارج صلوٰۃ ایک شخص نے زور سے کہا کہ بھائی کوئی تکبیر کہہ دو اوپر آؤ نہیں آ رہی ہے، ایک شخص نے فوراً بغیر سوچے سمجھے تکبیر کہدی کیا اس تکبیر کہنے والے مقتدی کی نماز فاسد ہوگی اور اس مقتدی کے تکبیر کہنے پر جتنے نمازی نقل و حرکت کریں گے کیا ان سب کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی یا کسی کی بھی فاسد نہیں ہوگی؟

(۲) خارج صلوٰۃ شخص کے کہنے پر تکبیر کہنے میں تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالیہ کا ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ، مثلاً تکبیر تحریمہ خارج صلوٰۃ شخص کے کہنے سے کہی یا تکبیرات انتقالیہ خارج صلوٰۃ شخص کے کہنے سے کہی دونوں کا حکم ایک ہے یا الگ؟

المستفتی: فراست حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۲/۱) خارج صلوٰۃ شخص کے کہنے پر بلا سوچے فوراً تکبیر کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کی تکبیر کی اقتداء کرنے والوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی؛ لیکن اگر خارج صلوٰۃ شخص کے کہنے کے بعد تکبیر کہنے والے نے یہ سوچا کہ واقعی ضرورت ہے پھر تکبیر شروع کر دی ہے تو ایسی صورت میں کسی کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالیہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مسجد کبیر یجہر المؤذن فیہ بالتکبیرات فدخّل فیہ رجل أمر
المؤذن أن یجہر بالتکبیر ورکع الإمام للحال فجہر المؤذن إن قصد جوابہ
فسدت صلواتہ. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکرہ فیہا، کراچی
۶۲۲/۱، زکریا ۲/۳۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/ ذی قعدہ ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۸۵۸/۳۶)

نماز میں خارجی شخص کا لقمہ قبول کرنا

سوال [۲۷۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ امام صاحب کو سہو لاحق ہو گیا اور چار رکعت والی نماز میں تین رکعت پر قعدہ کر لیا
اور مقتدیوں میں سے کسی نے امام کو لقمہ نہ دیا ایک غیر آدمی نے جو امام کی نماز میں شریک نہیں تھا
کہا کہ امام صاحب ابھی تو تین رکعت ہوئی ہیں تو امام صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔
دریافت یہ ہے کہ اس سے نماز میں کوئی خلل واقع ہوا کہ نہیں؟ اس کا مفصل جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد سعید پوریادی، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام غیر آدمی کے لقمہ ختم ہونے سے قبل ہی
کھڑا ہو گیا ہے یا اس کے لقمہ کے بعد اپنی یاد کی بنا پر کھڑا ہو گیا محض اس کے لقمہ کی اقتدا میں
کھڑا نہیں ہوا ہے، تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر محض غیر آدمی کا لقمہ سن کر صرف اسی کی اقتداء
میں کھڑا ہوا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴۳۳)

وإن حصل تذکرہ من نفسه لا بسبب الفتح لا ینفسد مطلقاً. (شامی،

کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، قبل مطلب فی التشبہ بأهل الكتاب

زکریا ۲/۳۸۲، کراچی ۱/۶۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۱۱/۱۹ھ

۱۹ ذی قعدہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۹۰/۲۸)

اشارہ سے لقمہ دینے والے کی نماز کا حکم

سوال [۲۷۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو شخص ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک قاعدہ اولیٰ چھوڑ کر کھڑا ہونے لگا تو دوسرے نے ہاتھ مار کر بیٹھنے کی طرف اشارہ کیا جس کی وجہ سے وہ قعدہ کی طرف لوٹ آیا، تو اس صورت میں ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: فرید الدین امرہوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو شخص کھڑا ہونے جارہا تھا دوسرے آدمی کے ہاتھ مار کر اشارہ کرنے کی وجہ سے وہ بیٹھنے کی طرف لوٹ آیا اور لوٹنے کا سبب اشارہ کرنے والے کا اشارہ ہی بنا، تو ایسی صورت میں لوٹنے والے کی نماز فاسد ہوگئی اور اشارہ کرنے والے کی نماز اس لئے فاسد ہوگئی کہ اس نے غیر امام کو لقمہ دیا ہے۔ نیز ہاتھ کا مارنا عمل کثیر بھی ہے؛ اس لئے بھی اس کی نماز فاسد ہوگئی۔

وفتحہ علی غیر إمامہ لأنه تعلم وتعلیم من غیر حاجۃ، بحر وهو شامل لفتح المقتدی علی مثله وعلی المنفرد وعلی غیر المصلی وعلی إمام آخر لفتح الإمام والمنفرد علی أي شخص کان إن أراد به التعلیم لا التلاوة، نهر قوله وكذا الأخذ أي أخذ المصلی غیر الإمام بفتح من فتح علیہ مفسد أيضا. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، و ما یکره فیہا، کراچی ۱/۶۲۲، زکریا ۲/۳۸۱)

وإن كان الفتح على رجل هو في صلاة غير صلوة الإمام فهو على وجهين أيضاً، وإن أراد به التعليم تفسد صلاته إلا على قول أبي يوسف الخ (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس، باب يفسد الصلاة وما لا يفسد) (رقم: ۲۲۳۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۲/۲۸ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۵۲۷/۳۶)

مانک کی خرابی سے اوپری منزل والوں کو امام کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چلنا

سوال [۲۷۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں ایک تین منزلہ مسجد ہے، اس میں جمعہ کی نماز بذریعہ مانک ہو رہی تھی، درمیان نماز میں مانک خراب ہو گیا جس کی وجہ سے اوپر والی منزل میں آواز نہیں پہونچی، اب بعض حضرات نے اندازے سے نماز پور کر لی اور بعض نیت توڑ کر دوسری مسجد میں نماز جمعہ کے لئے چلے گئے دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسی صورت میں شرعا لوگوں کو کیا کرنا چاہئے اوپر آواز پہونچنے کی کوئی صورت نہیں تھی واضح فرمائیں؟

المستفتی: عبدالاحد، پکاباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جن لوگوں نے محض اندازے سے نماز پوری کر لی ہے اور امام کی نقل و حرکت کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ان میں سے کسی کی بھی نماز درست نہیں ہوئی اور ان میں سے جن لوگوں نے اپنی نماز دہرائی ہے یا دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی ہے انہوں نے صحیح کیا ہے اور ان میں سے جن لوگوں نے نماز نہیں دہرائی ہے ان پر لازم ہے کہ اس دن کی ظہر کی نماز قضا کریں۔

ویشترط أن لا يفصل بينهما حائط كبير يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام، فإن لم يشتبه العلم بانتقالات الإمام لسمع، أو رؤية لم يكن الوصول إليه صح الاقتداء به في الصحيح. (مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالكتاب ديوبند ۲۹۳، قديم ۱۶۰، الموسوعة الفقهية ۶/۲۳)

إن كان لا يشتبه عليهم حال إمامهم يصح وإلا فلا. (البنایه، كتاب الصلاة، باب الإمامة، اشرفية ۲/۳۵۴)

الحائل بينهما لو بحيث يشتبه به حال إمامهم يمنع وإلا فلا..... لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول إلى الإمام؛ ولكن لا يشتبه حاله عليه بسمع، أو رؤية لانتقاله لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، وحاصل كلام الشرنبلالي أن المعبر الاشتباه وعلمه فقط دون اختلاف المكان، فإن حصل الاشتباه منع سواء اتحد المكان أو لا وإلا فلا. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة كراچی ۵۸۷/۱، زكريا ۲/۳۳۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳ھ/۷/۲۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۴/رجب المرجب ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۳۳۳۷۷)

امام کے سلام سے قبل مقتدی کا سلام پھیرنا

سوال [۲۷۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تذکرۃ الرشید ۲۵۸/مطبوع دارالکتاب دیوبند میں ایک مسئلہ درج ہے، اس عنوان کو اس مسئلہ پر ختم کرتا ہوں جس کو امام ربانی قدس سرہ نے نہایت اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا اور کہا کہ سننے والے دوسروں کو پہنچاویں، عام لوگ اس کی طرف سے غافل ہیں

اور یہ غفلت ان کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے، وہ یہ کہ امام کے پہلے سلام کے ختم ہونے سے پہلے اگر مقتدی سلام ختم کر دے گا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

حاشیہ: مطلب یہ ہے کہ امام اکثر ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے اور سلام پھیرتا ہے اور مقتدی اس کلمہ کو جلد ختم کر لیتے ہیں، پس اگر امام کی زبان سے لفظ رحمة اللہ ختم ہونے سے پہلے مقتدی نے یہ الفاظ تمام کر لئے تو چونکہ امام سے قبل مقتدی نے نماز ختم کی؛ اس لئے مقتدی کی نماز جاتی رہی، آیا یہ مسئلہ درست ہے یا سہو ہوا ہے؛ جبکہ نماز سلام کی پہلی میم پر ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ مسائل سجدہ سہو نامی کتاب میں لکھا ہے۔

المستفتی: نسیم احمد غازی پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سلام اول میں لفظ السلام کہتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے؛ اس لئے سلام اولیٰ کی میم امام سے پہلے کہنا مکروہ ہے، اس کے بعد کے الفاظ مقتدی نے امام سے پہلے ختم کر لئے تو اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۳۱۲)

عن عبد اللہ بن عمرو: أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته. (سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۸، رقم: ۱۴۰۷)

ولفظ السلام مرتين فالثاني واجب على الأصح، دون عليكم، وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا. (فتاویٰ شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، کراچی ۱/۴۶۸، ذکر یا ۲/۱۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۲۱۹)

عصر کی نماز کی ایک رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا

سوال [۲۷۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے عصر کی نماز ادا کی اور کسی ایک رکعت میں صرف ایک ہی سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنا بھول گیا تو اس کی نماز ادا ہوئی یا واجب الاعادة ہے اور بطور خاص یہ وضاحت فرمائیں کہ ان چار رکعتوں کا کیا حکم ہوگا؟ آیا وہ نفل ہو جائیں گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد عبداللہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہے؛ لہذا اگر ایک سجدہ بھول کر ترک ہو جائے تو سلام سے قبل اس کو کر لینا لازم تھا، اس کو کئے بغیر سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چل سکتا، اگر اسی حالت میں سلام پھیر کر نماز سے فراغت حاصل کر لی ہے تو پوری نماز فاسد ہوگئی اور یہ نماز نفل بھی نہ ہوگی؛ اس لئے کہ ترک فرض سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

السجود الثاني فرض كالأول بإجماع الأمة الخ (عالمگیری، كتاب

الصلاة، الفصل الأول في فرائض الصلاة، زكريا ۱/۷۰، جديد زكريا ديوبند ۱/۲۷، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، وأركانها، دارالكتاب ديوبند جديد ۲۳۴)

أو خروج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلواته، إن كان ما عليه سجدة صليبة الخ (طحطاوي على المراقى، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالكتاب ديوبند جديد ۶۳۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۲۲۹۱۴۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۶۲/۳۸)

نماز میں اردو زبان میں دعا مانگنا

سوال [۲۷۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آں محترم نے ۱۵/ جمادی الاولیٰ ۲۸ھ کو ۶/۲۳۵ کے حوالہ سے لکھا ہے اردو میں دعا مانگنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوگئی، ادھر خیر الفتاویٰ ۲/۴۵۹ پر لکھا ہے، نماز میں دعا اردو میں مانگی تو نماز ہوگئی۔

و ظاهر التعلیل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى، وأن الكراهة فيه تنزيهية. (شامی ۴۸۶/۱)

اس تضاد کی وضاحت مطلوب ہے، تاکہ صحیح مسئلہ نمازیوں کو بتلادیا جائے؟

المستفتی: عبدالرشید، سیڈھا بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کے اندر اردو میں دعا مانگنا اصلاً مکروہ تحریمی ہے، جس کی بنا پر نماز واجب الاعادۃ ہوتی ہے اور ہمارے فتویٰ میں اس صورت میں جو نماز کے فساد کی بات کہی گئی ہے، وہ تعبیر کی غلطی ہے اور خیر الفتاویٰ میں درج فتویٰ مجمل ہے یا اس قول پر مبنی ہے، جس میں غیر عربی کی دعا کو مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے؛ حالانکہ یہ قول راجح کے خلاف ہے۔

ولا یبعد أن یکون الدعاء بالفارسیۃ مکروہا تحریما فی الصلاة وتنزیہا خار جہا. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب فی الدعاء بغير

العربیۃ، زکریا ۲/۲۳۴، کراچی ۱/۵۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۸/۱۴ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ شعبان المعظم ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۰۰/۳۸)

بھول سے جیب میں رکھی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم

سوال [۲۷۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے کسی مجبوری کے تحت بیوی سے ہمبستری کے وقت نرودھ استعمال کیا، پھر اس نرودھ کو پیکٹ میں پیک کر کے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر کے جیب میں رکھ لیا یہ سوچ کر کے کہ باہر پھینک دیں گے، پھر بھول گیا اور اسے جیب میں رکھے ہوئے نماز ادا کر لی تو ایک ناپاک اور نجس چیز جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لینے سے نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ یا پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المسفتی: عبداللہ نواب پورہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نرودھ کے اندر جو نجاست بھر گئی تھی اس کی مقدار اگر مقدار درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پیکٹ کو جیب میں لے کر جو نماز پڑھی گئی وہ فاسد اور واجب الاعادہ ہے اور غالباً مقدار درہم سے زیادہ ہی ہوگی؛ اس لئے نماز کا اعادہ ضرور کر لیا جائے؛ اس لئے کہ ایک درہم کا وزن تقریباً ۳ گرام ہوتا ہے جو نہایت معمولی وزن ہے۔ (مستفاد: ایضاح الطحاوی ۱۹۱/۳)

و فرعوا علی ذاک مالو علم قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة، وغسلها، ولو خاف فوت الجماعة، لأنها سنة وغسل النجاسة واجب وهو مقدم. (حاشية الطحطاوي، كتاب الطهارة، باب الأنجاس والطهارة عنها، دار الكتاب ديوبند جديد ۱۵۶، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۸/۲۲۰)

وفي الدر: وطهارة بدنہ وثوبہ وكذا ما يتحرك بحرکتہ، أو يعد حامله كصبي عليه نجس، إن لم يستمسك بنفسه منع وتحتہ في الشامية: أي شيء متصل به يتحرك بحرکتہ كمنديل طرفه على عنقه

وفي الآخر نجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحر كات الصلاة منع وإلا لا. (درمختار مع الشامی، کتاب الصلاة، شروط الصلاة، زکریا ۲/۷۳، ۷۴، کراچی ۴۰۲/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۶/۱۴۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۲۳/۳۸)

قنوت نازلہ میں وعدہ اور وعید کے الفاظ کی تبدیلی کا حکم

سوال [۲۷۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور قنوت نازلہ میں وعدہ اور وعید کے الفاظ کو بدل دیا، وعدہ کی جگہ وعید والے الفاظ استعمال کر دیئے تو ایسی صورت میں امام صاحب کی نماز فاسد ہوگئی یا نہیں؛ جبکہ قرأت میں اس طرح کی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ واضح فرمادیں۔

المستفتی: محمد شعیب میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب امام صاحب سے قنوت نازلہ پڑھنے میں ایسی فحش غلطی ہوگئی کہ وعدہ والے الفاظ کی جگہ وعید والے الفاظ یا اس کے برعکس استعمال کر دیئے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہوگئی؛ کیونکہ قنوت نازلہ اور دعاء قنوت میں وعدہ کے الفاظ کو وعید کے الفاظ سے بدل دینے سے اسی طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس طرح قرأت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے؛ لہذا سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت میں امام صاحب کی نماز فاسد ہوگئی ہے، اس کا اعادہ واجب ہے، جیسا کہ فقہی جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

ولو قرأ في دعاء القنوت..... ونسب غفرک بالطاء قال: تفسد ولو قرأ

إننا نستعنعك بغير ياء، فقال: لا تفسد قيل ولو قرأ وتوكن عليك بالنون فقال: تفسد قيل ولو قرأ ونخنع قال: تفسد إذا تبين منه ذلك قيل لو قرأ ونشجد بالشين قال: تفسد إذا تبين منه ذلك ولو قرأ وإليك نسحى ونحفد قال: تفسد. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الأول من مسائل زلة القاري في ذكر حرف مكان حرف ۸۵/۲، رقم: ۱۸۱۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷/محرم الحرام ۱۴۳۶ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۴۱/۴۱)

دوران نماز بیوی کا بوسہ لینا

سوال [۲۷۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نماز پڑھ رہا ہو بیوی نے بوسہ لیا، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی؛ لیکن بیوی اگر نماز پڑھے شوہر نے بوسہ لیا تو اس کی نماز کیوں فاسد ہو جاتی ہے؟

المستفتی: محمد قاسم گانوڑی، بڑھاپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر کی نماز فاسد نہ ہونے اور بیوی کی نماز فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی جماع پر قادر اور با اختیار نہیں ہوتی ہے، اس لئے بیوی کے بوسہ کی وجہ سے اس حالت میں مفضی الی الجماع لازم نہیں آتا؛ لیکن اس کے برخلاف شوہر جماع پر پوری طرح قادر اور با اختیار ہوتا ہے؛ اس لئے بیوی کو بوسہ دینے کی صورت میں مفضی الی الجماع کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے بیوی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى الجماع يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع، فإتيانه بدواعيه في معناه. (شامي، كتاب الصلاة،

باب ما تفسد الصلاة، وما يكره فيها، زكريا ۳۹۰/۲، كراچی ۱/۶۲۸، ۶۲۹)

قوله والفرق - أي بين جعل تقبيله المصلية مفسدا صلاحها، وإن كان بغير شهوة وبين جعل تقبيلها المصلية غير مفسد صلواته إذا لم يشته وهو جواب من صاحب النهر عما أورده في الفتح حيث قال والله أعلم بوجه الفرق، وذلك لأنه لا يصنع للمصلي في الوجهين، فمقتضاه عدم الفساد فيهما، وإن جعلنا التمكين من الفعل بمنزلة الفعل اقتضى الفساد فيهما وهو الظاهر. (طحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، كونه ۲۶۶/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۴/۱۴۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱/ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۰/۳۵)

دوران نماز ٹارچ جلانا

سوال [۲۷۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی دوران نماز اچانک لائٹ چلی گئی، ایک صاحب جو پہلی صف میں تھے ان کے سامنے ٹارچ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ٹارچ کا بٹن دبا دیا جس سے روشنی ہو گئی نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب نے کہا کہ جس نے دوران نماز ٹارچ جلائی ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی وہ اپنی نماز دہرا لے، اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح دوران نماز ٹارچ جلانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور کیا امام صاحب کی بات صحیح ہے؟

المستفتی: وصی الحق، بستوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس نے دوران نماز بجلی بھاگ جانے پر ٹارچ جلائی ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی؛ کیونکہ یہ عمل قلیل ہے اور نماز میں عمل قلیل

سے نماز فاسد نہیں ہوتی؛ البتہ نماز میں ایسا عمل مکروہ ہے اور مفسد صلوٰۃ کے بارے میں امام صاحب کی بات صحیح نہیں ہے۔

ولو وضع الفتيلة في السراج وهو يصلي لا تفسد صلاته، لأنه قليل.

(ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، زکریا ۱/۱۰۲، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۹۳/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۵/۱۴۲۱ھ

نماز میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو کیا کریں؟

سوال [۲۷۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ موبائل اگر چالو حالت میں رہ گیا تو کیا نمازی اس کا بٹن بند کر سکتا ہے؟ اگر جماعت سے نماز پڑھنے کی حالت میں ہو اور موبائل ایسی جگہ جیب میں ہو کہ بند نہیں کر سکتا تو وہ نماز توڑ کر بند کرے یا اس کی گھنٹی بجنے دے، اس صورت میں پوری مسجد کے نمازیوں کی توجہ و خشوع میں فرق آئے گا، اگر سنت وغیرہ پڑھ رہا ہو تو نیت توڑ کر موبائل بند کر کے پھر سے نیت باندھ سکتا ہے؟

المستفتی: محمد ذکاء اللہ جامع مسجد چھاؤنی، اندور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موبائل بند کرنا یا نہیں رہا تو نماز چاہے

باجماعت پڑھی جا رہی ہو یا تنہا دونوں صورتوں میں اگر موبائل میں گھنٹی شروع ہو جائے اور ایک ہاتھ سے موبائل بند کر دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، موبائل چاہے آگے کی جیب میں رکھا ہو یا سائید کی جیب میں بہر صورت موبائل اگر ایک ہاتھ سے بند کر دیا جائے تو نماز

فاسد نہیں ہوگی، یہ ایسا ہے جیسا کہ ٹوپی گرجانے کی صورت میں ایک ہاتھ سے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھنا جائز ہے، ایسے ہی موبائل ایک ہاتھ سے بند کرنا جائز ہے، موبائل والے کو اول گھنٹی پر موبائل بند کر دینا چاہئے، تاکہ نمازیوں کے خشوع اور یکسوئی میں فرق نہ پڑے۔

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشي ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة. (سنن الدار قطني، كتاب الجنائز،

باب جواز العمل القليل في الصلاة، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۶۷، رقم: ۱۸۳۷) ولو أغلق الباب لا تفسد صلواته. (عالمگیری، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، زكريا ۱/۱۰۴، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۶۲)

ولو سقطت قلنسوته فاعادتها أفضل. (در مختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، كراچی ۱/۶۴۱، زكريا ۲/۴۰۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۵۲۹/۳۷)

دوران نماز موبائل کی گھنٹی بند کرنا

سوال [۲۷۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی کی جیب میں موبائل ہو اور نماز کی حالت میں رنگ ہونے لگے، تو آف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آف کر لیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی ایک مرتبہ کرنے سے نماز میں کوئی خلل واقع تو نہیں ہوگا؟

المستفتی: شبیر اختر، کرناٹک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کی حالت میں موبائل کی رنگ ہونے کی

صورت میں ایک ہاتھ کا استعمال کر کے موبائل بند کرنے کی گنجائش ہے اور دونوں ہاتھوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے نماز کے فاسد ہو جانے کا خطرہ ہے؛ اس لئے دونوں ہاتھوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ (مستفاد: انوار رحمت ۱۲۳)

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة. (مسند أحمد بن حنبل ۶/۳۱، رقم: ۲۴۵۲۸)

عن عائشة[ؓ]، قالت: كان بابنا في قبلة المسجد، فاستفحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه. (مسند أحمد بن حنبل ۶/۱۷۲، رقم: ۱۸، رقم: ۲۶، رقم: ۲۶۴۹۹)

لو رفع العمامة ووضعتها على الأرض، أو رفعها من الأرض ووضعتها على الرأس لا تفسد، لأنه يتم بيد واحدة من غير تكرار. (فتاویٰ قاضی خان علی الہندیہ، کتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، زكريا ۱/۱۲۹، جديد زكريا ديوبند ۸۱/۱، سيث: ۷)

ولو لبس قلنسوة، أو بيضة، أو نزعها لا تفسد. (قاضی خان علی الہندیہ ۱/۱۲۹، امدادیہ ملتان، جدید زکریا دیوبند ۸۱/۱، سیث: ۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۷/۵/۲۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۰۱۴/۳۸)

جیب سے موبائل نکال کر آنکھوں سے دیکھ کر بند کرنا

سوال [۲۷۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کی حالت میں ایک شخص کا موبائل کھلا رہا پیٹ کی جیب میں تھا کہیں سے فون آ گیا اور موبائل میں رنگ بجنے لگی اس شخص نے ایک ہاتھ سے موبائل سامنے لا کر

اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بند کر دیا تو ایسی صورت میں نماز میں فرق آئے گا یا نہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جیب سے باقاعدہ موبائل نکال کر اور دیکھ کر بند کرنے کا عمل مفسد صلوٰۃ ہے، اس کو دوسرے لوگ دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے ایسے عمل کو فقہی اصطلاح میں عمل کثیر کہتے ہیں، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: کتاب المسائل ۳۸۶/۱)

ویفسدھا کل عمل کثیر لیس من أعمال لها ولا لإصلاحها وفيه أقوال خمسة اصحها لا يشك بسببه الناظر من بعيد في فاعله، أنه ليس فيها وفي الشامية، الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثیر وإلا قليل. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها، زکریا ۲/۳۸۵، کراچی ۲/۶۲۵)

ویفسدھا العمل کثیر لا القلیل والفاصل بینهما أن کثیر هو الذی لا یشک الناظر بفاعله أنه لیس فی الصلاة وإن اشتبه فهو قلیل علی الأصح. (مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها، مکتبه فقیه الأمت ۱/۱۸۲، طحطاوی علی المراقی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، دارالکتاب ۳۲۲، حلبي کبیر، کتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، اشرفی ۴۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۵۴/۴۰)

ایک ہاتھ سے بجلی کا بٹن دبانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی

سوال [۲۷۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے گرمی کا زمانہ ہے محراب کے اوپر پتھکا لگا ہے،

مگر اس کا بٹن نہیں دبایا گیا تھا، امام صاحب نے ایک ہاتھ سے بٹن دبا دیا تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟

المستفتی: محمد زکرا اللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: امام کا محراب میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے بٹن دبانے سے نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا؛ کیونکہ یہ عمل قلیل ہے اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔

وكذالما تفسد الصلوة ولوروح المصلی بمروحة، أو بثوبه مرة، أو مرتین. (حلیٰ کبیر، مکتبہ اشرفی دیوبند ۴۴۸، التاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الخامس ما یفسد الصلاة، ۲/۲۳۳، رقم: ۲۲۵۹)

وکل عمل لا یشک بسببه الناظر إلی المصلی، أنه فی الصلاة؛ بل یظن ظننا غالباً أنه لیس فی الصلاة، فهو عمل کثیر وما کان دون ذلك بأن یشبهه علی الناظر ویتردد فی کونه فی الصلاة، أم لا فهو قلیل. (حلیٰ، کتاب الصلاة، باب مفسدات الصلاة، اشرفی ۴۴۱)

کل عمل لا یمکن إقامته إلا بالیدین فهو کثیر—وکل عمل یکمن إقامته بید واحدة فهو یسیر ما لم یتکرر. (التاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الخامس ما یفسد الصلاة، وما لا یفسد ۲/۲۳۳، ۲۲۶۰)

عن عائشة^{رضی اللہ عنہا}، قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلی الله علیه وسلم: یصلی تطوعاً والباب علی القبلة فمشی عن یمینہ، أو عن یشارہ ففتح الباب، ثم رجع إلی مصلاه. (نسائی شریف، کتاب السهو، باب المشی عمام القبلة خطی سیرہ، النسخة الهندیة ۱/۱۳۵، دارالسلام رقم: ۲۰۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۵۴/۴۰)

دوران نماز موبائل بند کرنا

سوال [۲۷۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کے جدید ٹکنالوجی دور میں موبائل جہاں سود مند ہے وہیں اکثر و بیشتر بڑی زحمت کا باعث ہوتا ہے، خصوصاً نماز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمازی اپنا موبائل فون بند کرنا بھول جاتے ہیں اور دوران نماز فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے، جس سے جن کا فون ہے، ان کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے اور باقی نمازیوں کی بھی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا نمازی دوران نماز اپنا موبائل فون بند کر سکتا ہے۔ نیز یہ کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر نمازی کی ٹوپی سجدہ میں گر جائے تو اگر عمل کثیر نہ ہو تو وہ ٹوپی پہن لے؟ بتائیں کہ عمل کثیر کی مقدار کیا ہے؟ نیز یہ کہ موبائل فون جیب میں ہے یا صاف پر رکھا ہوا ہے تو بند کرنے میں عمل کثیر ہو گا یا نہیں؟

المستفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو لوگ موبائل اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ بات یاد رہتی ہے اور خیال رہتا ہے کہ پیر سے چپل اتارنا ہے اور چپل کو حفاظت سے رکھنا ہے، یہ کام نہیں بھولا جاتا ہے، اسی طریقہ سے موبائل کے بارے میں کبھی نہیں بھولنا چاہئے، اہتمام کرنا چاہئے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو تار اتارنے کے ساتھ موبائل بھی بند کر لیں اور چند دن توجہ اور پابندی کرنے کے بعد پھر نہیں بھولیں گے، اتفاقاً اگر موبائل بند نہیں کیا اور دوران نماز موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو موبائل چاہے جیب میں ہو یا صاف میں بہر حال نمازی کو موبائل کی گھنٹی بند کر دینی چاہئے؛ کیونکہ گھنٹی بند نہ کرنے کی وجہ سے تمام نمازیوں کو خلل اور ذہن منتشر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ

سے بند کرنے کا یہ عمل بھی مکروہ ہے؛ لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جو مسئلہ آپ نے سوال میں لکھا ہے وہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أحمد: يصلي، والباب عليه مغلق، فجمت فاستفتحت، قال أحمد: فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة. (سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، النسخة الهندية ۱/۳۳، دار السلام رقم: ۹۲۲)

ويكره أن يروح على نفسه بمروحة، أو بكمه لا تفسد به الصلاة ما لم يكثر. (عالمگیری، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره، زكريا ۱/۱۰۷، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۶۵)

ولو أغلق الباب لا تفسد صلواته. (عالمگیری، كتاب الصلاة، الباب السابع مع فيما يفسد الصلاة، زكريا ۱/۱۰۴، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۶۲)

عمل کثیر کی تین تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں دو ذکر کی جاتی ہیں:

اول: نمازی کو دور سے دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ وہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہے اور اگر شک کرے تو عمل قلیل ہے۔

دوم: عمل کثیر اسے بھی کہا جاتا ہے، جس میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔
أن ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة كالتعمم ولبس القميص. (عالمگیری، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، زكريا ۱/۱۰۲، زكريا جديد ۱/۱۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ شعبان المعظم ۱۴۲۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۱۴۵/۳۷)

امام صاحب نے سجدہ سے اٹھتے ہوئے بجلی کا بٹن دبا دیا

سوال [۲۸۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام سجدے سے اٹھتے ہوئے تیزی کے ساتھ بجلی کا بٹن دبا دے جس سے بلب جل جائے، تو ایسی حالت میں نماز قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی یا مکروہ ہوگی؟

المستفتی: خورشید احمد حسن پور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ولو أغلق الباب لا تفسد صلواته.

(عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، زکریا ۱/۱۰۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۶۲، قاضیخان مع الہندیہ، کتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، زکریا ۱/۱۳۹، جدید زکریا دیوبند ۱/۸۱، سیٹ: ۷)

وإذا ضرب دابنة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته، لأن الضرب يتم بيد وواحدة الخ. (قاضیخان مع الہندیہ، کتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، زکریا ۱/۱۳۸، جدید زکریا دیوبند ۱/۸۰، سیٹ: ۷)

لأن المفسد إنما هو العمل الكثير وهو ما يظن أن فاعله ليس في الصلاة الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، کراچی ۱/۶۲۵، زکریا ۲/۳۸۵، مطبوعة كوئٹہ ۱/۴۶۲)

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اگر بٹن اس طرح سے امام سے قریب ہو کہ دبا دینے کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ امام نماز میں نہیں ہے، تو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ صحیح ہو جائے گی۔

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه،

ووصفت الباب في القبلة. (سنن الترمذي كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، النسخة الهندية ۱/۱۳۱، دارالسلام رقم: ۶۰۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷/ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۶۲۳)

رومال اور انگوچھا سامنے رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۲۸۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نمازی آدمی اعضاء وضو بعد وضو پوچھنے کے لئے رومال رکھتے ہیں یا انگوچھا اور اعضاء وضو پوچھنے کے بعد رومال کو اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا نماز کے اندر کوئی کراہت ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مبرہن کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: محمد مختار، سکوننگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں نماز کے اندر کوئی خرابی اور کراہت لازم نہ آئے گی۔

عن میمونۃ، قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت: وكان یصلي علی الخمرۃ. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ۱/۵۵، رقم: ۳۷۷، ف: ۳۷۹)

بأن ما یصیب منديل المتوضي وثیابه عفو اتفاقاً الخ. (درمختار، كتاب الطهارة، باب المیاء، زکریا ۲/۳۵۲، کراچی ۲۰۰۱)

ولابأس بالصلاة علی الطنفس، واللبود، وسائر الفرش. (المحیط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما یکره فی الصلاة، ومالا یکره،

المجلس العلمي جدید ۲/۴۳، رقم: ۱۴۳۶ (لفظ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ

۱۴۱۳/۲/۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۳۱۳)

رومال سے اعضاء وضو پوچھ کر سجدہ کی جگہ رکھنا

سوال [۲۸۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص وضو کر کے رومال سے اعضاء پوچھنے کے بعد دستی کو سجدہ کی جگہ رکھ کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آنے کی یا نہیں؟

المستفتی: محمد احمد الباق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسؤلہ میں اگر شدت گرمی یا کسی عذر کی

وجہ سے دستی اور رومال کو سجدہ کی جگہ پر رکھا ہے تو نماز مکروہ نہیں ورنہ مکروہ ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم: في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة، للسنن ۱/۱۶۱، رقم: ۱۱۹۴، ف: ۱۲۰۸)

رجل يصلي على الأرض ويسجد على خرقة وضعوها بين يديه ليقى بها الحر لأبأس به. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، فيما يكره في الصلاة، ومالا يكره، زكريا ۱/۱۰۸، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۶۶، المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع، كتاب الصلاة، والتسيح، المجلس العلمي جديد ۷/۵۱۴، رقم: ۹۴۵۵)

ولا بوضع خرقة يسجد عليها..... والظاهر أن محل عدم الكراهة إذا

لم ینشف بها الأعضاء من الماء المستعمل وإلا کره نظرا إلى الرواية بنجاسته، وإن کان كانت غیر معتمدة، قوله إتقاء الحر الخ ظاهره أنه یکره وضعها لغير ذلك. (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فیما لایکره للمصلی، دارالکتاب دیوبند ۳۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳/رجب المرجب ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۳۳۲/۳۶)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۷/۱۴۲۲ھ

مسجد کی چٹائی پر اپنا تولیہ وغیرہ بچھا کر نماز پڑھنا

سوال [۲۸۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض حضرات مسجد میں چٹائی ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے تولیہ وغیرہ لے کر چٹائی پر اس کو بچھا کر پھر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا یہ فعل کیسا ہے؟ اور اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد دلال الباغ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تولیہ کو فرش یا چٹائی وغیرہ پر بچھا کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یصلی علی الخمرۃ. (سنن الترمذی، النسخة الهندیة ۷۵/۱، دارالسلام رقم: ۳۳۱)
ولا بأس بالصلاة علی الطنفس، واللبود، وسائر الفرش. (تاتار خانیة، کتاب الصلاة، الفصل الرابع ما یکره للمصلی و ما لایکره، زکریا ۲/۲۰۹، رقم: ۲۱۸۳، المحيط البرهانی، کتاب الصلاة، الفصل الرابع ما یکره فی الصلاة،

و مالا یکره، المجلس العلمی جدید ۲/ ۴۳، رقم: ۴۳۶ (۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۲۳ / رجب المرجب ۱۴۲۲ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶ / ۷۳۳۳)

۲۳ / ۷ / ۱۴۲۲ھ

سجدہ میں زمین پر بالکل قدم نہ رکھنا یا رکھنے کے بعد اٹھالینا

سوال [۲۸۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ حالت سجدہ میں وضع قدمین کے بعد رفع قدمین سے نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں؟ وجہ شبہ یہ ہے کہ کتب فقہ و فتاویٰ میں مطلقاً وضع قدمین ”ولو كان إصبعاً واحداً“ کا تذکرہ ہے، مگر صریحاً جزئیہ یہ نہیں ملا کہ اگر وضع قدمین کے بعد دونوں قدم کو بالکل زمین سے اٹھالے تو نماز ہوگی یا نہیں اور کتب فقہ میں فرضیت وضع قدمین کا قول بھی نقل کیا گیا ہے، بر بناء این قول تو نماز فاسد ہونی چاہئے اور سنیت کا قول بھی منقول ہے۔ نیز خلیجان کی دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے اکابر کے فتاویٰ میں بھی اختلاف نظر آتا ہے؛ چنانچہ فتاویٰ دارالعلوم ۴/ ۳۵۸ میں ہے، اگر بالکل تمام سجدہ میں دونوں قدم اٹھے رہیں تو سجدہ نہ ہوگا (الی قولہ) کم از کم ایک انگشت کسی وقت سجدہ میں زمین پر ٹھہر جائے یہ نہیں کہ اگر قدمین زمین سے اٹھ گئے اور پھر رکھ لئے تو نماز نہ ہوگی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضع قدمین کے بعد اگر دونوں قدمین بھی اٹھالئے تو نماز ہو جائے گی، اور یہی فتاویٰ دارالعلوم ۴/ ۱۰۸ سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب یوں فرماتے ہیں: کہ سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھادینے سے نماز نہیں ہوتی۔ (کفایت المفتی ۳۷۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہ ہوگی، حضرت مفتی محمود الحسن دامت برکاتہم کا فتویٰ

بھی ملاحظہ فرمائیے: اس میں کوئی حکم نہیں لگایا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲/ ۱۹۶)

حضرت والا ان تحریرات کو پڑھ کر اول کی تصحیح اور ثانی کے متعلق اپنی تحقیق سے ایک

فیصلہ فرمادیں اور میرے اضطراب کو دور فرما کر شفقت و لطافت کا معاملہ فرمائیں، حضرت میرے لئے دعاء فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل اور فلاح دارین نصیب فرمائے۔

المستفتی: فاروق عفی عنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہی قول راجح ہے کہ بالکل قدم نہ رکھنے کی صورت میں نماز فاسد ہوتی ہے، پورے سجدے میں کسی بھی وقت رکھ لئے ہوں اور پھر اٹھا لئے ہیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جیسا کہ فتاویٰ دارالعلوم میں ہے اور کفایت المفتی کی عبارت اس کے معارض نہیں ہے۔

وقال بعضهم إن حرک رجلیہ قليلا لا تفسد صلوٰتہ، کذا فی المحيط هو الأوجه الخ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاۃ، الباب السابع، فیما یفسد الصلاۃ، وما یکرہ فیہا، زکریا کوئٹہ ۱/۱۰۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۶۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰/ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۷/۳۸)

عورت کے صف میں کھڑے ہونے سے کس کس کی نماز فاسد ہوگی؟

سوال [۲۸۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر عورت اگلی صف میں مرد بچھلی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کریں تو جس مرد کے سامنے اگلی صف میں عورت کھڑی ہے اس مرد کی نماز کس حکم میں ہے نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: اقبال احمد، شیرکوٹ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عورتیں باقاعدہ جماعت میں شریک ہو جاتی ہیں

اور امام نے ان کی امامت کی نیت بھی کر رکھی ہو تو عورتوں کی نماز صحیح ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام نے ان کی امامت کی نیت نہیں کر رکھی ہے تو صرف عورت کی نماز فاسد ہوگی۔

وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلوة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن يمينها و من عن يسارها و من خلفها. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، کراچی ۱/۶۳۵، زکریا ۲/۳۱۶، ہدایہ، کتاب الصلاة، باب الإمامة ۱/۱۲۴)

فإن حادثة في صلوة مشتركة تحريمه وأداء فسدت صلوته إن نوى إمامتها وإصلاحاتها. (شرح وقایہ، کتاب الصلاة، فصل في الجماعة، اشرفی ۱/۱۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۷۳۶۳۳)

مسجد حرام میں مردوں و عورتوں کا مخلوط نماز پڑھنا

سوال [۲۸۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ماہنامہ ندائے شاہی فروری ۱۹۹۰ کو ملاحظہ تو یہ ہے کہ یہ دور حاضر اور اس کے مسائل پر دین کی روشنی میں پیش بہا خدمات انجام دے رہا ہے، براہ کرم درج ذیل سوال کا جواب ماہنامہ ندائے شاہی کی اگلی اشاعت میں شائع فرمادیں۔

سوال: میں ادائے گی فریضہ حج بیت اللہ کے لئے سعودیہ عرب گیا تھا میں نے وہاں دیکھا کہ مسجد حرام میں خواتین بھی مردوں کے ساتھ ہی صفوں میں باجماعت نماز پڑھتی ہیں۔
المستفتی: محمد صدیق مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عورتیں مردوں کی صفوں سے الگ پیچھے کھڑی ہو کر شریک جماعت ہو جائیں، تو ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ میں معمول ہے۔

ویصف الرجال، ثم الصبيان، ثم الخنثاء، ثم النساء الخ (الدر المننتقی مع

مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل الجماعة سنة مؤکدة بیروت ۱۰۹/۱، قدیم ۱/۱۶۵)

لیکن اب زمانہ فتنہ کا ہے اس لئے عورتوں کا باجماعت نماز پڑھنے کی غرض سے مسجدوں میں حاضر ہونا جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ ہندوستانی مساجد میں اس کا معمول نہیں ہے۔

ولایحضرن: أي لایحل لهن: أي یحضرن الجماعات لخوف الفتنه الخ

(الدر المننتقی مع مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل الجماعة سنة مؤکدة بیروت

۱۰۹/۱، قدیم ۱/۱۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیبہ احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ رجب ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۷۴/۲۶)

کیا مسجد حرام میں محاذات میں سہولت کی کوئی شکل ہے؟

سوال [۲۸۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ حج کے بارے میں ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جمع مرد و عورت کا مخلوط

ہوتا ہے، طواف بھی ایک ساتھ کرتے ہیں اور فرض نمازوں میں بھی مرد و عورت سب ایک ہی

صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مسئلہ محاذات کی رو سے لاکھوں افراد کی نماز فاسد ہوتی ہے،

تو اس خاص موقع پر ان لاکھوں افراد کی نماز صحیح قرار دینے کی کوئی شکل ہے؟ کیا مسئلہ محاذات

میں کچھ سہولت کی جاسکتی ہے؟

المستفتی: نعت اللہ عباسی جزل اسنور، چوک گوئڈہ (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک نماز میں ایک امام کی اقتداء میں مسجد حرام میں جن مردوں کے بغل میں عورتیں کھڑی ہو کر شریک جماعت ہو جاتی ہیں، ان مردوں کی نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں؛ اس لئے کہ مسجد حرام میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے اور مسجد حرام یا کسی اور جگہ مسئلہ محاذات میں سہولت سے متعلق احقر کی نظر سے کوئی صراحت نہیں گذری۔

إن حادثه مشتہاة في ركن من صلاة مطلقه مشتركة تحريمه، وأداءً في مكان متحد بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلوته، إن نوى إمامتها وكانت جهتهما متحدة وتحتہ في چلبي و عليه الفتوى، وكثيراً ما تفسد الصلاة، بهذا السبب في المسجد الحرام، والمسجد الأقصى الخ (تبيين الحقائق مع حاشية چلبي، كتاب الصلاة، باب الإمام والحدث في الصلاة، زكريا ۱/۳۵۶، امدادية ملتان ۱/۱۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۲۳۸)

مسجد نبوی میں عورت کی محاذات کا حکم

سوال [۲۸۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں خواتین کی صفیں ایک بنی ہیں اور وہ بھی اندر ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر ہاں تو ہندوستانی مساجد میں ایسا رواج کیوں نہیں ہے؟

المستفتی: نیاز مند محمد صدیق، پرنس روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک نماز میں ایک ہی امام کی اقتداء میں مسجد حرام

کے اندر جن مردوں کے بغل میں عورتیں کھڑی ہو کر شریک جماعت ہو جاتی ہیں، ان کی نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں؛ اس لئے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔

إن حادثه مشتہاة فی رکن من صلوة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء فی مکان متحد بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلوته إن نوى إمامتها، وكانت حهتهما متحدة وتحتہ فی چلبی وعلیہ الفتوی. وکثیرا ما تفسد الصلوة بهذا السبب فی المسجد الحرام والمسجد الأقصى الخ. (تبیین الحقائق

ماحاشیة چلبی امدادیة ملتان ۱/۱۳۹، زکریا ۱/۳۵۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴ھ

۱۴۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف)

سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا تو کیا حکم؟

سوال ۲۸۰۹: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اسی اثنا میں دوسرے شخص نے مسجد میں داخل ہو کر ”السلام علیکم“ کہا، جو آدمی نماز میں تھا اس نے بے خیالی میں جواب میں ”وعلیکم السلام“ کہہ دیا اور نماز جاری رکھی تو نماز درست ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: ولی اللہ سینا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز پڑھتے ہوئے زبانی سلام کا جواب دینے

سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: کتاب المسائل ۱/۳۸۵)

ورد السلام ولو سهواً بلسانہ. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة،

وما یکرہ فیہا، قبیل مطلب المواضع التی یکرہ فیہا السلام کراچی ۱/۶۱۵، زکریا ۲/۳۷۳)

ولاینبغی للمصلی أن یرد سلامه بإشارة ولاغیر ذلك وأما رد السلام بالقول والإشارة، فالأن رد السلام من جملة کلام الناس . (بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، باب مفسدات الصلاة، ۱/ ۴۴۵، زکریا قدیم ۱/ ۲۳۷)

یفسد الصلاة التکلم والسلام ورده، لأنه من کلام الناس . (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد صلاته، وما یکره، کراچی ۲/ ۸، زکریا ۲/ ۱۳)

رد السلام علی غیره فسدت صلاته . (الفتاویٰ التاتاریخ حانیة، کتاب الصلاة، الفصل الخامس، باب ما یفسد الصلاة، وما لا یفسد، زکریا ۲/ ۲۲۹/ ۲۲۵)

یفسدها رد السلام سواء کان ساهیا، أو عامداً، لأنه لیس من الأذکار؛ بل هو کلام . (مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها ۱/ ۱۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۷۱/۴۰)

اگلی صف میں فرجہ دیکھ کر آگے چل کر فرجہ میں داخل ہونا

سوال [۲۸۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں نیت باندھنے کے بعد آگے فرجہ دیکھ کر نمازی کتنی صفوں تک آگے جاسکتا ہے؟

المستفتی: عبدالاحد، سدھولی، بیتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں نیت باندھنے کے بعد آگے صف میں فرجہ کشادگی دیکھ کر ایک صف کی مقدار چلا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور دو صف کی مقدار ایک ہی دفعہ چلا تو نماز فاسد ہو جائے گی؛ لیکن ایک صف کی مقدار چلا پھر ٹھہر گیا پھر چلا پھر ٹھہر گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ زکریا ۱/ ۴۴۱)

عن خيشمة قال: صليت إلى جنب ابن عمر فرأى في الصف فرجةً، فأوماً إليّ فلم اتقدم، قال: فتقدم هو فسدّها. (المنصف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب في سد الفرج في الصف قديم ۳/۲۹۰، رقم: ۳۸۲۲، جديد ۳۸۴۲) قالوا في رجل كان في الصف الثاني فرأى فرجة في الصف الأول، فمشى إليها لم تفسد صلاته ولو كان في الصف الثالث، فرأى فرجة في الصف الأول وسد الفرجة تفسد صلاته، وإن لم يستدبر القبلة. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس، باب ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد ۲/۲۳۰، رقم: ۲۲۵۳)

ولو مشى في صلاة مقدار صف واحد لم تفسد صلاته، ولو كان مقدار صفين إن مشى دفعة واحدة فسدت صلاته، وإن مشى إلى صف ووقف، ثم مشى إلى صف لا تفسد صلاته. (حانية، كتاب الصلاة، فصل فيما تفسد الصلاة ۱/۱۳۴، جديد ۱/۸۴، فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، كراچی ۱/۳۵۲، زكريا ۱/۴۱۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۲۳/۴۰)

نا بیٹا و بہرے شخص کو ہر رکن میں قریب والے نمازی کا اشارہ کرنا

سوال [۲۸۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نا بیٹا ہے مزید بہرا بھی ہے امام کی اقتداء صحیح نہیں کر پاتا حتیٰ کہ اگر امام سجدہ میں ہے تو وہ رکوع میں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر نا بیٹا کو کوئی شخص اشارہ ہر رکن پر کرتا رہے تو نا بیٹا یا اشارہ کر نیوالے کی نماز میں کوئی خرابی تو نہیں آئے گی؟

المستفتی: مسعود الحسن رشیدی بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایسے شخص پر جماعت واجب نہیں بہتر یہ ہے

کہ تہا نماز پڑھے۔

فلانجب علی أعمی وإن وجد قائدًا. (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب

الإمامة کراچی ۱/۵۵۵، زکریا ۲/۲۹۲)

أن القادر بقدره غیره لیس بقادر. (البحر الرائق، باب الإمامة کوئٹہ

۱/۳۶۷، زکریا ۱/۶۴۲)

لأن الاقتداء متابعه ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة. (خانية، کتاب

الصلاة، فصل فیمن یصح الاقتداء قديم ۱/۹۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۶۱)

اگر ایسے شخص کو دوسرا شخص ہر رکن میں اشارہ کرے گا تو اشارہ کرنے والے کی نماز

فاسد ہونے کا خطرہ ہے۔

والمراد بالعبث هنا ما ليس من أفعال الصلاة، لأنه ينافيها.

(مراقی الفلاح مع الطحطاوي، کتاب الصلاة، فصل في المكروهات، اشرفی ۳۴۵،

قديم ۱۹۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۸/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ شعبان المعظم ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۰۳۱/۳۱۳)

نابینا رکوع نہ کر سکا تو نماز فاسد ہوگئی

سوال [۲۸۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر نابینا شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور مغالطہ میں رہ کر رکوع نہ کر سکا،

تو اس پر نماز کا اعادہ ہے یا نہیں؟

المستفتی: راغب حسن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مغالطہ میں جس نابینا شخص کا رکوع رہ گیا ہے، اس کی نماز فاسد ہوگئی؛ اس لئے کہ رکوع فرض ہے اور اس کا ترک مفسد صلوة ہے۔

وفي الوالجية الأصل في هذا أن الممتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب ففي الوجه الأول إن أمنكه التدارك بالقضاء يقضي وإلا فسد صلوته.
(الفتاوى التاتارخانية ۱/ ۱۱۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۱۱/۱۴۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/۱۱/۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۸۴۶۷)

بچہ کے لیستان چوسنے سے دودھ نکل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے

سوال [۲۸۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور نماز ہی کی حالت میں بچہ نے آکر دودھ پینا شروع کیا تو اس صورت میں نماز باقی رہے گی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالصمد متعلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بچے کے چوسنے سے دودھ نکلتا ہے تو نماز

فاسد ہوگی اور لوٹانا واجب ہوگا۔

صبي مص ثدى إمراة مصلية إن خرج اللبن فسدت وإلا فلا، لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعاً الخ (عالمگیری، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، و ما يكره فيها، زكريا كوثنه ۱/ ۱۰۴، جديد زكريا ديوبند ۱/ ۱۶۲، هكذا في البحر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، و ما يكره، فيها، البحر الرائق، زكريا ۲/ ۲۱، كوثنه ۲/ ۱۲، وهكذا أيضاً في الفتح، كتاب الصلاة،

باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیہا، فتح القدیر، زکریا ۱/۴۱۳، کوئٹہ ۱/۳۵۱ (فقہ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم)

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 اربع الثانی ۱۴۱۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۷۴۳/۲۵)

نماز کی حالت میں ماں سے بچہ نے دودھ پی لیا تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

سوال [۲۸۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اغلاط العوام میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عورت نماز پڑھ رہی تھی اسی اثناء میں اس کے دودھ پیتے بچہ نے آکر اس کا دودھ پی لیا، تو اس کی نماز فاسد ہوگئی، تو سوال یہ ہے کہ فاسد ہونے کی علت کیا ہے؟

المستفتی: عبداللہ، لاالبغ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مسئلہ میں نماز کے فاسد ہونے کی علت عمل کثیر کا پایا جانا ہے، جب بچہ نے خود آکر ماں کے پستان میں منہ لگا کر دودھ پی لیا ہے اور ماں نماز کی حالت میں بچہ کو روک نہیں سکی تو اس کو فقہاء نے عمل کثیر کے حکم میں قرار دیا ہے؛ اس لئے اس کی نماز فاسد ہوگئی ہے۔

المرأة أرضعت ولدھا فی الصلاة تفسد صلاتھا، ولو جاء الصبی وارضع من ثدیھا، وہی کارهة، فنزل لبنھا فسدت صلاتھا. (خانیة، کتاب الصلاة، فصل فیما یفسد الصلاة، ۱/۳۲-۱۳۳، جدید زکریا ۱/۸۳، تاتار خانیة، کتاب الصلاة، الفصل الخامس، باب ما یفسد الصلاة، وما لا یفسد، زکریا ۲/۲)

المرأة إذا أرضعت ولدھا تفسد صلاتھا، لأنها صارت مرضعة. (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیہا، کوئٹہ ۲/۱۲، زکریا ۲/۲۱)

ومن الفروع المؤسسة: لو أَرْضَعْتَ ابْنَهَا، أو رَضَعَهَا فَنَزَلَ
لِبْنِهَا فَسَدَتْ. (فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها،
زكريا ۱/۱۳، ۴، كراچی ۱/۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۸۲/۴۰)

نماز کی حالت میں لکھنے کا حکم

سوال [۲۸۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ ایک شخص نے نماز کی حالت میں قلم ہاتھ میں لے کر کچھ لکھ دیا تو اس کی
نماز کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد یعقوب غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر اس شخص نے تین یا اس سے زیادہ کلمات
لکھ دیئے تو اس کی نماز فاسد ہوگئی؛ کیونکہ یہ عمل کثیر کی حد میں داخل ہو گیا اور اگر تین کلمات
سے کم لکھے تو نماز صحیح تو ہوگئی مگر مکروہ ہوگی۔

ولو كتب قدر ثلاث كلمات في صلاته تفسد صلاته، وإن كان أقل لا .
(ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، و ما يكره فيها، قدیم
زكريا ۱/۱۰۳، جدید ۱/۱۶۲)

لو كتب في صلاته خطأ مستبيناً لا تفسد صلاته إلا أن يطول فيصير
عملاً كثيراً فحينئذ تفسد صلاته و حد الطول: أن يزيد على ثلاث
كلمات . (تاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل الخامس، باب ما يفسد الصلاة،

زکریا ۲/۲۳۸، رقم: ۲۲۸۱، کذا فی الحلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، (۴۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۳۱/۴۰)

نماز میں پینٹ شرٹ کے پیچھے کا حصہ کھل جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۸۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض لوگ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع و سجدہ کی حالت میں اوپر کا کپڑا اوپر اور نیچے کا کپڑا نیچے کو چلا جاتا ہے، پیچھے کی جانب سے ناف کی سیدھ کا حصہ کھل جاتا ہے اور بعض کے کولہے تک کھل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟
المستفتی: محمد سلیمان غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ناف کی سیدھ کا حصہ کھلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی؛ کیونکہ ناف ستر میں داخل نہیں؛ البتہ کولہے کا چوتھائی حصہ تین بار تسبیح پڑھنے کی بقدر کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی؛ کیونکہ کولہا مرد کے ستر میں داخل ہے۔

ویمنع حتی انعقادھا کشف ربع عضو قدر أداء رکن وذلک

قدر ثلث تسبیحات. (شامی، کتاب الصلاة، شروط الصلاة، زکریا ۲/۸۱-۸۲، کراچی ۱/۴۰۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷ جمادی الاوٰی ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۱۷/۴۰)

سجدہ میں دونوں پیروں کا ایک رکن کے بقدر اٹھے رہنا

سوال [۲۸۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نماز مغرب باجماعت ادا کر رہا تھا، ہمارے پیچھے دوسری جماعت کھڑی ہوئی تھی، جس میں سے ایک آدمی نے نماز سے فارغ ہو کر مجھ کو انگلی کے اشارے سے روکا اور کہا میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا داہنا پاؤں ہلتا ہے، پھر چند نمازی اور بھی یہی بات کہنے لگے پاس میں باہر امام مسجد کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ داہنا پاؤں ہلنے سے نماز نہیں ہوتی؛ اس لئے تمہاری نماز نہیں ہوئی؛ لہذا قانون شریعت کی روشنی میں یہ مسئلہ درست ہے یا غلط؟ اس پر روشنی ڈال کر ممنون فرمائیں نوازش ہوگی۔

المستفتی: عبدالرحیم، سرانے کھجور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مستفتی سے زبانی کیفیت معلوم کی گئی عام طور سے سجدہ اور جلسہ میں پیر جس کیفیت پر ہوتا ہے، اس کو ہلنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا نماز درست ہوگئی ہے، نیز مستفتی نے رکوع و سجدہ کر کے دکھلایا ہے، اس اعتبار سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی؛ البتہ اگر سجدہ وغیرہ میں دونوں پیر ایک رکن کی مقدار اٹھائے رکھے تو نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

وإن حرك رجلية تفسد (وقوله) قال بعضهم إن حرك رجلية قليلا

لاتفسد صلواته..... وهو الأوجه. (عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد

الصلاة،..... الفصل الأول فيما يفسدھا، زکریا ۱/۱۰۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۶۱)

وإن حرك رجلا واحدا لا على الدوام، لاتفسد صلاته، وإن حرك

رجليه تفسد صلاته، واعتبر هذا القائل العمل بالرجلين بالعمل باليدين

والعمل برجل واحد بالعمل بيد واحدة، وقال بعضهم: إن حرک رجلیه قليلاً، لا تفسد صلاته، وإن فعل ذلك كثيراً، تفسد صلاته. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس، ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، المجلس العلمي جديد ۱۶۴/۲، رقم: ۱۴۷۶، الفتاوى الثاتار خانیه، كتاب الصلاة، الفصل الخامس، ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، زكريا ۲/۲۳۵، رقم: ۲۲۷۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ صفر لمظفر ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۱۰/۲۳)

نماز میں داہنا پاؤں ایک جگہ جمائے رکھنا

سوال [۲۸۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز میں داہنے پاؤں کا از ابتداء تا انتہا ایک ہی جگہ پر جمائے رکھنا ضروری ہے ورنہ نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے؟ اس مسئلہ کی تصریح فرمائیں۔

المستفتی: وحید اللہ خان، فرخ آباد (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز فاسد نہیں ہوتی۔

وإن حرک رجلا واحدة لا علی الدوام لا تفسد الصلاة. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الأول فيما يفسدها، زكريا ۱۰۳/۱، جدید زكريا ديوبند ۱/۱۶۱، البناء، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، اشرفية ۲/۴۹، البحرائق الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد وما يكره فيها، كوئٹہ ۲/۱۳، زكريا ۲/۲۲)

ہاں بلا عذر کے صرف ایک پیر پروزن دے کر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔

ویکره القيام على أحد القدمين في الصلاة الخ (شامی، کتاب الصلاة،

باب صفة الصلاة، بحث القيام، زکریا ۲/۱۳۱، کراچی ۱/۴۴۴، مصري ۱/۴۱۴،
 الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، دارالكتاب دیوبند ۱/۵۹، الفتاویٰ
 التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع، وما يكره للمصلي وما لا يكره، زکریا
 ۲/۲۰۸، رقم: ۲۱۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۵ شوال المعظم ۱۴۰۷ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۲۹۹)

رکوع وسجدہ میں انگوٹھے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا

سوال [۲۸۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
 کے بارے میں: کہ بحالت نماز رکوع وسجود کی ادائے گی کے وقت داہنے پاؤں کا انگوٹھا
 اپنی جگہ سے ہٹنے پر نماز کی صحت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، ایسا تو نہیں کہ نماز مکروہ
 ہو جائے؟ برائے کرم مذکورہ سوال کا جواب دے کر از روئے شریعت مشکور فرمائیں۔

المستفتی: محمد یونس ایس ایم زادہ کمپنی مصطفیٰ باد، کنگھڑ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا مسنون ہے، اگر داہنے
 پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹانے کی وجہ سے قبلہ رخ نہ رہے تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے
 مکروہ ہوگا ورنہ نہیں۔

قال: أبو حميد الساعدي: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة
 الحديث. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد ۱/۴۱۴،

رقم: ۸۲۰، ف: ۸۲۸، صحيح ابن خزيمة المكتب الإسلامي ۱/۳۵۰، رقم: ۶۵۱)

بل المصرح به أن توجيهها نحو القبلة سنة يكره تركها الخ (شامي،

كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، کراچی ۱/۵۰۰، زکریا ۲/۲۰۵، کوئٹہ ۱/۳۷۰)

وفي الدر المختار ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويكره إن لم يفعل ذلك كما يكره، لو وضع قدماً ورفع أخرى بلا عذر الخ.
 (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، كراچی ۱/۵۰۴، زكريا ۲/۲۱۰، كوئٹہ ۱/۳۷۲)
 ويكره أن يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره.
 (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع، مايكره للمصلي وما لا يكره
 زكريا ۲/۲۰۹، رقم: ۲۱۸۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۸ شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۸۴۶۲۴)

داہنے پیر کا انگوٹھا ملنے سے نماز کا حکم

سوال [۲۸۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گرام جواہر نگر تاج مسجد میں جو بھی امام رکھتے ہیں مہینے میں دس دن نماز پڑھاتے ہیں، بیس دن اپنے گھر رہتے ہیں اور باہر کے امام صاحب نہ ہی اذان پڑھتے ہیں اور نہ ہی بچے پڑھاتے ہیں؛ بلکہ نماز پڑھا کر محلہ میں جا بجا گھر بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، امام صاحب کی اس بات سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، اگر امام صاحب اپنے گھر چلے گئے تو ۸/۸ دن میں آتے ہیں، ہم لوگ مزدور طبقہ ہیں مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں کئی کئی دن ہو جاتے ہیں کہ اذان نماز نہیں ہوتی؛ لہذا ایک دن ایک میت ہوگئی امام صاحب گھر چلے گئے تھے، اچانک ایک مولانا ہماری بستی کے آئے وہ باہر امامت کرتے ہیں، ہم سب بستی والوں نے جمع ہو کر سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی بستی کے مولانا کو رکھ لیں؛ کیونکہ باہر کا امام باہر کا ہوتا ہے نہ ہی کوئی شکایت ہم کو مولانا سے ہے نہ ہی مولانا کو ہم سے ہے، دوسری بات یہ ہے ہماری بستی کے مولانا کے داہنے پیر کا انگوٹھا جنبش کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ سیکڑوں آدمیوں کا انگوٹھا ہل جاتا ہے سبھی کی نماز میں فرق آ جاتا ہے، ہم سبھی بستی والوں نے بستی والے مولانا کو

رکھ لیا: لہذا آپ تحریر کریں کہ کیا انگوٹھا ہل جانے سے نماز جائز ہو جاتی ہے؟ آپ تحریر کریں کہ امام صاحب کا داہنے پیر کا انگوٹھا ہلا یعنی جنبش کر گیا تو نماز فوت ہو جائے گی؟

المستفتی: انتظامیہ کمیٹی تاج مسجد جواہر نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔

وإن حرك رجلا واحدة لا على الدوام لا تفسد الصلاة.

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الأول، فيما يفسدها، زکریا ۱/۱۰۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۶۱، البنایة، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، اشرفية ۲/۴۴۹، البحر الرئق، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، كوئنه ۲/۱۳، زکریا ۲/۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ صفر المظفر ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۶۲۷/۲۵)

دوران نماز امام کا انگوٹھا اور قرأت کے وقت گردن کا ہلنا

سوال [۲۸۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کا نماز پڑھتے وقت داہنے پیر کا انگوٹھا آگے پیچھے ہوتا ہے اور قرأت کرتے وقت گردن بھی ہلتی ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد سلیم مسجد ہلال، پیرغیب مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں بوقت قرأت گردن ہلنے اسی طرح

داہنے پیر کا انگوٹھا آگے پیچھے ہو جانے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا؛ اس لئے اگر اس طرح

کا فعل امام صاحب سے ہو جائے تو تمام لوگوں کی نماز درست ہو جائے گی، کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے؛ البتہ انگوٹھے وغیرہ کا نہ ہلنا بہتر ہے، تاہم ایسے شخص کی امامت بلا کراہت درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۵/۲، محمودیہ قدیم ۵۰/۱۵، جدید ۵۱/۳)

وحررناہ فی شرح الملتقی وفیہ یفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة وإلا لم تجز..... والناس عنه غافلون. (در مختار) والحاصل أن المشهور في كتب المذاهب اعتماد الفرضية والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية، ثم الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب. (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، کراچی ۱/۵۰۰، زکریا ۲/۲۰۵، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/۷۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

۱۳۲۲/۱۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۰۵۰/۳۵)

نماز میں پیر کا انگوٹھا ہلنا

سوال [۲۸۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں مصلیان کے درمیان یہ بحث ہوگئی کہ نماز میں پیر کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہئے، اس سے نماز نہیں ہوتی؛ اس لئے ہم لوگ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ صحیح مسئلہ بتا کر شکر یہ کا موقع دیں؟

المستفتی: محمد جا براء پورامروہ گیت مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں مصلیوں کی یہ بات کہ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا ایک ہی جگہ رہے اور ہلنا درست نہیں ہے، شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اگر نماز میں پیر کا انگوٹھا ہل گیا تو اس سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۵/۲)

ويفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة وإلا لم تجز.
 (درمختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، کراچی ۱/ ۵۱۱، زکریا ۲/ ۲۰۴)
 وإن وضع إصبعاً واحدة، فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع.....
 تجوز صلاته. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة باب صفة الصلاة، زکریا ۱/ ۷۰،
 جدید زکریا دیوبند ۱/ ۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۷۱۷۹/۳۵)

نماز میں پاؤں کو آگے پیچھے کرنا

سوال [۲۸۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں دونوں پاؤں کا سلام تک متصل رہنا فرض ہے؛ البتہ بائیں پاؤں میں گنجائش ہے کہ سجدہ وغیرہ میں تھوڑا بہت اٹھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاں اگر دایاں پاؤں ایک سنڈ کے لئے بھی زمین سے علیحدہ ہو جائے، تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ اور کیا نماز کا کا عادیہ لازم اور واجب ہے؟

المستفتی: ماسٹر سکندر علی رحمت گنج سوڑھی پٹنہ (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں داہنے یا بائیں پیر کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا نہ مفسد صلوة ہے نہ مکروہ ہے؛ البتہ قصد ابلا ضرورت پیر کو آگے پیچھے کرنا مکروہ تفریحی یعنی خلاف اولیٰ ہے اور یہ کہنا کہ نماز میں دونوں پاؤں کا متصل رہنا فرض ہے اور اگر دایاں پاؤں ایک سنڈ کے لئے زمین سے الگ ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، حکم شرعی ایسا نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی؛ البتہ بلا ضرورت بلا وجہ پاؤں کو ہلاتے رہنا اٹھانا مکروہ ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۱۹/۴)

ومن لوازمه (الخشوع) ظهور الذل و غص الطرف و خفض الصوت
 و سکون الأطراف. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها،
 کراچی ۱/۶۴۱، زکریا ۲/۴۰۷)
 عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنان خيل شمس اسكنوا في الصلاة.
 (مسلم شریف، کتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، ۱/۱۸۱، بیت الأفكار
 رقم: ۴۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۴ رصف المظفر ۱۴۲۳ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۷۹۵۰/۳۶)

بلا عذر ایک رکن میں دوبار کھجلانا

سوال [۲۸۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
 کے بارے میں: کہ زید نے نماز ظہر پڑھائی بعد سلام خالد نے فرمایا کہ جو بائیں طرف کھڑا تھا
 اس کی نماز نہیں ہوئی؛ کیونکہ امام نے رکوع میں اپنی آنکھ کو دوبار کھجلیا ہے (پوری رکعت)
 میں نے دیکھا ہے، امام نے فرمایا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے؛ کیونکہ مجھے چار چھ روز
 جاڑا بخار رہا ہے، بائیں وجہ ممکن ہے میرا ہاتھ آنکھ پر چھو بیٹھا گیا ہوگا، اس پر خالد نے تیور
 بدل کر فرمایا نماز نہیں ہوئی، امام نے کہا میری نماز تو ہوگئی، مگر آپ کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ
 پڑھ لو؛ چنانچہ خالد کا دوسری نماز پڑھنا اور نماز میں تجسس کرنا اور امام کو رسوا کرنا اور نماز میں
 دیکھنا کیسا ہے؟ آیا نماز ہوئی یا نہیں مفصل تحریر فرمائیں، محلہ میں نزاع ہو رہا ہے، یہ سب
 اس کے تحت ہوا کہ امام کو ہٹانا اور اپنا اقتدار قائم کرنا ہے؛ چنانچہ شب میں میٹنگ ہوئی
 اور دن میں اعتراض پیش آگیا۔

المستفتی: حاجی عبدالسلام انصاری، منگوشاہ، نجیب آباد، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز دونوں کی ہوگئی اور امام صاحب کی نماز بلا کراہت صحیح ہوگئی؛ کیونکہ عذر کی وجہ سے ایک دو بار کھلانے سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔
(مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۴۱۶، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۱۴۵)

ولو حک المصلي جسده مرة، أو مرتين متواليين لا تفسد صلاته للقلّة.
(حلبی کبیر، کتاب الصلاة، باب مفسدات الصلاة، اشرفیہ ۱/۴۸، البناء، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، اشرفیہ دیوبند ۲/۴۹)

عن ابن جریج، قال: قلت لعطاء: الرجل يتمطى في الصلاة- إلى- قلت: فالاحتكاك في الصلاة، والارتداء والارتار في الصلاة، قال: كل ذلك لا تفعله في الصلاة. (مصنف عبد الرزاق، باب التحريك في الصلاة ۲/۲۶۳، رقم: ۳۲۹۶)

اور مقتدی کی نماز مکروہ ہوگئی؛ کیوں کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نماز میں متوجہ ہونے سے خشوع و خضوع میں فرق آجاتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴/۱۱۹)

قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه.
(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، النسخة الهندية ۱/۱۳۱، دارالسلام رقم: ۹۰۹)

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة ۱/۱۰۴، رقم: ۷۴۲، ف: ۷۵۱)

نیز اگر امام کے اندر کوئی شرعی برائی، فسق و فجور نہیں تو محض بعض مقتدیوں کی مخالفت اور عناد کی وجہ سے امام کو علاحدہ کر دینا جائز نہیں۔

فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوه أيضا، بأن يكون الكارهون أكثر مأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والإثنين، والثلاثة، إذا كان المؤمنون جمعا كثيراً. (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، دار البشائر الإسلامية ۳/ ۴۷۵، سہارنپور قدیم ۱/ ۳۳۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ محرم الحرام ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰/۴۵۰)

ایک رکن میں عذر یا بلا عذر متعدد بار کھجلا نا

سوال [۲۸۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے محلہ کی مسجد کے امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران تیسری رکعت کے رکوع میں جاتے ہی ہاتھ اٹھا کر آنکھ کھجلا نا شروع کر دیا، کبھی ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا کر آنکھ کھجلا نے لگتے، اس طرح کئی بار مسلسل کیا یہ ہاتھ اٹھانا اور آنکھ کھجلا نا اور پھر گھٹنوں پر رکھنا ایک ہی رکن میں تین بار سے زائد کیا، اس طرح چوتھی رکعت کے رکوع میں بھی تو کیا اس صورت میں نماز فاسد ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد اسلم قاسمی، نجیب آباد، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بلا عذر ایک بار بھی کھجلا نا مکروہ تحریمی ہے اور بوقت عذر ایک بار دوبار کھجلا نے سے بلا کراہت نماز ادا ہو جاتی ہے اور تین بار اس طرح کھجلا نا کہ درمیان میں بقدر رکن توقف نہ ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگرچہ بوقت ضرورت ہی ہو جیسا کہ سوال نامہ سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔

عن ابن جریج[ؒ]، قال: قلت لعطاء-إلى-قلت: فلاحتكاك في الصلاة،

والارتداء والانتزاع في الصلاة، قال: كل ذلك لا تفعله في الصلاة. (مصنف

عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب التحريك في الصلاة ۲/۲۶۳، رقم: ۳۲۹۶)

وإن حك ثلاثاً في ركن واحد تفسد صلاته، إذا رفع يده في كل مرة
والإفلا تفسد، لأنه حك واحد. (حاشية الطحطاوي على مراقبي الفلاح، كتاب الصلاة،

باب مفسدات الصلاة، دارالكتاب ديوبند جديد ۳۲۳)

الحك بيد واحدة في ركن ثلث مرات يفسد الصلاة، إن رفع يده
في كل مرة الخ (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها، کراچی

۱/۶۴۰، زکریا ۲/۴۰۷، مطبوعه کوئٹہ ۴۷۳، احسن الفتاویٰ ۳/۴۱۶)

معلوم ہوا کہ مذکورہ صورت میں نماز فاسد ہوگی لوٹانا واجب ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/صفر المظفر ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹۰/۲۵)

ایک رکن میں تین مرتبہ کھجلا نا

سوال [۲۸۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ احسن الفتاویٰ باب مفسد صلوة میں تحریر ہے کہ بلا ضرورت ایک بار بھی کھجلا نا
مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الاعداد ہے، اگر ضرورت ہی پیش آجائے تو ایک بار کھجلا نا
بلا کراہت جائز ہے اور تین بار کھجلا نے میں اگر بقدر رکن توقف نہ ہو تو مفسد صلوة ہے، چاہے

ضرورت سے ہی ہو۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۴۱۶)

اگر مزید یہ عمل کثیر کر رہا ہے اور باز نہیں آتا ہے تو وضاحت فرمادیں کہ نمازیں لوٹانا

ضروری ہے یا نہیں اور جو مصرعہ اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد کلیم، عید گاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کے اندر خشوع و خضوع مطلوب ہے بلا ضرورت کھجنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے؛ لہذا بلا ضرورت ایک مرتبہ بھی کھجنا مکروہ ہے اور ضرورت کی وجہ سے ایک رکن میں ایک دو دفعہ کھجنا بلا کراہت جائز ہے اور تین مرتبہ یا اس سے زائد کھجانے کی صورت میں نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں تو اس مسئلہ کا مدار عمل کثیر پر ہے اور عمل کثیر کے بارے میں پانچ اقوال ہیں، ایک قول وہی ہے جو احسن الفتاویٰ میں مذکور ہے، مگر راجح اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ عمل کثیر اسی کو قرار دیا جائے کہ جس عمل کی وجہ سے دیکھنے والے لوگ اس نمازی کو یوں سمجھیں کہ یہ شخص نماز کے اندر نہیں ہے؛ بلکہ نماز سے باہر ہے تو اگر تین مرتبہ یا اس سے زیادہ کھجانے کی صورت میں اس شخص کو دیکھنے والے نماز ہی میں سمجھیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور جو لوگ خارش کے مرض کے شکار ہیں شدید کھجلی کی وجہ سے بعض دفعہ ایک رکن میں تین مرتبہ سے زائد بھی کھجنا پڑ جاتا ہے اس کے بغیر نماز میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے اس کو خارج نماز نہیں سمجھتے؛ اس لئے ایسے حالات میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ (مستفاد: حاشیہ امداد الفتاویٰ ۴۲۳/۱)

وفیہ أحوال خمسة: أصحابها ما لا يشك بسببه الناظر من بغيد في فاعله، أنه ليس فيها (در مختار) وفي الشامية: صححه في البدائع وتابعه الزيلعي، والوالجي وفي المحيط، أنه الأحسن وقال صدر الشهيد، إنه الصواب وفي الخانية والخلاصة: أنه اختيار العامه. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، كراچی ۱/۶۲۴، زكريا ۲/۳۸۵)

ولو حک جسده بأصبع واحدة مرات متواليات تفسد صلاته، وفي الفتاوى الخلاصة: إذا حک ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته، هذا إذا رفع يده في كل مرة، أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد؛ لأنه حک واحد. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس ما يفسد الصلاة، وما يكره يفسد،

زکریا ۲/۲۳۵، رقم: ۲۲۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۰۹۳/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۷/۸/۹ھ

ایک رکن میں چار مرتبہ کھجلانا

سوال [۲۸۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک رکن میں دو تین چار مرتبہ سر کھجلانے یا ڈاڑھی پر ہاتھ لیجانے یا کپڑوں کو درست یا بدن کو کھجلانے یا سجدہ میں جانے پر ٹوپی گرجائے تو اٹھا کر پہن لینے سے نماز باقی رہے گی یا فاسد ہو جائے گی؟

المستفتی: ذکاء اللہ جامع مسجد، چھاؤنی اندور (ایم پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک رکن میں بلا ضرورت ایک مرتبہ یا دو مرتبہ

سر یا ڈاڑھی کھجانے سے یا کپڑا درست کرنے سے یا بدن کھجانے سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور اگر تین مرتبہ یا اس سے زائد کر لیا ہے تو بلا ضرورت کرنے کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر ضرورت کی وجہ سے کیا گیا ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی؛ البتہ کراہت ضرور آئے گی اور ٹوپی گرجانے کی صورت میں ایک ہاتھ سے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲۳۶/۱، احسن الفتاویٰ ۴۱۶/۳)

کرہ کفہ و عبثہ بہ، أي بشوبہ و بجسدہ لسنہی إلا لحاجة، وفي الشامیة: الحک بید و احدة في رکن ثلاث مرات یفسد الصلاة، إن رفع یدہ في کل مرة. (در مختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکرہ

فیہا، کراچی ۶۴۰/۱، زکریا ۲/۲۳۵، ۴۰۷)

إذا حک موضعا من جسده ثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته،

وفي الذخيرة لو عبث بلحيته أو حك بعض جسده لا تفسد، قيل: هذا إذا فعله مرة، أو مرتين وكذا لو فعله إذا فصل بين كل مرتين، فإن كان ذلك متواليًا تفسد. (البنایہ، باب ما یفسد الصلاة، و ما یکره فیها، اشرفیہ ۴۹/۲)

ولو سقطت قلنسوته فأعادتها أفضل. (در مختار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، و ما یکره فیها، کراچی ۶۴۰/۱، زکریا ۴۰۸/۲)

وإن عبث بلحيته، أو حك بعض جسده، لا تفسد صلاته قيل: هذا إذا فعل ذلك مرة أو مرتين، وكذلك إذا فعل مرارًا؛ ولكن بين كل مرتين فرجة، فأما إذا فعل ذلك مرارا متواليات، تفسد الصلاة. (المحیط البرهانی، کتاب الصلاة، الفصل الخامس ما یفسد الصلاة، و ما لا یفسد، المجلس العلمي جدید ۱۶۵/۲، رقم: ۱۴۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۸/۱۱

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۵۲۹/۳۷)

ایک رکن میں پانچ دفعہ کھجلا نامفسد صلاۃ ہے

سوال [۲۸۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نماز پڑھانے کے دوران ایک رکن میں تقریباً پانچ دفعہ کھجاتا ہے اور جب عمر اس سے کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میری عادت بنی ہوئی ہے تو آیا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نماز فاسد ہوگئی ہے تو ایسی حالت میں پڑھائی ہوئی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا یا نہیں؟

المستفتی: محمد اخلاص، رامپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک رکن میں تسلسل کے ساتھ تین مرتبہ سے

زائد کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ ہر مرتبہ ہاتھ کو کھجانے کے لئے اوپر کو اٹھاتا ہو اور اگر اوپر کو اٹھائے بغیر کھجاتا ہے تو تسلسل کے باوجود نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح اگر وقفے وقفے سے ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ سے زائد کھجاتا ہے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، امام صاحب نے جو یہ کہا کہ میری عادت بنی ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کھجاتے ہیں یا وقفہ وقفہ سے اور ہاتھ اٹھا کر کھجاتے ہیں یا یوں ہی اس کی صراحت نہیں ہے پھر بھی امام صاحب پر لازم ہے کہ اس طرح کی عادت چھوڑ دیں ورنہ کبھی نماز فاسد ہو سکتی ہے اور عام طور پر جو لوگ کھجاتے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ نہیں کھجاتے ہیں؛ بلکہ وقفے وقفے سے کھجاتے ہیں؛ اس لئے نماز فاسد ہونے کی بات ثابت نہیں ہوتی؛ لیکن امام صاحب کو اس سلسلہ میں احتیاط کرنا لازم ہے۔

ولو حک المصلي جسده مرة، أو مرتين متواليين لا تفسد صلاته للقلدة، وكذا لا تفسد إذا فعل ذلك الحك مراراً غير متواليات..... ولو فعل ذلك مراراً متواليات أي في ركن واحد تفسد صلاته؛ لأنه كثير هذا إذا رفع يده في كل مرة، أما إذا لم يرفع يده في كل مرة فلا تفسد صلاته؛ لأنه حك واحد. (حلبی کبیر، کتاب الصلاة، باب یفسد الصلاة، اشرفیة ۸/۴۴)

الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها زکریا ۲/۳۸۵، کراچی ۱/۲۲۵)

إذا حک ثلاثاً فی رکن واحد تفسد صلاته هذا إذا رفع يده في كل مرة، أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد، ولو كان حک مرة واحدة يكره. (ہندیة، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما یفسد و مالا یفسد، زکریا ۱/۱۰۴، جدید زکریا

دیوبند ۱/۱۶۲-۱۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۰/۱۲۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ محرم الحرام ۱۴۳۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۴۲/۲۰)

(۱۷) باب قضاء الفوائت

صاحب ترتیب کون ہے؟

سوال [۲۸۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں، جس کی پانچ نمازیں اکٹھی کبھی قضاء نہ ہوئی ہوں یا بالغ ہونے کے بعد سے اب تک یا بالغ ہونے کے بعد بہت سی نمازیں قضاء ہوئیں، مگر قضاء نمازوں کو ادا کر لیا تو یہ آدمی صاحب ترتیب ہوگا؟

میری عمر تیس سال ہوئی کبھی کبھی پانچ پانچ وقت اور کبھی دس وقت کی نمازیں قضاء ہوتی ہیں مگر اب میرے ذمہ کوئی نماز قضاء نہیں ہے تو اب صاحب ترتیب ہوں یا نہیں؟

المسفتی: منزل الحق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس کے ذمہ چھ نمازیں قضاء نہیں ہیں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے، خواہ بالغ ہونے کے بعد اکٹھی چھ نمازیں اس کی قضاء نہ ہوئی ہوں یا قضاء تو ہوئیں؛ لیکن اس نے تمام کی قضاء کر لی دونوں صورتوں میں وہ صاحب ترتیب ہے؛ لہذا جب آپ نے تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کر لی ہے تو اب آپ صاحب ترتیب ہو گئے۔

(وصیرورتھا ستا) أي ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ست

صلوات. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، كوثه ۸/۴، زكريا ۲/۴۹) وقيد بقضاء البعض؛ لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل.

(شامی، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، كراچی ۲/۷۰، زكريا ۲/۵۲۹)

ويسقط الترتيب بضيق الوقت، والنسيان، وصيرورتها ستا: أي بصيرورة الفوائت ستا، وبكل واحد من هذه الثلاثة يسقط الترتيب.

(تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، امدادیہ ملتان ۱/۱۸۶، زکریا
۱/۶۰، الفتاویٰ التاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل العشرون قضاء الفائتہ ۲/۴۴۵،
رقم: ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی العشر فی قضاء الفوائت ۱/۱۲۳،
جدید زکریا دیوبند ۱/۱۸۲، الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ۱۱/۱۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۱/۱۶

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۶۹/۳۳)

محض توبہ اور ندامت سے آدمی صاحب ترتیب نہیں بنتا

سوال [۲۸۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک مسلمان اور جان کار آدمی ہے؛ لیکن اب نماز کا پابند ہوتے ہوئے بھی اتفاقاً کوئی نماز چھوٹنے پر ادائیگی میں تاخیر اور زیادہ تاخیر ہونے پر قضاء کی ادائگی سے محروم رہتا ہے، اب وہ اپنی سابقہ لاپرواہی پر ندامت کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر یہ عہد کرتا ہے کہ انشاء اللہ آئندہ کبھی ایسی زندگی ہرگز نہیں گذرنے دوں گا کہ کوئی نماز میرے اوپر ادائے گی سے باقی رہے اور جو نمازیں کبھی وقت پر ادا نہ ہوں گی فوراً قضا کروں گا؛ تو ایسی صورت میں اب زید صاحب ترتیب کہلائے گا یا نہیں اور صاحب ترتیب کی کیا فضیلت ہے؟

المستفتی: محمد راشد اختر پارس نئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محض توبہ کرنے اور نادم ہونے سے صاحب ترتیب نہیں بنے گا؛ بلکہ بالغ ہونے کے بعد سے جو نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں ان سب کی قضا پوری کرنے سے صاحب ترتیب کہلایا جاسکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔

قلت بعد الكثرة أو لا فإنه لما قضى صلوات الشهر إلا فرضاً
أو فرضين قلت الفوائت بعد الكثرة فلا يعود الترتيب إلا أن يقضى الكل .
(شرح وقايه، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، اشرفي ۱/۱۸۳، هداية، كتاب الصلاة،
باب قضاء الفوائت، اشرفي ۱/۱۵۵، الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل
العشرون قضاء الفوائت، زكريا ۲/۴۶۶، رقم: ۲۹۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۲۷۱)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵/۵/۱۴۱۶ھ

فوت شدہ نمازوں کی قضاء کر کے صاحب ترتیب بنا جاسکتا ہے

سوال [۲۸۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ ایک شخص کی بہت سی نمازیں فوت ہیں اور وہ اب صاحب ترتیب بنا
چاہتا ہے، تو کس طرح فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرے کہ وہ صاحب ترتیب ہو جائے
اور کس نماز سے شروع کرے؟

المستفتی: معراج الدین لکھنؤ پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مکمل فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے گا

تو صاحب ترتیب ہو جائے گا۔

وقيد بقضاء البعض؛ لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل .

(شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، کراچی ۲/۷۰، زکریا ۲/۵۲۹)

فوت شدہ نمازوں کی قضاء کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ظہر کی قضاء ہے تو یہ نیت کرے
کہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی ظہر کی جو نماز فوت ہوگئی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں
یا فوت شدہ میں سب سے آخری ظہر کی قضا کر رہا ہوں اور اگر صرف یہ ہے کہ فائتہ ظہر کی
قضاء کر رہا ہوں تو بھی درست ہے۔

ومن قضی الفوائت بنوی أول ظهر لله عليه، أو آخر ظهر لله عليه احتياطاً، ولو لم يقل الأول والآخِر وقال نويت الظهر الفائتة جاز. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زكريا ۲/۱۵۹، كوئنه ۲/۹۰)

وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة، فإن أراد لتسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه، أو آخره. (نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، امداديه ديوبند ۱۰۷، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل العشرون قضاء الفوائت، زكريا ۲/۴۵۴، رقم: ۲۹۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۵۹۹)

چھ سے زائد نماز چھوٹ جائیں تو پھر صاحب ترتیب کب بنے گا؟

سوال [۲۸۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص صاحب ترتیب ہے کسی موقع پر اس نے چھ نماز سے زائد ترک کر دیں، جس کی وجہ سے اس کی ترتیب ٹوٹ گئی ہے تو اب وہ شخص صاحب ترتیب کیسے بنے گا؟

المستفتی: عبداللہ، اللبارغ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کسی صاحب ترتیب سے چھ سے زائد نمازیں فوت ہو جائیں تو وہ ساری فوت شدہ نمازیں دوبارہ قضا کر لے تو اس کی ترتیب لوٹ آئیگی اور وہ شخص دوبارہ صاحب ترتیب شمار کیا جائے گا۔

لو قضی الكل عاد الترتیب عند الكل. (قہستانی ۱۵۴)

لأنه لو قضی الكل عاد الترتیب عند الكل كما نقله القہستانی.

(شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، کراچی ۲/۷۰، شامی، زکریا ۲/۵۲۹)

لو قضی الکمل عاد الترتیب عند الکمل. (شرح وقایہ، کتاب الصلاة،
باب قضاء الفوائت ۲۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۱۰/۲۰)

کیا قضاء نماز ادا کرنے سے ترتیب لوٹ آئے گی؟

سوال [۲۸۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے اور اس کی کوئی نماز فوت ہو جائے تو فائتہ کے یاد ہوتے ہوئے اگر فائتہ کی قضاء نہیں کی اور وقتیہ پڑھ لی تو فساد موقوف کے طریقہ پر وقتیہ فاسد ہوتی ہے، اس طرح اس نے پانچ نمازیں پڑھ لیں اور فائتہ کی قضاء نہیں کی چھٹی کا وقت آ گیا تو ساری کی ساری نمازیں صحیح ہو جاتی ہیں، اب اس کے ذمہ بس وہی ایک نماز رہ گئی جو حقیقت میں چھوٹی تھی اور اگر چھٹی کا وقت آنے سے پہلے اس نے فائتہ کی قضا کر لی تو ساری کی ساری نمازیں فرضیت کے اعتبار سے باطل ہو جاتی ہیں اور نفل ہو جاتی ہیں تو دریافت یہ کرنا ہے کہ جو اس کے ذمہ ایک رہ گئی ہے اگر اس کی قضاء کر لے تو کیا پھر صاحب ترتیب ہو جائے گا یا نہیں؟

المستفتی: محمد سعید اللہ، سٹلمہ میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں جو نماز اس کے ذمہ رہ گئی ہے اس کی قضا کر لینے سے دوبارہ ترتیب لوٹ آئیگی؛ لیکن اس کی زندگی کا وہ حصہ جو قضاء نماز سے پہلے کا ہے اس میں اس کو صاحب ترتیب نہیں کہا جائے گا؛ بلکہ جس دن اس نے فوت شدہ نماز کی قضا کی ہے اسی دن سے صاحب ترتیب کہا جائے گا، گویا کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بے ترتیبی کا گذر گیا اور وہ اب صاحب ترتیب بن رہا ہے اور صاحب ترتیب اس دن سے بن جاتا ہے کہ جس دن سے اس کے ذمہ کوئی پچھلی نماز باقی نہ رہے۔

لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل . (شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، کراچی ۷۰/۲، زکریا ۵۲۹/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۲ ربیع الأول ۱۴۱۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۳۵)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۲/۳/۱۴۱۵ھ

صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز یاد آنے کا حکم

سوال [۲۸۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب ترتیب کی ظہر کی نماز قوت ہوگئی، پھر جبکہ وہ عصر کی دو رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکا تھا، اس کو یاد آیا کہ میری ظہر کی نماز قوت ہوگئی تو اب ایسا شخص کیا کرے گا؟

المستفتی: محمد محمود الحسن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر صاحب ترتیب کی کوئی نماز قوت ہو جائے، اور فوت شدہ نماز بھول جائے، اس کے بعد آگے کسی نماز کے درمیان یاد آ جائے، تو اس نماز کو پوری کرنے کے بعد فوت شدہ نماز پڑھے گا اور پھر اس نماز کا بھی اعادہ کرے گا یا دوران نماز یاد آنے کی صورت میں نماز توڑ کر فوت شدہ نماز پڑھے گا؟ اس میں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے درمیان اختلاف ہے، حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ جس نماز میں یاد آئی ہے، اس کو توڑ دے گا اور توڑ کر فوت شدہ نماز پڑھے گا اور حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں: کہ جس نماز میں فوت شدہ نماز یاد آئی ہے پہلے اس نماز کو پوری کرے گا اس کے بعد فوت شدہ نماز پڑھے گا، پھر جس نماز میں یاد آئی ہے، اس کا بھی اعادہ کرے گا اور ان دونوں قولوں میں امام ابو یوسفؒ کا قول کو زیادہ راجح اور مفتی بہ قرار دیا گیا ہے؛ لہذا جس نماز میں

فوت شدہ نماز یاد آئی ہے پہلے اس کو مکمل کرے گا، پھر اس کے بعد فوت شدہ نماز پڑھے گا، پھر اس نماز کا اعادہ کرے گا جس میں یاد آئی ہے۔

اس مسئلہ سے متعلق روایات اور جزئیات ملاحظہ فرمائیے:

عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الأمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها، ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.

عن ابن عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب من ذكر صلاة وهو في أخرى جديد دار

الحديث القاهره ۲/ ۴۵۰، رقم: ۳۱۹۳-۳۱۹۵)

عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، فقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس، قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب. (صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى ۱/ ۸۴، رقم: ۵۹۰، ص: ۵۹۸)

من نام عن صلاة ان نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها، ثم ليقتض التي تذكر، ثم ليعد التي صلى مع الإمام وهو خير مشهور تلقنته العلماء بالقبول، فيثبت به الفرض العملي ورتب النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفوائت يوم الخندق. (حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، اشرفي ۴۴۱، مثله في مجمع الأنهر ۱/ ۲۱) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۶/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۱/۱۴۰۸۸)

تراویح کی نماز فوت ہونے سے ترتیب باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟

سوال [۲۸۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اس بار رمضان کے چاند کی اطلاع دیر سے ہوئی تو اس صورت میں اس رات کی تراویح بھی کیا واجب الاداء ہیں، اس دن کی تراویح نہ پڑھنے پر صاحب ترتیب پر کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب سے نواز کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: احقر انیس صدیقی، میونسپل کالونی، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس سے صاحب ترتیب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ولانقضی إذا فاتت أصلاً ولا وحده فی الأصح. (الدر المختار، کتاب الصلاة،

مبحث صلاة التراويح، کراچی ۲/۴۴، زکریا ۲/۹۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/شوال المکرم ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف)

فوت شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو قضاء کا طریقہ

سوال [۲۸۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی عمر ۲۲ سال ہے اس کے ذمہ کچھ نمازیں باقی ہیں؛ لیکن ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، اب وہ اپنی تمام نمازیں قضاء کر کے صاحب ترتیب بننا چاہتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی واضح فرمائیں؟

المستفتی: محمد شمشاد گلڑی والان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید کو اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی صحیح تعداد

معلوم نہیں ہے تو اس کے لئے نمازیں قضاء کرنے کی شکل یہ ہوگی کہ وہ اپنے وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ایک ایک یا جتنی چاہے نمازوں کی قضا کرتا رہے اور قضاء عمری کی نیت کرے، مثلاً بالغ ہونے کے بعد ظہر کی وہ پہلی یا آخری نماز ہے جو میرے ذمہ باقی ہے، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء وتر اور فجر کی قضا کرتا رہے، جب اسے یقین ہو جائے کہ میری نمازیں ادا ہو گئیں تو پھر وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۶/۳۳۶)

ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو
المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة، أو اشتبهت عليه، أو أراد
التسهيل عليه. (الأشباه قديم ۶۰)

إذا أراد أن يقضي الفوائت، ذكر في فتاوى أهل سمرقند أنه ينوي
أول ظهر لله عليه، وكذلك كل صلاة يقضيها. (المحيط البرهاني، كتاب
الصلاة، الفصل العشرون قضاء الفوائت، المجلس العلمي جديد ۲/۳۵۸، رقم: ۱۹۶۷،
حاشية چلپی علی تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۱/۱۸۸، زکریا ۱/۶۳، ہندیہ کتاب
الختی، مسائل شتی زکریا ۶/۴۳، جدید زکریا دیوبند ۶/۴۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۹۳۶/۳۸)

عیسوی سن کے حساب سے قضاء نمازوں کی ادائے گی کا حکم

سوال [۲۸۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کی عمر عیسوی سن کے حساب سے پچاس سال ہے، اب اس کو اپنی گذشتہ نمازوں کی فکر لاحق ہوئی، اب وہ قمری سال کا حساب کس طرح لگائے، ہجری سن چھوٹا اور عیسوی بڑا ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی گذشتہ سالوں کی ادا کرنی ہے، اگر عیسوی سال کے

حساب سے زکوٰۃ دیگا تو کئی سال کی زکوٰۃ اور نمازیں ضائع ہونے کا امکان ہے، اس کی آسان صورت تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد یونس جامع مسجد احمد گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کی ادائے گی میں ایام کی تعداد کا اعتبار ہے؛ اور عیسوی سال کے حساب کے سے بھی نماز کی ادائے گی ہو سکتی ہے اور اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح نیت کرے کہ بالغ ہونے کے بعد زندگی میں سب سے پہلے فجر کی جو نماز چھوٹ گئی ہے اسی طرح ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نیت کر کے قضاء عمری ادا کرتا جائے۔

ولو نوى أول ظهر عليه، أو آخر ظهر عليه جاز، لأن الصلاة تعينت بتعيينه، وكذا الوقت تعين بكونه أولا أو آخرا، فإن نوى أول صلاة عليه وصلى فما يليه يصير أولا أيضا فيدخل في نيته أول ظهر عليه ثالثا، وكذا ثالثا إلى ما لا يتناهى وكذا الآخر، وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه. (تبيين الحقائق، كتاب الخشبي، مسائل شتى امداديه ملتان ۶/۲۲۰، زكريا ۷/۵۲۷)

ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة، أو اشتبهت عليه، أو أراد التسهيل على نفسه. (الأشباه قديم، زكريا ۶۰، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، دارالكتاب ديوبند جديد ۶۴۶، شامي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، كراچی ۷۶/۲، زكريا ۲/۵۳۸)

اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہجری سال کے اعتبار سے لازم ہے، عیسوی ۳۶ سال میں ہجری ۳۷ سال ہو جاتے ہیں؛ لہذا اس حساب سے ہر سال کی زکوٰۃ ہجری سال کے اعتبار

سے نکال دیا کرے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ شعبان المعظم ۱۴۱۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۹/۳۵۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۴/۸/۱۴۱۳ھ

سنتوں کی قضا

سوال [۲۸۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک سفر کے دوران غیر ملقہین حضرات کی مسجد میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے عصر کی اذان ونماز ایسے وقت میں ادا کی جو کہ وقت عصر حنفی کے بہت پہلے تھا، میں نے سنتیں سنتوں ہی کی نیت سے پڑھی اور جماعت میں شریک ہوا، بعد میں وقت عصر حنفی ہو جانے پر فرض کا اعادہ کر لیا، کیا سنتوں کا بھی اعادہ کرنا چاہئے تھا؟ سنتوں کے اعادہ نہ کرنے پر میرے صاحب ترتیب ہونے پر کوئی فرق تو نہیں آیا؟

المستفتی: اقتدار انیس صدیقی، اصالت پورہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سنتوں کا اعادہ لازم نہیں ہوتا، نیز سنتوں کا اعادہ

نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے صاحب ترتیب ہونے میں کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔

ولا تقضی إذا فاتت أصلاً (إلی قولہ) کسنة مغرب، و عشاء الخ

(الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، زکریا ۲/۹۵، کراچی ۲/۴۴)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۹۴۷)

فوت شدہ نمازوں کی قضاء برسر عام نہ کی جائے

سوال [۲۸۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص پابند نماز ہے اتفاق سے آج اس کی نماز قضاء ہوگئی تو کیا اس قضاء نماز کو مسجد میں آکر ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے؟

المستفتی: مولوی سلامت اللہ، مدرس مدرسہ تعلیم القرآن، شیرکوٹہ، بجنور
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قضاء نماز اگر اس طرح پڑھے کہ حتی الوسع کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ نفلیں پڑھ رہا ہے یا قضاء تو مسجد میں بھی بلا کراہت درست ہے اور اگر قضاء کا اظہار کر کے پڑھ رہا ہے تو مسجد وغیر مسجد ہر جگہ مکروہ تحریمی ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۸/۴، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۳۲۹)

عن سالم بن عبد اللہ، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الحديث. (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه ۲/۸۹۶، رقم: ۵۸۳۴، ف: ۶۹، ۶۰، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، النسخة الهندية ۲/۱۲، ۴، بيت الأفكار رقم: ۲۹۹۰)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل سرا ثم يخبره. (مسند البزار ۱۴/۳۷۹، رقم: ۸۰۹۶)

وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه، لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (در مختار) تقدم في باب الأذان، أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من أن التأخير معصية فلا يظهرها و ظاهره أن الممنوع هو القضاء مع الاطلاع

عليه سواء كان في المسجد أو غيره الخ. (شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت

قبیل باب سجود السهو، زکریا ۲/۵۳۹، کراچی ۲/۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۴۰۴۵)

جمعہ کی صحت اسی دن کی نماز فجر پر موقوف نہیں

سوال [۲۸۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی قضاء بھی نہیں کی اور جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اس نے فجر کی نماز قضاء پڑھی تو جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟
المستفتی: امیر، دولت باغ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت یا بلاجماعت ادا نہیں کی تو اس کی وجہ سے یہ شخص عند اللہ سخت ترین گنہگار ہے؛ لیکن جمعہ کے وقت میں آکر اگر یہ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو نماز جمعہ ادا ہو جائے گی جمعہ یا کسی اور نماز کی صحت پہلی نماز پر موقوف نہیں ہے، یہ مسئلہ صاحب ترتیب سے متعلق ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۵/۷۵)

وإن فاتته أكثر من صلوات يوم و ليلة أجزأته التي بدأ فيها. (هدایہ،

کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، اشرفی ۱/۱۵۵)

لأنه لو ترك فجر يومه و أدى باقي صلواته انقلبت صحيحة بعد

طلوع الشمس. (شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زکریا ۲/۵۳۲، کراچی

۲/۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۱۳۰۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸/۳/۱۴۲۲ھ

قضاءِ عمری کا آسان طریقہ

سوال [۲۸۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری سمجھ سے نفل نماز اور تحیۃ المسجد پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ قضاءِ عمری نماز ادا کرے معلوم نہیں کتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں نیت کیسے کرنی چاہئے؟

المستفتی: ایس اے الاعظمی، پوسٹ بکس ۲۸۰۲، الرفاع (بحرین)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جی ہاں نوافل سے قضاءِ عمری اہم ہے اس کی نیت یوں کی جائے کہ زندگی میں مثلاً سب سے پہلے جو فجر کی نماز فوت ہوئی یا ظہر کی نماز فوت ہوئی اس کی نیت کرتا ہوں یا اخیر سے پڑھتے جائے اور یوں نیت کرے کہ زندگی میں سب سے اخیر میں جو فجر کی نماز فوت ہوئی اس کی نیت باندھتا ہوں۔

عن انس بن مالک - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. (صحيح البخاري، كتاب المواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ۱/ ۸۴، رقم: ۵۸۹، ف: ۵۹۷)

والاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنة المعروفة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، دارالكتاب ديوبند جديد ۴۴۷)

كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه، أو آخره الخ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت زكريا ۲/ ۵۳۸، كراچی ۲/ ۷۶) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا الله عنه

۳۰ رجب المرجب ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۵۸۵)

قضاے عمری کا طریقہ اور عصر و فجر کے بعد اس کی ادائے گی کا حکم

سوال [۲۸۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی قضاے عمری پڑھنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اگر وقت باقی ہے تو قضا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت والا سے مؤدبانہ عرض ہے کہ واضح طور پر جواب دیں؟

المستفتی: محمد عرفان بجنوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قضاے عمری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً قضا شدہ نمازوں کا تخمینہ کر لیا جائے اسی کے موافق پڑھی جائے اس کے بعد اس طرح سے نیت کرے کہ میرے ذمہ فجر یا ظہر کی جو سب سے پہلے والی نماز باقی ہے وہ پڑھتا ہوں یا اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمہ فجر یا ظہر کی جو سب سے آخری نماز باقی ہے وہ پڑھتا ہوں، اسی طرح دوسری نمازوں کی نیت کرے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۳۳۹/۳، جدید زکریا ۳۸۳/۳)

کثرت الفوائت نوی اول ظہر علیہ، أو آخرہ الخ (در مختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت زکریا ۲/۵۳۸، کراچی ۲/۷۲، بحر الرائق، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت زکریا ۲/۱۵۹، کوئٹہ ۲/۹۰، ہکذا فی طحاوی علی المراقی جدید ۴۴۶، قدیم: ۲۴۲، تاتار خانیہ، کتاب الصلاة، الفصل العشرون قضاء الفوائت، زکریا ۲/۵۵۴، رقم: ۲۹۴۸، کوئٹہ ۱/۷۶۶، خانیہ عن الہندیہ، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زکریا ۱/۱۱۱، جدید زکریا دیوبند ۷۰/۱)

نیز نماز عصر سے قبل اور بعد میں اصفرار شمس سے پہلے اسی طرح نماز فجر سے قبل اور بعد میں طلوع آفتاب اور اوقات منہیہ (طلوع، زوال، غروب) کے علاوہ تمام اوقات

میں قضاء عمری پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کا قضاء ہونا معلوم ہو اور جو محض وہم یا احتیاط کی وجہ سے قضاء کی جاوے وہ ان اوقات میں نہیں پڑھنی چاہئے۔ (مستفاد: امداد المفتیین ۲/۳۶۶)

عن عقبۃ بن عامر الجھنی یقول: ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا أن نصلی فیہن، أو أن نقبر فیہن موتانا، حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، و حین یقوم قائم الظہیرۃ حتى تمیل الشمس، و حین تضیف الشمس للغروب حتى تغرب. (صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، النسخة الهندية ۱/۲۷۶، بیت الأفكار رقم: ۸۳۱)

و جميع أوقات العمر وقت القضاء إلا الثالثة المنهية. (شامي، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، کراچی ۲/۶۶، زکریا ۲/۵۲۴، حاشیة الطحطاوي، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، دارالکتاب دیوبند جدید ۴۱/۴۴، قدیم ۱/۳۰۴)

تسعة أوقات يكره فيها النوافل منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلوة الفجر ويجوز فيها الفائتة. (هندية، کتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لاتجوز فيها ۱/۵۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۰۹)

ولا بأس بأن يصلی فی هذين الوقتين الفوائت - وفي بين السطور یعنی بعد العصر و الفجر (عنايه) (هدايه، کتاب الصلاة، باب المواقيت قبيل باب الأذان، اشرفي ۱/۸۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۷۱/۳۵)

بعد نماز عصر و فجر قضائے عمری پڑھنا

سوال [۲۸۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز فجر کے بعد طلوع سے پہلے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے

پہلے نماز قضاے عمری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: انعام اللہ، بیتا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے قضاے عمری کرنا بلا کراہت جائز ہے۔
ویکرہ أن یتنفل بعد الفجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب لماروی أنه علیہ السلام نہی عن ذلك، ولا بأس بأن یصلی فی ہذین الوقتین الفوائت. (ہدایۃ، کتاب الصلاة، باب المواقیت، اشرفی ۱/۸۵، ۸۶)
ولا بأس بأن یصلی فی ہذین الوقتین أرا د بالوقتین ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس الفوائت. (ہدایۃ، کتاب الصلاة، باب المواقیت، اشرفیۃ ۱/۸۵-۸۶)

(ولا یکرہ فیہما الفرض) أي اللّازم عملاً فی شمل الواجب ایضاً ولذا قال یعنی الفوائت. (حلبی کبیری، کتاب الصلاة، الشرط الخامس، مکتبہ رحیمیہ قدیم دیوبند ۲۳۶، سہیل اکیڈمی لاہور جدید ایضاً مکتبہ اشرفیہ دیوبند ۲۳۸) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۹۸۷/۳۶)

نوافل کے وقت قضاے عمری پڑھنے سے نوافل کا ثواب

سوال [۲۸۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی شخص مرد یا عورت اشراق یا چاشت اوابین و تہجد کے اوقات میں قضاے عمری پڑھے تو کیا اسے مندرجہ بالا نوافل پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ جواب سے مستفیض فرمائیں مشکور ہوں گا۔

المستفتی: محمد اقتدار انیس، محلہ سرائے مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قضائے عمری سے مذکورہ بالا نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملنا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے ہاں البتہ قضاء عمری سے تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا ثواب مل سکتا ہے۔

وسنة الوضوء وتحية المسجد، وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول، وقيل بعد القعود وركعتنا الا حرام وكذلك ينوب عنها كل صلوة صلاة فرضا كانت أو نفلا الخ (الأشباه قديم ۶۵)

قال في النهر وينوب عنها كل صلاة صلاحها عند الدخول فرضاً كانت أو سنة. (شامي، كتاب الصلاة، باب الترتيب والنوافل، مطلب في تحية المسجد، كراچی ۱۸/۲، زکریا ۲/۴۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۵۹۸)

سنن مؤکدہ کی جگہ قضائے عمری ادا کرنا

سوال [۲۸۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قضائے عمری نمازیں ادا کرنے کے لئے سنن مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کے بدلے اگر قضاء عمری کی نماز ادا کریں تو اس نماز کے ساتھ ساتھ سنن بھی از خود ادا ہو جائیں گی یا نہیں؟ مہربانی فرما کر اس مسئلہ کی تحریر کی وضاحت کر دیجئے۔

المستفتی: سید یونس حسین، مدرس مدرسہ ہذا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سنت مؤکدہ کے بجائے قضاء عمری ادا کرنے سے سنتوں کا ثواب حاصل نہ ہوگا؛ بلکہ صرف قضاء عمری ذمہ سے سبکدوش ہو سکتی ہے اور اس

سے سنتیں از خود ادا نہیں ہوں گی سنتیں جب ہی ادا ہو سکتی ہیں کہ جب ان کو عمل میں لایا جائے، ہاں البتہ تحیۃ الوضوء و تحیۃ المسجد از خود ادا ہو جائے گی۔

الاشتغال بقضاء الفوائت اولیٰ وأهم من النوافل الا سنن المفروضة.

(شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زکریا ۲/۵۳۶، کراچی ۲/۷۴)

الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافي القضاء فوراً، وإنما

الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتب.

(الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الصلاة، مباحث قضاء الصلاة الفائتة حكمه،

دارالفکر ۱/۴۹۱، ۴۹۲)

الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنة المعروفة.

(حاشیة الطحطاوي على مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، دارالکتاب

دیوبند جدید ۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۱۲/۹/۱۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۲۵/۲۸)

نماز عصر کے بعد قضاے عمری اور نماز فجر کی اذان کے بعد تہجد کا حکم

سوال [۲۸۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ نماز عصر کے بعد قضاے عمری نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور فجر کی اذان کے

بعد نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور نماز قضاے عمری فجر کی سنتوں سے کچھ دیر پہلے پڑھ

سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں؟

المستفتی: محمد صلاح الدین قاسمی، مدرسہ مظہر العلوم، رام نگر، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز عصر کے بعد اور پہلے اسی طرح فجر کی سنتوں

کے بعد اور پہلے قضاء عمری پڑھنا جائز ہے؛ لیکن فجر کی اذان کے بعد تہجد جائز نہیں۔

عن حفصة-رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، النسخة الهندية ۱/۲۵۰، بيت الأفكار رقم: ۷۲۳، سنن النسائي الصلاة، باب الصلاة بعد طلوع الفجر، النسخة الهندية ۱/۶۷، دارالسلام رقم: ۵۸۴، المعجم الكبير للطبراني ۲۳/۲۱۳، رقم: ۳۸۵)

تسعة أوقات يكره فيها النوافل منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر ويجوز فيها الفائتة. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها، زكريا ۱/۵۲، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۰۹) وجميع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الثلاثة المنهية. (حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، دارالكتاب ديوبند جديد ۴۱، قديم ۳۰۴، شامي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زكريا ۲/۵۲۴، كراچی ۲/۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۳۵۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۴/۹ھ

بعد نماز فجر یا عصر قضاء نمازوں کی ادائیگی کا حکم

سوال [۲۸۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید فائتہ نمازوں کی قضاء کرنا چاہتا ہے، اس ترتیب سے کہ ہر نماز کے بعد اس وقت کی قضا شدہ نماز بھی پڑھ لے دریافت یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد عصر کی قضاء شدہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جی ہاں فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضاء نماز

پڑھنا جائز ہے۔

ولابأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت الخ. (هداية، كتاب الصلاة،

باب المواقیت، اشرفیة ۱/۸۶)

تسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفوائت..... بعد طلوع الفجر قبل

صلاة الفجر..... وبعد صلاة العصر قبل التغير. (قاضی خاں علی ہامش الہندیہ،

كتاب الصلاة، باب الأذان، زکریا ۱/۷۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۵۸۶۳۳)

نماز عصر کے بعد فرائض کی قضاء

سوال [۲۸۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ نماز عصر کے بعد فرائض کی قضاء کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: غلام محمد (گجرات)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نماز عصر کے بعد آفتاب غروب ہونے کے وقت

اور آفتاب میں زردی آنے سے پہلے پہلے فرائض کی قضاء کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲/۳۳۹، امداد الفتاویٰ ۱/۹۵)

بعد صلوة فجر و صلوة عصر لا یکرہ..... قضاء فائتہ. (الدر المختار،

كتاب الصلوة، قبیل مطلب فی تکرار الجماعة والاقتداء بالمخالف زکریا ۳/۳۷،

کراچی ۱/۳۷۵)

تسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفائتة..... بعد طلوع الفجر قبل صلاة
الفجر..... وبعد صلاة العصر قبل التغيير. (الفتاوى التارنار خانية، كتاب الصلاة،
الفصل الأول المواقيت، زكريا ۲/۱۷، رقم: ۱۵۲۶)

ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى
تغرب، ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت. (منحة الخالق على
البحر الرائق، كتاب الصلاة، زكريا ۱/۴۳۹، كوئته ۱/۲۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ رجب المرجب ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۸۲۶/۲۶)

طلوع شمس سے قبل سنت فجر کی قضاء

سوال [۲۸۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ فجر کی فرض نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہئیں
یا سورج نکلنے کے بعد؟

المستفتی: ملا جی اللدی، موضع: شہباز پورکلاں، تھانہ: پاکپڑہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: فجر کی جماعت کے بعد طلوع آفتاب سے قبل

سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲/۲۰۴)

عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب
الشمس. (صحيح البخاري، كتاب المواقيت الصلاة، باب لا تحرى الصلاة، قبل غروب

الشمس ۱/۸۳، رقم: ۵۸۰، ف: ۵۸۸)

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: سمعت غير واحد من أصحاب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منهم عمر بن الخطاب و كان أحبهم إلي، أن رسول الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أوقات التي نهى عن الصلاة فيها، النسخة الهندية ۱/۲۷۵، بيت الأفكار رقم: ۸۲۶، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في كراهة الصلاة، بعد العصر وبعد الفجر، النسخة الهندية ۱/۴۵، رقم: ۱۸۳)

عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. (صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة ۱/۸۲ رقم: ۵۷۳، ف: ۵۸۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲/رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۸۱/۲۶)

طلوع شمس کے کتنی دیر بعد نماز فجر کی قضاء کریں

سوال [۲۸۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز فجر قضاء ہو جائے تو کیا اس کی ادائے گی کے لئے بھی طلوع شمس کے بعد ۲۰ منٹ ضروری ہیں یا جب طلوع شمس ہو جائے جو تقریباً ۱۰ منٹ میں ہو جاتا ہے پڑھ سکتے ہیں؟

المستفتی: نور العابدین، ٹولگڑھ (راجستھان)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیس منٹ کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ جب سورج طلوع ہو کر ایک نیزہ کے بقدر اونچائی پر آجائے اس وقت نماز پڑھنا درست ہے، اس سے پہلے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۱۵۷)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع الحديث (صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، ۸۲/۱، رقم: ۵۷۵، ف: ۵۸۳)

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدأ حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تبرز. الحديث. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة ب اب الأوقات التي نهى عن الصلاة، النسخة الهندية ۲۷۵/۱، بيت الأفكار رقم: ۸۲۹)

وكره تحريما وكل ما لا يجوز مكروه صلوة مطلقاً ولو قضاء أو واجبة، أو نفل، أو على جنازة وسجدة تلاوة وسهوا لا شكر. قنية مع شروق وتحتة في الشامية: قوله مع شروق وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق الخ (شامي، كتاب الصلاة، كراچی ۳۷۱/۱، زكريا ۳۰/۲)

إذا طلعت حتى ارتفعت قدر رمحين، أو قدر رمح يباح الصلاة.

(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت، المجلس العلمي جديد ۱۰۱۲، رقم: ۱۰۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۶/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰۲۵۲)

کیا ناپاک پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی نوافل کا اعادہ لازم ہے؟

سوال [۲۸۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ نجس پانی سے کئے گئے وضو سے جو نماز دہرائی گئی، تو اس کے ساتھ سنت موکدہ

اور نوافل بھی دہرائی ہوں گی یا نہیں؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ان نمازوں کے بعد پڑھی گئی سنت مؤکدہ اور نوافل کا دہرانا لازم نہیں، اس لئے کہ وہ سنن و نوافل بلا طہارت پڑھی جانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے گویا کہ وہ پڑھی ہی نہیں گئی اور وقت نکلنے کے بعد سنن و نوافل کی قضاء نہیں ہوتی؛ اس لئے سنن و نوافل کا اعادہ لازم نہیں۔

وسائر النوافل إذا فاتت عن وقتها لا تقضى بالإجماع سواء فاتت مع الفرض، أو بدون الفرض هذا هو المذكور في ظاهر الرواية. (شرح وقاية، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوات اشرفی دیوبند ۱/۱۸۲)

لاخلاف بين أصحابنا في سائر السنن سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان أن السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا، زكريا ۱/۶۴۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۲/۲۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۳۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۸۹۱)

ناپاک پانی سے وضو کرنے والے کے پیچھے پاک پانی سے وضو

کرنے والوں کی نماز اور سنن بعد یہ ووتر کا حکم

سوال [۲۸۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک امام صاحب نے ٹٹکی کے ناپاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا دی، تو جو نمازی گھر سے وضو کر کے آتے ہیں ان کو سنت و نوافل اور وتر بھی دہرائی ہوں گی یا صرف فرض؟
المستفتی: ماسٹر عبدالحق، بلدوانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام صاحب نے اس ٹنکی کے پانی سے وضو کیا ہے، تو گھر سے وضو کر کے آنے والوں کی امام کے پیچھے پڑھی گئی نماز نہیں ہوئی؛ البتہ وتر، سنن و نوافل مستثنا ہو کر درست ہو گئیں؛ لہذا ان کے لئے صرف فرض کا اعادہ کافی ہو جائے گا اور وتر چونکہ عشاء کے فرض کے تابع نہیں ہے؛ اس لئے با وضو ادا کی گئی وتر کا اعادہ لازم نہیں۔

من صلی العشاء علی غیر وضوء وهو لا یعلم، ثم توضأ فأوتر، ثم تذاکر
 أعاد صلاة العشاء بالاتفاق ولا یعید الوتر فی قول أبي حنیفةؒ لما کان واجباً،
 عند أبي حنیفةؒ کان أصلاً بنفسه فی حق الوقت لا تبعاً للعشاء. (بدائع الصنائع،
 کتاب الصلاة، فصل فی بیان وقت الوتر، زکریا ۱/۶۱، شرح وقایہ، کتاب الصلاة، باب
 قضاء الفوائت، اشرفی دیوبند ۱/۱۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۶/۲/۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۰ صفر المعظم ۱۴۳۶ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۱۱۸۹۲)

چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ

سوال [۲۸۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۷ ارضاء نمازوں کا فدیہ کس طرح ادا کیا جائے؟ تحریر فرمائیں نوازش ہوگی۔
 المستفتی: محمد ظریف قریشی اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے اور ان میں وتر کی نماز بھی شامل ہوگی؛ لہذا جن دنوں میں کوئی نماز نہ پڑھی جاسکی ان دنوں کی طرف سے روزانہ چھ صدقہ فطر اور جن دنوں میں بعض نمازیں نہ پڑھی جاسکیں ان کا حساب لگا کر ہر نماز

کی طرف سے ایک صدقہ فطر کے حساب سے فدیہ ادا کر دیں اور ایک صدقہ کی مقدار ڈیڑھ کلو ۷۲۰ گرام ۶۳۰ ملی گرام کیہوں ہے۔

ولو مات وعلیہ صلوات فائتة، وأوصی بالكفارة يعطي لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت، كراچی ۷۲/۲، زکریا ۵۳۲/۲، البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زکریا دیوبند ۱۶۰/۲، کوئٹہ ۹۰/۲، ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، زکریا ۱۲۵/۱، جدید زکریا ۱۸۴/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۶۱/۲۷)

فوت شدہ نمازوں کے فدیہ کا شرعی حکم

سوال [۲۸۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے استاذ محترم محمد اکرم کی گذشتہ دوڑھائی ماہ سے طبیعت خراب تھی جس کی بنا پر ان ایام کی نمازیں قضاء ہو گئیں، اب گذشتہ رات ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ گذشتہ ایام کی جو نمازیں قضاء ہوئی ہیں، ان کا فدیہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، ایک نماز کا فدیہ کتنا ہوگا اور یہ فدیہ کس کو ادا کرنا لازم ہوگا؟

المستفتی: محمد اعظم، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایام علالت کے دوران جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو شمار کر کے ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر بطور فدیہ ادا کرنا ہوگا، اس سال ہمارے شہر مراد آباد میں صدقہ فطر ۲۵ روپیہ مقرر کیا گیا ہے اور روزانہ کی ۶ نمازیں شمار کی جائیں گی؛

اس لئے کہ وتر کا بھی فدیہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔

ولومات وعلیہ صلوات فائتہ، وأوصی بالكفارة يعطي لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر. (شامی، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت، كراچی ۷۲/۲، زكريا ۵۳۲/۲-۵۳۳)

إذامات الرجل وعلیہ صلوات فائتہ، فأوصی بأن تعطي كفارة صلواته يعطي لكل صلوة نصف صاع من بر، وللوتر نصف صاع. (هندية، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، زكريا ۱۲۵/۱، جديد زكريا ديوبند ۱۸۴/۱، البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زكريا ديوبند ۱۶۰/۲، كوئٹہ ۹۰/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۱/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۶۰/۳۹)

کیا نماز اور روزے کا فدیہ ہوتا ہے؟

سوال [۲۸۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا نماز اور روزے کا بھی فدیہ ہوتا ہے؟

المستفتی: محمد قاسم، گوجر بھوانی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہاں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے اور نمازیں باقی ہوں تو ہر نماز کا فدیہ ڈیڑھ کلو گرام ۶۴۰ ملی گیہوں اور ہر روزہ کے بدلے بھی مذکورہ وزن گیہوں ہے، اگر میت نے وصیت کی ہو تو اس کے ثلث مال میں سے فدیہ دینا واجب ہے اور اگر وصیت نہ کی ہو تو وارثین کو اختیار ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۹۹)

ولومات وعلیہ صلوات فائتہ، وأوصی بالكفارة يعطي لكل صلوة

نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر . (شامی، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت، كراچی ۷۲/۲، زك یا ۵۳۲/۲-۵۳۳، البحر الرائق، كتاب لصلاة، باب قضاء الفوائت، زكريا ۱۰/۲، كوئٹہ ۹۰/۲، ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت ۱/۱۲۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۲۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۶۹۶)

زندگی میں نمازوں کا فدیہ ادا کرنا

سوال [۲۸۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہے، اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کر سکے، وہ اس نماز کے بدلہ اگر فدیہ ادا کرے تو صحیح ہے یا نہیں؟ اگر ایک ہی شخص کو فدیہ دیا جائے اور وہ نہایت غریب ہے اس کو دینا صحیح ہے یا نہیں؟ مفصل تحریر فرما کر شکر یہ کا موقع دیں، ضعیف اتنا ہے کہ سر بھی نہیں ہلا سکتا اور نہ ہی ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے؛ لیکن بے ہوشی بھی نہیں ہے۔

المستفتی: محمد اختر عالم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی ضعف کی وجہ سے ہاتھ پیر سر ہلانے پر

قادر نہیں ہے تو شرعاً اس کی نمازیں موقوف رہیں گی۔

(۱) زندگی میں نماز کا فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔

(۲) لہذا اگر اس حالت میں مرجائے تو فدیہ وغیرہ واجب نہ ہوگا اور اگر اس حالت

میں ایک دن ایک رات گزر جائے اس کے بعد افاقہ ہو جائے تو ایک دن ایک رات کی نماز معاف ہو جائے گی اور اگر ایک دن ایک رات سے پہلے افاقہ ہو جائے تو قضاء کرنا لازم ہوگا

اور اگر قضا کئے بغیر مرجائے تو مرنے کے بعد فاسقہ نمازوں کا فدیہ دینا درست ہوگا ورنہ نہیں اور متعدد نمازوں کا فدیہ ایک شخص کو دینا بھی جائز ہے۔

وإذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلوة ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجيين، ثم إذا خف مرضه هل يلزمه القضاء؟ اختلفوا فيه قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه، كذا في الإغماء وهو الأصح هكذا في فتاوى قاضي خان، والفتوى عليه كذا في الظهيرية، وإن مات من ذلك الممرض لا شيء عليه ولا يلزمه فدية. (هندي، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، زكريا ۱/۳۷، جديد زكريا ديوبند ۱/۹۷، قاضي خان، كتاب الصلاة، باب صلوة المريض، زكريا ۱/۱۷۲، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۰۸)

في الدر المختار وعليه الفتوى. (كتاب الصلاة، باب صلوة المريض، زكريا ۲/۵۷۰، كراچی ۲/۹۹)

ولو فدى عن صلوته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم الخ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهليل، زكريا ۲/۵۳۵، كراچی ۲/۷۴)

ويجوز إعطاء فدية صلوات وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء الخ (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، قبيل باب قضاء الفوائت قديم دار الكتاب ديوبند ۴۳۹، الدر المختار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهليل، زكريا ۲/۵۳۵، كراچی ۲/۷۴، جوهره، كتاب الصوم، مكتبه امداديه ملتان قديم ۱/۱۷۲، جديد دار الكتاب ديوبند ۱۷۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۱۲۳۳)

پوری زندگی کبھی نماز نہ پڑھنے والے کا فدیہ

سوال [۲۸۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی پوری زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا اور زید نے کسی کو وصیت بھی نہیں کی فائزہ نمازوں کے فدیہ کے بارے میں اور زید کے ورثاء اس کی تمام نمازوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو اب یہ فدیہ کس مقدار سے اور کن کن لوگوں کو دیا جائے گا، اس کا بہترین مصرف کون ہوگا اگر وہ طالب علم کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہے یا نہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کس اعتبار سے دیں گے؟ اس مسئلہ کی صاف وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: عطاء الرحمن ندوی، معلم مدرسہ امدادیہ مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر میت مذکور نے وصیت نہیں کی ہے تو ورثاء اپنے طور پر تبرعاً فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔

إذامات الرجل وعليه صلوات فائته (إلى قوله) و إن لم يوص
لورثته وتبرع بعض الورثة يجوز الخ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب
الحادي عشر في قضاء الفوائت، زكريا ۱/۲۵، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۸۴، هكذافي
مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في اسقاط الصوم والصلاة، جديد دار الكتاب ديوبند
۴۳۸، قديم ۲۳۸)

ہر نماز کے فدیہ کی مقدار ایک صدقہ فطریا اس کی قیمت ہے اور قیمت دینا زیادہ افضل ہے اور نماز پانچ فرض اور ایک وتر ہے، کل ملا کر روزانہ چھ نمازیں ہوتی ہیں۔

و كذا يخرج لصلوة كل وقت من فرض من اليوم والليله حتى الوتر؛
لأنه فرض عملي عند الإمام- إلى قوله- والصحيح أنه كل صلوة فديته هي

نصف صاع من بر (إلى قوله) أو قيمته وهي أفضل لتسوع حاجات الفقير الخ (مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل في اسقاط الصلوة والصوم، جدید دارالکتاب دیوبند ۴۳۸، قدیم ۲۳۸، ہکذا فی عالمگیری، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زکریا ۱/۲۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۸۴)

فقراء ومساکین اس کے مستحق ومصرف ہیں۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۴/۱۷، جدید زکریا دیوبند ۴/۱۸۳، جدید زکریا مطوف ۶/۸۱)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. [سورة التوبة: ۶۰]

مصرف الزکوٰۃ والعشر هو فقير، ومسكين، وتحتہ في الشامي وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة، والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. (در مختار مع الشامي، كتاب الوكاة، باب المصرف، كراچی ۲/۳۳۹، زکریا ۳/۲۸۳)

طلبہ کو دینا بھی جائز اور افضل ہے؛ البتہ ذیل کے طلبہ کو دینا ممنوع ہے۔

(۱) سید ہوں (۲) مستطیع صاحب نصاب ہوں (۳) وہ نابالغ طلبہ جن کے والدین مالک نصاب ہوں۔ (مستفاد: فتاویٰ رجیمیہ قدیم ۲/۱۰۶، جدید زکریا ۲/۱۷۲)

لا تدفع إلى غني (قوله) ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا (وقوله) ولا يدفع إلى بني هاشم الخ (جوہرہ، کتاب الزکوٰۃ، باب من يجوز دفع الصدقة إليه جدید، دارالکتاب دیوبند ۱/۱۵۷، قدیم ۱/۱۵۹)

اگر تمام نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو تخمینہ لگا کر ادا کیا جائے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۴/۱۶۸، جدید زکریا ۴/۱۷۸، جدید زکریا مطول ۶/۳۸۳-۳۸۴)

من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكثر رأيه، فإن لم يكن رأى يقض

حتیٰ یتیقن أنه لم یبق علیہ شیء. (حاشیة الطحطاوی علی المراقی، قبیل باب إدراک الفریضة، دارالکتاب دیوبند ۴۴۷، حاشیة چلبی علی التبین، باب قضاء الفوائت قدیم ۱۹۰/۱، جدید زکریا ۱/۶۸)

اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو اس کی ادائے گی کی ایک صورت یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہے کسی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے، پھر فقیر وارث کو ہبہ کر دے، پھر وارث فقیر کو مالک بنا دے پھر فقیر مالک کو ہبہ کر دے اور وارث اس کو قبضہ کر کے پھر فقیر کو مالک بنا دے، اس طرح کرتے جائیں، یہاں تک کہ تعداد پوری ہو جائے، امید ہے کہ میت کی نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۳۳/۴، جدید زکریا ۱۵۶/۴، جدید مطول ۱۱۶/۶)

وإن لم یترک مالاً یستقرض ورثته نصف صاع ویدفع إلی مسکین ثم یتصدق المسکین علی بعض ورثته، ثم یتصدق ثم وثم حتی یتیم لکل صلوٰة الخ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زکریا ۱/۱۲۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۸۴، نور الإیضاح، کتاب الصلاة، باب صلوٰة المریض، فصل فی اسقاط الصلوٰة والصوم، امدادیہ دیوبند ۱۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۲۳۳)

کیا شوہر اپنی کمائی سے بیوی کی نماز کا فدیہ دے سکتا ہے؟

سوال [۲۸۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کی کچھ نمازیں اور روزے چھوٹ گئے تو کیا شوہر اپنی کمائی سے ان نمازوں وغیرہ کا فدیہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا شوہر اپنی کمائی

سے اپنی بیوی کو کفن دے سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد راغب سہپور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: شوہر اپنی متوفی بیوی کی قضاء نمازوں اور روزوں کا اپنی کمائی سے فدیہ دے سکتا ہے۔ نیز اپنی بیوی کو اپنی کمائی سے کفن بھی دے سکتا ہے۔ ویجوز فدیة كل صلاة، ولو وترًا كصوم يوم علی المذهب.

(درمختار مع الشامی، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم، مطلب فی العوارض المبیحة

لعدم الصوم، زکریا ۴۰۹/۳، کراچی ۲/۶۲۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

۱۶/۱۱/۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۴۵۳/۳۴)

بیماری کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ

سوال [۲۸۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا انتقال سے چند سال پہلے شدید علالت کی بنا پر نماز و روزہ کی ادائیگی نہیں کر سکیں کچھ ماہ ایسے بھی گزرے ہیں جس میں مرحومہ پر بے ہوشی طاری رہی، اب اگر ان کے ورثاء نماز روزہ کا فدیہ دینا چاہیں تو کتنی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا؟

المستفتی: ضیاء الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں جن ماہ میں مرحومہ پر غشی

طاری تھی ان ماہ کی نمازوں کا فدیہ لازم نہیں ہے؛ البتہ جن ایام میں غشی نہیں تھی اور اشارہ وغیرہ سے نماز پڑھنے پر قادر تھیں ان ایام کی نمازوں کا فدیہ لازم ہے، ایک دن کی نمازوں کا

کفارہ چھ صدقہ فطریا اس کی قیمت ہے؛ اس لئے کہ وتر کی نماز کا فدیہ بھی اس میں شامل ہے، اسی طرح ہر روزہ کا کفارہ ایک صدقہ فطریا اس کی قیمت ہے۔

ومن جن أو أغمى عليه يوما وليلة قضى الخمس، وإن زاد وقت صلوة سادسة ل، للخرج، ولومات وعليه صلوات فائنة، وأوصى بالكفارة يعطي لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر والصوم الخ (درمختار، كتاب الصلاة، باب صلوة المريض، مطلب في الصلاة في الصفينة، كراچی ۱۰۲/۲، زکریا ۵۷۳/۲)

ومن جن، أو أغمى عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا.
(نور الإيضاح، باب صلوة المريض، امدادية ديوبند ۱۰۵، ہندیہ، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، زکریا ۱۳۷/۱، جدید زکریا دیوبند ۱۹۷/۱)

وكذا يخرج الصلاة كل وقت من فرض اليوم والليله حتى الوتر لأنه فرض عملي عند الإمام. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب صلوة المريض، فصل في اسقاط الصلاة والصوم، دارالكتاب ديوبند ۴۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۲۶۳۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۱/۹ھ

مريض کے نماز و روزہ کا فدیہ دینا

سوال [۲۸۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسماة نکہت جہاں جن کی بیماری کی حالت میں دو ماہ کے روزے اور ایک ماہ کی نماز قضا ہو گئی اور ان کی نیت تھی کہ میں روزہ اور نماز ادا کروں گی؛ لیکن بقضاء الہی ۳ رجون ۱۹۸۸ء کو فوت ہو گئیں، اس صورت میں ان کا فدیہ دیا جائے گا یا نہیں؟

المستفتی: طاہر الدین، مغلیہ پورہ، مراد آباد (پونہ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک روزہ کافدیہ ایک صدقہ فطر ہے اور ایک نماز کافدیہ بھی ایک صدقہ فطر وتر کو شمار کر کے ایک روز کل چھ نمازوں کا چھ صدقہ فطر واجب ہے تو دو ماہ کے روزے کے ساٹھ صدقہ فطر اور ایک ماہ کی نمازوں کے ۱۸۰ صدقہ فطر تو کل ۲۴۰ صدقہ فطر کی قیمت فقراء کو یا مساکین کو دیدیں اور ایک صدقہ فطر کی مقدار ڈیڑھ کلو ۷۲۰ گرام ۶۴۰ ملی گرام کیے ہوں ہے۔

وفدی لزوما عنه: أي عن الميت وليه الذي يتصرف في ماله كالفطرة قدرا إلى قوله وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولي الخ (الدرالمختار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة، زكريا ۳/۴۰۶، كراچی ۲/۴۲۴)

ومن مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وكذا يخرج الصلاة كل وقت من فرض اليوم والليله حتى الوتر، لأنه فرض عملي عند الإمام -إلى- هي نصف صاع من بر أو دقيقة، أو سويقة، أو صاع تمر، أو زبيب، أو شعير، أو قيمته، وهي أفضل لتسوع حاجات الفقير، وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز إن شاء الله تعالى. (مراقبي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب صلوة المريض، فصل في اسقاط الصلاة والصوم، دارالكتاب ديوبند ۴۳۸، مجمع الأنهر، كتاب الصوم، فصل في بيان وجوه الاعذار المبيحة للافطار جديد، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ذی قعدہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۵۱۸/۲۵)

بیماری کے کن ایام کافدیہ دینا ضروری ہے

سوال [۲۸۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ہندہ کو ۱۴ مئی ۱۹۹۹ء کو فالج کا عارضہ پیش آیا اور وہ مسلسل کئی یوم غشی میں تھی، جب اس کو ہوش آیا تو وہ قوت گویائی سے محروم ہو چکی تھی اور دماغی حالت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کو پاکی اور ناپاکی کا بھی خیال نہیں رہتا تھا اور آدھا جسم مفلوج ہو چکا تھا، یہ کیفیت اگست ۲۰۰۴ء تک رہی، اسی درمیان متعدد بار اس پر کئی گھنٹوں غشی بھی رہی ستمبر ۲۰۰۴ء سے ۴ فروری ۲۰۰۵ء تک غشی کی سی کیفیت رہی جس میں وہ کسی کو پہچان بھی نہیں سکتی تھی اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ان ایام کی اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔

المستفتی: قمر الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہندہ پر جن ایام میں مسلسل غشی طاری تھی ان ایام کی نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں ہے اور وقفہ وقفہ سے جو غشی طاری ہو جایا کرتی تھی اگر وہ ایک شب روز سے کم تھا اور ہندہ کا ہوش و حواس درست رہے تھے اور وہ اشارہ وغیرہ سے نماز پڑھ سکتی تھی تو ان ایام کی نمازوں کی قضاء ہندہ کے ذمہ باقی ہے اور اگر درمیان میں افاقہ ہو جاتا تھا، مگر ہوش و حواس درست نہیں تھے تو پھر ہندہ کے ذمہ اس کی قضاء بھی نہیں ہے۔

وإن تعذر الإيماء برأسه وكثرت الفوائت، بأن زادت على يوم وليلة. وفي الشامية: أما لو كانت يوماً وليلة، أو أقل وهو يعقل فلا تسقط؛ بل تقضي اتفاقاً وهذا إذا صح فلومات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيماء بها كالمسافر..... وقال في البحر: وينبغي أن يقال محمله ما إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء بالرأس أما إن قدر عليه بعد عجزه، فإنه يلزمه القضاء، وإن كان موسعاً لتظهر فائدته في الإيماء بالإطعام عنه.

(شامی، کتاب الصلاة، باب صلوة المريض، کراچی ۹۹/۲، زکریا ۵۷۰/۲، حاشیہ الطحطاوی، کتاب الصلاة، باب صلوة المريض، دارالکتاب دیوبند ۴۳۳، مجمع الأنهر،

کتاب الصلاة، باب صلوة المريض، دارالکتاب بیروت ۱/۲۲۹)

إن زاد المرض عن يوم وليلة وهو لا يعقل فلا قضاء إجماعاً وإلا وهو يعقل قضياً إذا صح إجماعاً. (شامی زکریا ۲/۵۷۰، کراچی ۲/۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۳۱۳۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۱/۱۳ھ

بیماری میں بالغ ہونے اور انتقال کر جانے والی لڑکی کی نمازوں کے فدیہ کا حکم

سوال [۲۸۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی دو سال پہلے بیمار ہوئی تھی اور بیماری میں ہی بالغ ہوئی تھی، اس کی نمازوں کا فدیہ کس طرح دیا جائے گا، اس نے اس میں کچھ نمازیں بھی پڑھی ہیں، اس کا ۲۷ فروری میں انتقال ہو گیا اور نماز روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟

المستفتی: محمد کامران، بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لڑکیوں میں جس وقت بلوغ کی علامات مثلاً حیض وغیرہ پائی جائیں، اسی وقت سے ان پر نماز اور روزے فرض ہو جائیں گے اور ایک نماز یا ایک روزہ کے فدیہ کی مقدار ایک صدقہ فطر کے برابر ہے جس کا وزن ڈیڑھ کلو ۷۲۰ گرام یا ۶۴۰ ملی گرام ہوتا ہے، اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے اور اسی کے مطابق تمام چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔

والجاریۃ بالاحتلام والحیض والحبل الخ (شامی، کتاب الحجر، فصل بلوغ الغلام بالاحتلام کراچی ۶/۱۵۳، زکریا ۹/۲۲۶، الموسوعة الفقهية ۸/۱۹۲-۱۹۰، مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلاة، فصل یسن الاغتسال لأربعة اشیاء، دار الکتب دیوبند ۱۰۸، مبسوط سرخسی، باب العدة، وخروج المرأة من بیتها، دار الکتب العلمیة بیروت ۶/۵۳)

ومن مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وكذا يخرج الصلاة كل وقت من فرض اليوم والليله حتى الوتر، لأنه فرض عملي عند الإمام-إلى-هي نصف صاع من بر أو دقيقة، أو سويقة، أو صاع تمر، أو زبيب، أو شعير، أو قيمته، وهي أفضل لتنوع حاجات الفقير. (مراقبي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب صلوة المريض، فصل في اسقاط الصلاة والصوم، دارالكتاب ديوبند ۴۳۸)

وفدئ عنه وليه كالفطرة قدرا: أي التشبيهه بالفطرة من حيث القدر. (شامی، کتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة، كراچی ۲/ ۴۲۴، زکریا ۳/ ۶۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ رصفر المظفر ۱۴۲۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۱۸۴/۳۸)

کس قسم کے نمازی پر نمازوں کا فدیہ لازم

سوال [۲۸۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک نمازی تو وہ ہے جو صاحب ترتیب کہلاتا ہے، دوسرے وہ نمازی جو صاحب ترتیب تو نہیں ہوتا؛ لیکن نماز و جماعت کا خاص اہتمام کرتا ہے، تیسرے وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے؛ لیکن کسی بھی کام کی مشغولیت کی بنا پر نماز و جماعت بھی چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں قضاء نماز کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، آیاتینوں قسم کے نمازیوں کے لئے نماز کا فدیہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یاسین، مدرس مدرسہ فخر العلوم، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تینوں میں سے ہر ایک قسم کے نمازی پر نمازوں کا فدیہ دینا لازم اور ضروری ہے، اس میں کسی خاص قسم کے نمازی کی خصوصیت نہیں ہے۔

ومن مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وكذا يخرج الصلاة كل وقت من فرض اليوم والليله حتى الوتر، لأنه فرض عملي عند الإمام، وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ، لكونها أهم واعتبار كل صلوة بصوم يوم هو الصحيح الخ. (مراقبي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب صلوة المريض، فصل في اسقاط الصلاة والصوم، دارالكتاب ديوبند ۴۳۸)

ولومات وعليه صلوات فائتة، وأوصى بالكفارة يعطي لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت، كراچی ۲/۷۲، زكريا ۲/۵۳۲، البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زكريا ديوبند ۲/۱۶۰، كوئٹہ ۲/۹۰، ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، زكريا ۱/۲۵۱، جدید زكريا ديوبند ۱/۱۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۱۰/۳۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ شوال المکرم ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۰/۵۹۱۳)

بغیر وصیت کے نمازوں کا فدیہ دینا

سوال [۲۸۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مرنے والا شخص اگر اپنی زندگی میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی طرف سے اپنے ورثاء کو فدیہ کی وصیت نہ کرے تو کیا ورثاء کو بغیر وصیت کے بھی فدیہ دینا ضروری ہے؟

المستفتی: محمد یاسین، مدرس مدرسہ فخر العلوم، گانوڑی، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بغیر وصیت کے فدیہ دینا ورثاء پر لازم نہیں ہے؛ بلکہ اگر ورثاء بغیر وصیت کے اپنی طرف سے ادا کر دیں تو ان کی طرف سے تبرع اور احسان ہوگا۔

وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبي جاز إن شاء الله تعالى. (مرقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب صلوة لمريض، فصل في اسقاط الصلاة والصوم قديم ۲۳۸، جديد دارالكتاب ديوبند ۴۳۸، مجمع الأنهر، كتاب الصوم، فصل في بيان وجوه الأعدار المسيحة للإفطار جديد، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۸ ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، زكريا ۱/۲۵، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۳۰ رشتوال المکرّم ۱۴۱۹ھ احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ (الف فتویٰ نمبر: ۵۹۱۳۳۳)

ورثاء میں بالغ اور نابالغ اولاد ہوں تو مرحوم کی نمازوں کے فدیہ کا حکم

سوال [۲۸۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا انتقال ہو گیا، اس نے انتقال کے وقت بالغ اور نابالغ دونوں طرح کی اولاد چھوٹی متوفی کے ذمہ قضاء نمازیں ہیں فائزہ نمازوں کا فدیہ اس کی نابالغ اولاد کے ہوتے ہوئے اس کے ذمہ واجب ہو گا یا نہیں؟ اگر اس کے مال میں سے فائزہ نمازوں کا فدیہ نکال دیا جائے تو اس کی مقدار کیا ہے؟

المستفتی: ذبح اللہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مرحوم نے وصیت کی ہے تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں سے فدیہ ادا کیا جائے اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو بالغ و رثاء اپنے اپنے حصوں سے اپنی خوشی سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں، مگر نابالغ کے حصے سے ادا نہ کیا جائے اس کے مال میں اضافہ اور زیادتی کی مصلحت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔

وقد نصب الحاكم ناظرا له فيتحرى المصلحة كما فيه في الصبي الذي يعقل البيع ويقصده الخ (هداية، كتاب الحجر، باب الحجر للفاسد، اشرفي ديوبند ۳/۳۵۵)

يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية، أو وراثه فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى -إلى- وأما إذا لم يوص فطوع بها الوارث .

فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى! (شامي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت، زكريا ۵۳۲/۲، كراچی ۷۲/۲، حاشية الطحطاوي على المراقي، باب صلوة المريض، فصل في اسقاط الصلاة والصوم، دارالكتاب ۴۳۸، هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، زكريا ۱/۲۵۰، جديد زكريا ديوبند ۱۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۴۳۶/۳۳)

ایک فقیر کو متعدد نمازوں کا فدیہ دینا

سوال [۲۸۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، طویل بیماری کے زمانہ میں کافی نمازیں فوت ہو گئیں اور ان نمازوں کا فدیہ ہزاروں کو پہنچ گیا، تو کیا ایک فقیر کو کئی نمازوں کا فدیہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: حاجی محمد شاہد، شاہ آباد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر ایسا فقیر ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو متعدد

نمازوں کے فدیہ کا پیسہ ایک ساتھ دینا جائز ہے۔

ویجوز إعطاء فدية صلوات وصيام أيام ونحوها، لو احد من الفقراء

جملة الخ. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض

فصل في اسقاط الصلاة والصوم قديم ۲۳۹، جديد دارالكتاب ديوبند ۴۳۹)

ویدفع عن كل صلوة نصف صاع حنطة منوين، ولو دفع جملة إلى

فقير واحد جاز. (ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوات، زکریا

۱/۱۲۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۸۴)

ویجوز إعطاء فدية صلوات لو احد جملة. (نور الإيضاح، کتاب الصلاة، باب

صلوات المريض فصل في إسقاط الصلوة والصوم، امدادیہ دیوبند ۱۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/۱۳۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ محرم الحرام ۱۳۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۱۵۹/۳۳)

دوماہ کی نمازوں کا فدیہ

سوال [۲۸۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک عورت کا انتقال اور اس کی دو مہینہ کی نمازیں رہ گئیں تو دو مہینے کی

نمازوں کا فدیہ کیا ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تفسیری بخش جواب سے نوازیں؟

المستفتی: حاجی فرمان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دو مہینے یعنی ۶۰ / یوم کی نمازوں کا فدیہ پانچ

کوئٹل ۶۶ / کیلو ۸۷ / گرام ۳۰۰ / ملی گرام گیارہوں ہے بازار سے قیمت معلوم کر کے ادا فرمائیں۔

ولومات وعلیہ صلوات فائتہ، وأوصی بالكفارة يعطي لكل صلوة

نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر. (تنوير الأبصار مع الدر

المختار، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوات، مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت،

کراچی ۲/۷۲، زکریا ۲/۵۳۲، البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوات، زکریا

دیوبند ۲/۱۶۰، کوئٹہ ۲/۹۰، ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء

الفوائت، زکریا ۱/۱۲۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۰۳/۲۷)

تین ماہ کی نمازوں اور ایک ماہ کے روزے کے فدیہ کی مقدار

سوال [۲۸۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تین ماہ کی نمازیں اور ایک ماہ کے روزے ہماری والدہ کے قضا ہو گئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، اس کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟

المستفتی: حسان، دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وتر کی نماز کو شامل کر کے ایک یوم میں چھ نمازیں ہو جاتی ہیں اور ہر نماز کے عوض میں ایک صدقہ فطر فدیہ میں ادا کیا جائے اور ہر ایک روزہ کے عوض میں بھی ایک صدقہ فطر ادا کیا جائے؛ لہذا تین ماہ کے ۹۰ یوم ہوتے ہیں اور ایک ماہ کے روزے کا فدیہ ۳۰ صدقہ فطر ہوں گے تو کل ۵۷۰ صدقہ فطر بنیں گے اور ایک صدقہ فطر کی مقدار ڈیڑھ کلو ۷ گرام ۶۴۰ ملی گرام گیہوں ہے بازار سے قیمت معلوم کر کے ادا کر سکتے ہیں۔

ومن مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وكذا يخرج الصلاة كل وقت من فرض اليوم والليله حتى الوتر، لأنه فرض عملي عند الإمام..... هي نصف صاع من بر..... أو قيمته، وهي أفضل لتنوع حاجات الفقير. (حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، باب صلوة المريض،

فصل في اسقاط الصلاة والصوم، دار الكتاب ديوبند ۴۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۱۰/۱۴۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ شوال المکرّم ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۶۹/۳۱)

ایک سال کی نمازوں کا کفارہ اور اس کا مصرف

سوال [۲۸۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے والد قبلہ جناب غوث محمد صاحب کا طویل علالت کے بعد ۱۱ جولائی ۲۰۰۷ء بروز بدھ کو انتقال ہو گیا ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے خاص فضل و کرم سے مرحوم کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مرحوم کی تقریباً ایک سال کی نمازیں علالت کے باعث ادا نہ ہو سکیں، ایک سال کی نمازوں کا کفارہ کیا ہوگا اور اس کو کس مد میں دیا جائے، دینی مدارس، مساجد، مساکین اور ضرورت مند اعزاء و اقارب کو دیا جاسکتا ہے؟ ازراہ کرم مفصل جواب سے نوازیں۔

المستفتی: محمد طارق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز کا کفارہ روزے کے کفارہ کی طرح ایک فطرہ یعنی نصف صاع گیہوں ہوتا ہے یہ ہر نماز کے لئے کفارہ کی مقدار ہے اور وتر کو مستقل نماز شمار کیا جائے گا؛ لہذا ایک دن میں چھ نماز شمار ہوں گی اس طرح روزانہ چھ صدقہ فطر لازم ہوں گے اور انگریزی سالوں کے حساب سے ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور ۳۶۵ کو چھ میں ضرب دینے سے دو ہزار ایک سو نوے (۱۹۰) صدقہ فطر بنے اور دو ہزار ۱۹۰ صدقہ فطر کی قیمت اگر بیس روپیہ صدقہ فطر کے حساب سے لگائی جائے تو تینتالیس ہزار آٹھ سو (۳۳۸۰۰) روپیہ بیٹھتے ہیں، یہ پیسہ غریب نہتے فقیر لوگوں کو صدقہ کر دیا جائے، دینی مدارس کے طلبہ، مساکین، ضرورت مند، فقراء، اعزاء اور اقرباء کو دے سکتے ہیں؛ لیکن مساجد میں نہیں دے سکتے۔

ولومات و علیہ صلوات فائتہ، وأوصی بالکفارة يعطي لكل صلوة
نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حکم الوتر -إلى- ولو أدى للفقير أقل

من نصف صاع لم یجز ولو أعطاه الكل جاز. (شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء

الفوائت، مطلب فی بطلان الوصیة للختمات والنهالیل، کراچی ۲/۷۲، زکریا ۲/۵۳۳)

وفي فتاوی الحجة وإن لم یوص لورثته وتبرع بعض الورثة

یجوز. (عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت،

زکریا ۱/۱۲۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶/رجب المرجب ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۸۷/۳۸)

ایک فقیر کو ایک دن میں کتنی نمازوں کا فدیہ دیا جائے؟

سوال [۲۸۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید کے والدین وفات پا گئے، کچھ مال و اسباب بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اب ان

کے ورثاء اولاد ذکور و اناث چاہتے ہیں کہ ان کی جانب سے چھ چھ ماہ کا فدیہ صلوة ادا کر

دیا جائے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کس حساب سے کتنی نمازیں دن رات میں شمار ہوں گی

اور چھ ماہ ۳۰/۳۰ دن کے حساب سے شمار ہوں گے؟

والدین نے نمازوں کے فدیہ کی کوئی وصیت نہیں کی، مگر متروکہ مال میں سے سب

ورثاء بالغ کی اجازت سے نماز کا فدیہ نکالا جا رہا ہے، تو کیا یہ واجب میں شمار ہوگا یا نفل میں؟

کیا اس فدیہ کی رقم سے نمازیوں کے لئے مسجد میں کوئی چیز منگائی جاسکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، جس کی

مقدار موجودہ اوزان کے حساب سے ڈیڑھ کلو ۷۴۰ گرام ۶۴۰ ملی گرام ہوتی ہے، وتر کی نماز کا بھی

فدیہ نکالنا ضروری ہوتا ہے؛ لہذا روزانہ چھ نمازوں کا فدیہ نکلے گا، اگر چھ مہینوں کا فدیہ نکالنا ہے،

تو چھ مہینہ میں جتنے دن ہوتے ہیں انہیں گن لیا جائے قمری شمسی مہینہ شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ بلکہ ان ایام کو گن کر جوڑ لیا جائے، جتنے دن ہوں اتنے دن کا فدیہ شمار کر لیا جائے۔
 ولومات و علیہ صلوات فائتة، وأوصیٰ بالكفارة يعطى لكل صلوة
 نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر، والصوم وإنما يعطى من
 ثلث ماله. (شامی، زکریا ۵۳۲/۲، کراچی ۷۲/۲)

نمازوں کا فدیہ نکالنے کے لئے اگر میت نے وصیت کی ہے، تو اس کے تہائی مال سے نکالنا واجب ہے اور اگر وارثین اپنی طرف سے نکالنا چاہیں، تو واجب نہیں ہے، مگر دونوں طرح کے فدیہ کے مستحق فقراء و مساکین ہوتے ہیں؛ لہذا فدیہ کے پیسوں سے نمازیوں کے لئے اور مسجد کے لئے کوئی چیز لا کر دینا جائز نہ ہوگا، اس سے فدیہ ادا نہ ہوگا؛ بلکہ فقراء و مساکین پر تقسیم کر دینا واجب ہے۔

و اما إذا لم یوص فتطوع بها الوارث.....إنه یجزیه. (شامی، زکریا
 ۵۳۲/۲، کراچی ۷۲/۲)

وإشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب علی الولی. (شامی زکریا
 ۵۳۳/۲، کراچی ۷۲/۲)

وهو محرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغيره ذلك من
 الصدقات الواجبة. (شامی ۲۸۳/۳)

لا یصرف إلى بناء نحو مسجد.....وكل ما لا تمليک فيه. (شامی زکریا
 ۲۹۱/۳، کراچی ۳۴۴/۲)

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک فقیر کو ایک دن میں چار نمازوں سے زیادہ کا فدیہ نہ دیا جائے، حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن میں اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے معارف القرآن میں بالکل ناجائز لکھا ہے۔ (بیان القرآن ۱۰۳/۱، معارف القرآن ۳۹۰/۱)

اور فقہ کی بعض جزئیات اس کے موافق بھی ہے۔

وفي الولواجبية: ولو دفع عن خمس صلوة تسع أمانان لفقير واحد
ومنأ لواحدا اختار الفقيه أنه يجوز عن أربع صلوات ولا يجوز عن الصلوة
الخامسة. (عالمگیری ۱/۲۵، جدید ۱/۱۸۴، البحر الرائق، کراچی ۲/۹۱، زکریا
۲/۱۶۰، الفتاویٰ التاتاریخانیة ۱/۷۷۱)

اور احسن الفتاویٰ، فتاویٰ محمودیہ اور فتاویٰ رحیمیہ وغیرہ میں گنجائش لکھا ہے۔

(مستفاد: احسن الفتاویٰ ۴/۴۲۱، محمودیہ ۹/۸۴، رحیمیہ ۶/۲۷۷)

اور بعض فقہاء کی عبارتیں ان کی تائید میں بھی ملتی ہیں۔

وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوباً، ولو في أول الشهر
وبلا تعدد فقير كالفطرة - إلى قوله - فلو أعطى هنا مسكينا صاعاً عن يومين جاز.
(شامی، زکریا ۳/۱۰، کراچی ۲/۴۲۷، الجوهرۃ النيرة ۱/۲۰۸، طحطاوی ۶/۳۷۶)

نیز ایک فقیر کو نصاب سے زیادہ دینا کسی کے نزدیک بھی بغیر کراہت کے جائز نہیں ہے۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۵/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳/۸۳۶)

کم پیسے سے نماز و روزہ کا فدیہ کیسے ادا کریں؟

سوال [۲۸۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ میت کے اوپر نمازوں کی قضاء ہے، اب ان کا فدیہ دینا ہے؛ لیکن
نمازیں زیادہ ہیں اور فدیہ کا پیسہ کم ہے، ایسی کیا شکل ہو کہ نماز کا فدیہ بھی اداء ہو جائے
اور پیسہ بھی زیادہ خرچ نہ ہو؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس کی شکل یہ ہوگی کہ میت کے ذمہ تمام نمازوں کا حساب لگایا جائے، پھر اس کے تناسب سے جتنا فدیہ ہو کسی فقیر کو دیا جائے، وہ فدیہ پر قبضہ کر کے میت کے وارث کو واپس ہدیہ کر دے، اسی طرح یہ دونوں لیتے دیتے رہیں، جب حساب لگا کر دیکھ لیں کہ تمام نمازوں کا فدیہ اداء ہو گیا، تو وہ فدیہ کی مقدار فقیر کو دیدی جائے۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱/۷۷، ۳۹۷/۷، میرٹھ ۱۱/۴۷)

وإن لم يف ما أوصى به الميت عما وجب عليه من الفدية، أو لم يكف ثلث ماله - فحيلته لإبراء ذمة الميت عن جميع ما عليه أن يدقع ذلك المقدار اليسير بعد تقديره لشيء من صيام، أو صلوة، أو نحوه ما يعطيه للفقير بقصد إسقاط ما يرد عن الميت فيسقط عن الميت بقدره، ثم بعد قبضه يهبه الفقير للولي، أو للأجنبي ويقبضه لتمام الهبة، ثم يدفعه الموهوب له للفقير بجهة الإسقاط متبرعاً به عن الميت. (الإصباح على هامش، نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت ۴/ ۱۰۴، كذا في مراقبي الفلاح، كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، دار الكتاب ديوبند ۴۳۹، حلي كبير، كتاب الصلاة، قبيل فصل المسافر، اشرفية ۵۳۵، بحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، زكريا ۱۶۰/۲، كوئٹہ ۹۱/۲، تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل العشرون، قضاء الفائتة زكريا ۴۵۸/۲، رقم: ۲۹۹۱، شامي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت زكريا ۵۳۴/۲، كراچي ۷۳/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۴/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: رجسٹر خاص)

صلوة المعادة

سوال [۲۸۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: (۱) کہ اعادہ والی نماز میں اگر کوئی ایسا شخص شریک ہو جائے جو اس سے پہلی جماعت میں شریک نہیں تھا تو کیا اس شریک ہونے والے کی نماز صحیح ہو جائیگی؟ اور فرض ادا ہو جائے گا؟ نیز نماز کا اعادہ ترک فرض کی وجہ سے کیا جا رہا ہو یا ترک واجب کی وجہ سے یا ترک سنت کی وجہ سے تینوں صورتوں میں مذکورہ شخص کی شرکت کا ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ؟

(۲) مذکورہ مسئلہ میں اگر شرکت صحیح نہیں ہے تو شخص مذکور کیا کرے، آیا اعادہ والی جماعت کی فراغت کا انتظار کرتے ہوئے خاموش بیٹھا رہے یا اسی وقت وہ بھی ایک طرف ہو کر اپنی فرض نماز انفراداً شروع کر دے یا اس مسجد سے نکل کر جماعت پانے کی غرض سے کسی اور مسجد کو چلا جائے؟ کیا اس صورت میں اعراض عن الصلوٰۃ والی بات تو لازم نہیں آئیگی؟ شرعاً تینوں صورتوں میں کونسی صورت اختیار کرنی چاہئے؟

المستفتی: محمد فرقان الدین، نرسراؤ پیٹ (آندھرا)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اعادہ والی نماز میں شریک ہونے یا نہ ہونے کے سلسلہ میں قدرے تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ شریک ہونے والے کو پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ یہ نماز اعادہ والی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لئے شریک ہونا درست نہیں ہے، اگر شریک ہوگا تو فرض ادا نہیں ہوگا؛ لیکن اگر پہلے اس بات کا علم نہ ہو اور وہ شریک ہو جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ تفصیل تو اس وقت ہے جبکہ اعادہ ترک واجب کی بنا پر ہو، اگر اعادہ ترک فرض کی وجہ سے ہے تو ایسی صورت میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔

هكذا ذكر في الطحاوي والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر و الفرض سقط بالأولى. (طحاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل

فی بیان الصلاة، دارالکتاب دیوبند ۲۴۸)

فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها، أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء

الفوائت، کراچی ۸۰/۲، زکریا ۱۴۲/۲)

(۲) اگر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہاں اعادہ والی نماز ہو رہی ہے اور کسی دوسری مسجد میں جماعت پانے کی امید ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھے جس میں جماعت کے ملنے کی امید ہو، اس طرح دوسری مسجد میں جماعت کی نیت سے پہلے چلے جانے میں اعراض عن الصلوٰۃ کا الزام لازم نہیں آئے گا اور اگر کسی دوسری مسجد میں جماعت پانے کی امید نہیں ہے تو اسی مسجد میں ایک طرف ہو کر اپنی نماز الگ پڑھنا جائز ہے، بیٹھے بیٹھے انتظار کی ضرورت نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ قدیم ۳۲۲/۴، جدید کریم ۱۳۶/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/رجب المرجب ۱۴۲۷ھ

۱۹/۷/۱۴۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۱۴۵)

ترک واجب کی بنا پر صلوٰۃ معادہ کا تفصیلی جواب

سوال [۲۸۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر جماعت کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے اور سجدہ سہونہ کیا جائے، پھر نماز کا اعادہ کیا جائے تو اس میں نئے مقتدیوں کے شریک ہونے کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد رضوان بجنوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صلوٰۃ المعادہ مستقل فرض ہے یا پہلی نماز کے لئے جابر ہے، اس سلسلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں اولاً وہ اقوال بیان کئے جائیں گے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ المعادہ مستقل فرض ہے، علامہ شامی نے فقیہ ابوالیسر کا قول نقل فرمایا ہے کہ:

ومقابلہ ما نقلوه عن أبي اليسر أن الفرض هو الثاني . (شامی، کتاب

الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أدیت مع كراهة التحريم تحب إعادتها،

علامہ شامیؒ نے ردالمحتار میں تین جگہ صلوٰۃ المعادۃ کا تذکرہ کیا اور طویل بحث کے بعد اس کی فرضیت کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

فإذا أعادها (الولي) وقعت فرضاً مكملًا.

للفرض الأول نظير إعادة الصلوة المعادة بکراهة، فإن کلاهما فرض .

(شامی، کتاب الجنائز، مطلب فی بیان من هو أحق بالصلاة علی الميت، زکریا ۱۲۴/۳، کراچی ۲/۲۲۳)

(۳) علامہ حسن ابن عمار الشرنبلالیؒ نے مراقی الفلاح میں صلوٰۃ المعادۃ کے مستقل

فرض ہونے کو قیل کہہ کر ذکر فرمایا ہے:

وقيل تكون الثانية فرضاً فهی مسقطه. (طحطاوي علی المراقي، کتاب الصلاة،

باب سجود السهو، دارالکتاب دیوبند ۴۶۲، قدیم ۲۵۱)

(۴) علامہ ابراہیم بن محمد حلبیؒ نے فرمایا کہ بعض مشائخ نے صلوٰۃ المعادۃ کو فرض فرمایا ہے:

ومن المشايخ من قال يلزمه أن يعيد ويكون الفرض هو الثاني. (حلبی کبیر،

پاکستان، فرائض الصلاة، الفرض الثامن من تعديل الأركان ۲۹، أيضاً اشرفیہ دیوبند)

اب وہ اقوال ملاحظہ ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ المعادۃ پہلی نماز کے لئے

جابر اور نفل ہے۔

(۱) علامہ شامیؒ نے فرمایا کہ علامہ ابن الہمامؒ نے صلوٰۃ المعادۃ کے جابر ہونے

کے قول کو اختیار کیا ہے۔

اختار ابن الهمام الأول لأن الفرض لا يتكرر. (شامی، کتاب الصلاة،

باب صفة الصلاة، مطلب کل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها،

کراچی ۱/۵۵۷، زکریا ۲/۱۴۸)

(۲) علامہ علاء الدین الحسکفیؒ نے صلوٰۃ المعادۃ کے جابر ہونے کے قول کو مختار قرار دیا ہے۔

کل صلوة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها والمختار أنه

جابر للأول. (در مختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أدیت

مع كراهة التحريم تجب إعادتها، زكريا ۲/ ۱۴۸، كراچي ۱/ ۴۵۷)

(۳) علامہ ابراہیم بن محمد حلبی نے حلبی کبیر میں صلوة المعادة کے جابر ہونے کو

مختار قرار دیا ہے۔

ومن المشايخ من قال يلزمه أن يعيد ويكون الفرض هو الثاني

والمختار أن الفرض هو الأول. (حلبی کبیر، فرائض الصلاة، الفرض الثامن

تعديل الأركان ۲۹۴)

(۴) علامہ ابراہیم حلبی نے صغیری میں بھی صلوة المعادة کے جابر ہونے کے قول کو

مختار قرار دیا ہے۔

والمختار أن الفرض هو الأول والثاني جبر للخلل الواقع فيه بترك

الواجب. (صغيري، مطبع مجتہبی، دہلی ۱۶۰)

(۵) علامہ زین الدین ابن نجیم مصری نے الاشباہ والنظائر کے اندر صلوة المعادة کے

جابر ہونے کو نقل فرمایا ہے:

أما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب فلا شك أنها

جابرة لافرض، لقولهم بسقوط الفرض بالأول. (الأشباہ قديم، تحت القاعدة

الثانية الأمور بمقاصدها قديم ۷۲)

(۶) علامہ شرنبلالی نے مراقی الفلاح میں صلوة المعادة کے جابر ہونے کے قول کو

اختیار کیا ہے۔

فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولى. (مراقی الفلاح مع الطحطاوي،

کتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالکتاب دیوبند ۴۶۲، قديم ۲۵۱)

(۷) علامہ طحطاوی نے طحاوی علی المراقی میں صلوة المعادة کے نفل اور جابر ہونے کو

مختار قرار دیا ہے۔

والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لا يتكرر. (حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان واجب الصلاة، دارالكتاب ديوبند ۲۴۸، قديم ۱۳۴)

(۸) الموسوعة الفقهية میں صلوة المعادة کو نفل قرار دیا ہے۔

و الصلاة المعادة تكون نافلة: هذا قول الحنفية، والحنابلة، وقول الشافعية: بالجديد. (الموسوعة الفقهية ۱۷۴/۲۷)

لہذا فقہاء کے جزئیات کے ہمارے سامنے دونوں قسم کے ہیں:

نمبر ۱: وہ جزئیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری نماز فرض ہے۔

نمبر ۲: وہ جزئیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی نماز فرض ہے، دوسری نماز نقصان کی تلافی کے لئے ہے، اب دونوں قسم کے جزئیات کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ جب دوسری نماز شروع ہو جائے تو نئے شریک ہونے والے دو قسم کے ہوں گے۔

نمبر ۱: وہ لوگ جن کو معلوم ہے کہ یہ دوسری نماز ہے جو لوٹائی جا رہی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے اس نماز میں شریک ہونا جائز نہیں، اگر شریک ہو جائیں گے تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا دوبارہ پڑھنا ہوگا۔

نمبر ۲: نئے آنے والے وہ لوگ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ لوٹائی جا رہی ہے اور وہ آکر شریک ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے لئے یہ فرض نماز صحیح ہو جائے گی اور اسی سے ان کا فرض ساقط ہو جائے گا عادیہ کی ضرورت نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۶/۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۷۲۲۶۰۶)

ترک واجب کی بنا پر صلوة معادہ کی شرعی حیثیت

سوال [۷۷۲۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام قعدہ اولیٰ بھول گیا اور سجدہ سہو کئے بغیر سلام پھیر دیا بعدہ نماز کا اعادہ کیا، اعادہ شدہ نماز ظاہر روایت کے مطابق نقل ہوئی؟ اگر علماء کا اختلاف ہے تو درج فرمائیں۔

المستفتی: محمد ابوالکلام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اعادہ شدہ نماز کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مستقل فرض ہے یا پہلی کے لئے جابر ہے، علامہ شامی نے فقیہ ابو ایسر کا قول نقل فرمایا ہے کہ صلاة المعادة مستقل فرض ہے۔

ومقابلہ ما نقلوه عن أبي اليسر أن الفرض هو الثاني. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أدت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، كراچی ۱/۴۵۷، زکریا ۲/۴۸۱)

علامہ ابراہیم حلبی نے فرمایا کہ بعض مشائخ نے صلاة المعادة کو فرض فرمایا ہے۔

ومن المشايخ من قال يلزمه أن يعيد ويكون الفرض هو الثاني.

(حلبی کبیر، فرائض الصلاة، الفرض الثامن من تعديل الأركان، اشرفیہ دیوبند ۴/۲۹)

علامہ ابن نجیم نے بھی فرمایا کہ بعض مشائخ نے صلاة المعادة کو مستقل فرض فرمایا ہے۔

ومن المشائخ من قال تلزمه ويكون الفرض هو الثاني. (البحر الرائق،

كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۱/۵۲۳، کراچی ۱/۳۰۰)

دوسرا قول یہ ہے کہ صلاة المعادة مستقل فرض نہیں ہے؛ بلکہ پہلے کے لئے جابر

ہے؛ چنانچہ علامہ شامی نے فرمایا شیخ علامہ ابن الہمام نے صلاة المعادة کے جابر ہونے کے قول کو اختیار کیا ہے۔

اختار ابن الهمام الأول لأن الفرض لا يتكرر. (شامي، كتاب الصلاة،

باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أدت مع كراهة التحريم تجب إعادتها،

کراچی ۱/۴۵۷، زکریا ۲/۴۸۱)

علامہ طحاویؒ نے طحاوی علی المراقی میں صلوٰۃ المعادۃ کے نفل اور جابر ہونے کے قول کو نقل فرمایا ہے۔

والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى، لأن الفرض لا يتكرر. (طحطاوي على المراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان واجب الصلاة، دارالكتاب ديوبند ۲۴۸، قديم ۱۳۴)

غرض یہ دو قول صلوٰۃ المعادۃ کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں مصرح ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک کے بارے میں صحیح اور راجح ہونے کا نشان بھی موجود ہے؛ لہذا تطبیق کی شکل یہ ہوگی کہ نماز کے لوٹانے کی حالت میں نو وارد شخص کو اگر معلوم ہے کہ یہ اعادہ کی جانے والی نماز ہے تو اس کی شرکت درست نہیں ہے اور اس پر اپنی فرض نماز کا اعادہ لازم ہے اور اگر نو وارد شخص کو معلوم نہیں ہے کہ نماز لوٹائی جا رہی ہے اور آکر یہ سمجھ کر شریک ہو گیا کہ یہ اصل نماز ہے اعادہ نہیں تو ایسے شخص کی فرض نماز اس امام کے پیچھے درست ہو جائے گی اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ، زکریا ۳۵۲/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲ھ/۱۳۰

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۹۰۱۳۶)

صلوٰۃ المعادہ میں نئے نمازیوں کی شرکت

سوال [۲۸۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عصر کی نماز میں پہلی والی دو رکعتوں کے بجائے امام صاحب نے تین رکعتیں پڑھائیں اس کے بعد قعدہ میں بیٹھے پھر دو رکعت پڑھا کر قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر سلام پھیر دیا کچھ نمازیوں کے بتانے پر نماز دوبارہ پڑھی گئی، اب سوال یہ ہے کہ جو نماز دوبارہ پڑھی گئی ہے، اس میں وہی نمازی شریک ہوں گے جو کہ پہلی والی جماعت میں شامل تھے یا وہ نمازی بھی

شامل ہو سکتے ہیں جو کہ پہلی والی جماعت میں شامل نہیں تھے؟

المستفتی: حمایت اللہ، پکڑ کی ملک عزیز نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مذکورہ میں امام صاحب کی فرض نماز باطل ہوگئی جس کی وجہ سے تمام مقتدیوں کی نماز بھی باطل ہوگئی، اب دوبارہ نماز ادا کرنے میں پہلے والے مقتدی اور ایسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو پہلی جماعت میں شریک نہیں تھے اور ہر ایک کی نماز درست ہو جائے گی۔

لوسها عن القعود الأخير..... إن قیدها بسجدة..... تحول فرضه نفلا الخ

(در مختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۲/۵۵۰، کراچی ۲/۸۵)

لأن عدم سقوطه بالأول إنما يكون بترك فرض الخ (شامی، کتاب

الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أدیت كراهة التحريم تجب إعادتها،

زکریا ۲/۴۸، کراچی ۱/۴۵۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۰۰۹)

صلوة المعادة میں شرکت کرنے والے کا حکم

سوال [۲۸۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: (۱) کہ ایک شخص نے عصر کی نماز فرض پانچ رکعت پڑھائی اور چوتھی رکعت پر قعدہ

اخیرہ تو کیا؛ لیکن پانچویں رکعت پر سجدہ سہو نہیں کیا، تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟

(۲) اگر نہیں ہوئی تو کیا دوبارہ جو جماعت ہو رہی ہے اس میں نو وارد شخص شامل

ہو سکتا ہے یا نہیں؟

(۳) مسبوق جو دو رکعت میں شامل نہیں تھا اپنی اپنی نماز ادا کرتا رہے یا نماز توڑ کر دوبارہ جو جماعت ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جائے اور امام کے پانچ رکعت پڑھانے کی صورت میں اس مقتدی کی جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اس کی تو چار رکعت ہوئی اور امام کی پانچ رکعت ہوئی تو کیا اس مسبوق مقتدی کی نماز ہوئی یا نہیں؟ دوسری جماعت کی نماز فرض ہوگی یا نفل؟ دوسری جماعت ہو رہی ہے یہ ترک فرض کی وجہ سے ہو رہی ہے یا نقصان کو پورا کرنے کے لئے ہو رہی ہے؟

المستفتی: محمد شہزاد کشن پور، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) نماز واجب الاعادہ ہے لاتفسد

بترکھا وتعاد وجوبا فی العمد والسہو إن لم یسجد لہ وإن لم یعدھا یكون فاسقا آثما الخ (درمختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب واجبات الصلاة، کراچی ۱/۴۵۶، زکریا ۲/۱۴۶)

(۲) صلوة معادۃ میں نو وارد کی شرکت کے بارے میں دو قول ہیں: جواز، وعدم جواز احوط اور پسندیدہ قول جواز کا ہے، تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اگر نو وارد کو معلوم ہے کہ یہ صلوة معادۃ ہے تو اس کے لئے شرکت جائز نہیں اور اگر معلوم نہیں ہے تو اس کی شرکت صحیح ہے۔

المختار أنه جابر للأول لأن الفرض لا يتكرر وتحتة في الشامية: أن القول بكون الفرض هو الثاني يلزم عليه تكرار الفرض، لأن كون الفرض هو الثاني دون الأول يلزمه منه عدم سقوطه بالأول وليس كذلك، لأن عدم سقوطه بالأول إنما يكون بترك فرض لا بترك واجب الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها،

کراچی ۱/۴۵۷، زکریا ۲/۱۴۸)

(۳) مسبوق نے اگر پانچویں رکعت میں امام کی متابعت کر لی ہے اور امام نے

چوتھی رکعت پر قعدہ بھی کر لیا تھا تو ایسی صورت میں مسبوق کی نماز فاسد ہوگئی ہے اس پر لازم ہے کہ اپنا فرض لوٹالے؛ اس لئے کہ چوتھی رکعت کے قعدہ کے بعد امام کی نماز مسبوق کے حق میں پوری ہوگئی، اب امام کی متابعت جائز نہیں ہے۔

إذا قام الإمام إلى الخامسة وتابعه المسبوق إن كان الإمام قعد على الرابعة فسدت صلوة المسبوق..... لأن الإمام إذا قعد على الرابعة تمت صلوته في حق المسبوق الخ (قاضی خان، علی الہندیہ، کتاب الصلاة، فصل في المسبوق، زکریا ۱/۱۰۲، زکریا جدید ۱/۶۵، هكذا البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة، باب الحدث في الصلاة، زکریا ۱/۶۲، کوئٹہ ۱/۳۷۸، ہندیہ، کتاب الصلاة، باب الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، زکریا ۱/۹۲، زکریا جدید ۱/۱۵۰، شامی، کتاب الصلاة، قبیل باب الاستخلاف، کراچی ۱/۵۹۹، زکریا ۲/۳۵۰)

مسبوق کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو یا دو رکعت یا تین رکعت سب صورتوں میں مذکورہ شکل میں مسبوقوں کی نمازیں فاسد ہو گئیں ہیں؛ لہذا ان پر اپنے فرض کا اعادہ لازم ہے اور امام کی صلوة معادہ فرض ہے یا جبر لملقضان؟ اس میں فقہاء کے اقوال دونوں طرح ہیں، بعض اول کو فرض کہتے ہیں ثانی کو تلافی نقصان اور بعض اول کو نفل اور ثانی کو فرض کہتے ہیں، مگر قول اول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے؛ اس لئے فرض پڑھنے والوں کے لئے جان بوجھ کر صلوة معادہ میں شرکت نہیں کرنی چاہئے اس لئے مذکورہ مسبوق کے لئے اس میں شرکت مشروع نہ ہوگی۔

ومن المشايخ من قال يلزمه أن يعيد ويكون الفرض هو الثاني. والمختار أن الفرض هو الأول والثاني جبر للخلل الواقع فيه بترك الواجب الخ (غنية المستملي شرح كبيرى، فرائض الصلاة، الفرض الثامن من تعديل الأركان، اشرفية ديوبند ۲۹۴)

(۶/۵) اول فرض ہے ثانی تلافی نقصان ہے۔

المختار أنه جابر للأول لأن الفرض لا يتكرر الخ (در مختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل صلوة أدت مع كراهة التحريم تحب إعادتها، كراچی ۴۵۷/۱، زکریا ۱/۲۸، کبیری، ۲۹۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۳۴/۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۲/۱۴۱۹ھ

صلوة المعاده میں نووارد کی شرکت کا حکم

سوال [۲۸۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کسی بنا پر امام کی نماز فاسد ہوگئی دور بارہ نماز کا اعادہ کرنا پڑا ایک آدمی بعد میں آکر شریک ہوگیا، بعد میں شرکت کرنے والے کی نماز درست ہوگئی؟ بیان کیجئے مہربانی ہوگی۔

المستفتی: عبد اللہ معصوم پوری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر نماز فاسد ہو جانے کی وجہ سے لوٹائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں آکر شریک ہونے والوں کی نماز درست ہو جائیگی؛ اس لئے کہ لوٹائی جانے والی نماز بالاتفاق فرض ہے نقصان کی تلافی نہیں اور اگر نماز فاسد ہونے کی وجہ سے لوٹائی نہیں جا رہی ہے؛ بلکہ ترک واجب کی وجہ سے لوٹائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بعد میں آکر شریک ہونے والوں کی دو قسمیں ہے:

نمبر ۱: وہ لوگ جن کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ نماز نقصان کی تلافی کے لئے لوٹائی جا رہی ہے ان کی شرکت درست نہیں ان کو نماز لوٹانا لازم ہے۔

نمبر ۲: بعد میں آکر شرکت کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نقصان کی تلافی میں لوٹائی جانے والی نماز ہے؛ بلکہ یہ سمجھ کر شرکت کر لی ہے کہ یہ اصل نماز ہے، تو ایسے لوگوں

کی نماز درست ہو جاتی ہے، ان پر اپنی نماز کا اعادہ لازم نہیں۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ، زکریا ۳۵۲/۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ ذی قعدہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۸۳۹/۳۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۱۱/۸ھ

تاخیر واجب کی بنا پر صلوٰۃ معادہ میں مسبوق اور نو وارد کی شرکت

سوال [۲۸۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے بھولے سے تیسری رکعت میں تین سجدے کر لئے آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا بھول گئے سلام کے بعد دوبارہ نماز باجماعت ادا کی گئی؛ کیونکہ واجب الاعادہ تھی جماعت اول میں کچھ لوگ مسبوق تھے، جماعت ثانی ہوتے دیکھ کر مسبوق لوگوں نے اپنی نماز پوری کئے بغیر نیت توڑ دی اور جماعت میں شریک ہو گئے، اسی طرح بعض نئے لوگ اس جماعت ثانیہ میں آ کر شریک ہوئے تو ان مسبوق لوگوں کی نماز اور بعد میں شریک ہونے والوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: نفیس احمد قاسمی، مہتمم مدرسہ تائید اسلام، موانہ کلاں، میرٹھ (پو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں جن مسبوق حضرات نے اپنی نماز پوری کئے بغیر نیت توڑ دی ان کے لئے صلوٰۃ معادہ میں شرکت جائز نہیں؛ اس لئے کہ صلوٰۃ معادہ جبر نقصان کے طور پر ہے، جس میں مستقل فرض پڑھنے والوں کی اقتداء درست نہیں؛ بلکہ اعادہ لازم ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۳۸۹/۳، جدید زکریا ۳۳۵/۳، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۷۹/۱، جدید زکریا ۱۲۹/۱)

اور اسی طرح نو وارد لوگوں میں سے جن کو صلوٰۃ معادہ کا علم ہے ان کی نماز بھی

مسبوق کی طرح نہ ہوگی اور جن نو وارد لوگوں کو صلوٰۃ معادۃ کا علم نہیں اور اصل نماز سمجھ کر شرکت کی ہے تو ان لوگوں کی نماز درست ہو جائے گی، یہ متضاد روایات کے درمیان تطبیق کی صورت ہے، جن کو اہل فتاویٰ نے اختیار کیا ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ، زکریا ۳۵۲/۳، امداد الفتاویٰ، زکریا ۵۴۶/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۲۴۰)

ترک واجب کی بنا پر صلوٰۃ معادۃ کی اقتداء

سوال [۲۸۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے درمیان کوئی ایسی خرابی آگئی مثلاً قعدہ اولیٰ کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہونہیں کیا جس کی بنا پر نماز لوٹانی پڑ رہی ہے، اب آئی یہ بات کہ نماز جو پڑھائی جا رہی ہے بعد میں آنے الا شخص نماز میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے تو کیوں اور اگر شریک نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں؟

المستفتی: انیس الرحمن، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ترک واجب کی وجہ سے جو نماز لوٹائی جا رہی ہے وہ چونکہ مستقل فریضہ نہیں ہے؛ بلکہ پہلی نماز کی تکمیل کے لئے ہے؛ لہذا ایسی صورت میں آنے والے آدمی کو اگر یہ معلوم تھا کہ یہ لوٹائی جانے والی نماز ہے، پھر وہ اس میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی اعادہ لازم ہوگا اور اگر آنے والے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوٹائی جانے والی نماز ہے اور وہ آکر اس میں شریک ہو گیا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اعادہ لازم نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۰۸/۸، جدید زکریا ۱۴۹/۴)

ویؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض، لأن ما فعل أولاً هو الفرض فإعادته فعله ثانياً أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانياً جبر نقصان الأولى، فالأولى فرض ناقص، والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع زيادة وصف الكمال، ولو كانت الثانية نفلاً لزم أن تجب القرأة في ركعاتها الأربع، وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكره ولا يلزم من كونها فرضاً عدم سقوط الفرض بالأولى، لأن المراد أنها تكون فرضاً بعد الوقوع. (شامی، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت مطلب في تعريف الإعادة،

کراچی ۶۵۱، زکریا ۵۲۲/۲، تقریرات رافعی ۵۷/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۶/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۶۹۵/۳۶)

صلوة المعادة میں نئے شریک ہونے والے مقتدیوں کی نماز کا حکم

سوال [۲۸۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجدہ سہونہ کرنے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران پیچھے سے آکر کوئی شخص جماعت میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالقادر، دیوبندی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سجدہ سہونہ کرنے کی وجہ سے جب نماز کا باجماعت اعادہ کیا جا رہا ہو تو اس درمیان نوار دلگوں کی دو قسمیں ہیں:

نمبر ۱: وہ لوگ جنہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کا سجدہ سہونہ کے ترک

کی وجہ سے اعادہ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے لئے اصل فرض نماز کی نیت کے ساتھ اس جماعت میں شریک ہونا درست نہیں، اس سے ان کا فرض ادا نہ ہوگا۔

والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لا يتكرر. (حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح، كتاب

الصلاة، فصل في بيان واجب الصلاة، دار الكتاب ديوبند ۲۰۴۸، قديم ۱۳۴)

فلو أتم المقيمون صلاتهم معهم فسدت، لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل. (شامی، کتاب الصلاة، باب صلوة المسافر، زکریا ۶۱۲/۲، کراچی ۱۳۰/۲)

نمبر ۲: وہ لوگ جن کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ ایسی نماز ہے جس کا اعادہ کیا جا رہا ہے؛ بلکہ وہ لوگ اصل فرض نماز سمجھ کر جماعت میں شریک ہوں تو ایسے لوگوں کی نماز درست ہوگئی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ، زکریا ۴۴۱/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۳/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۴۹/۳۸)



(۱۸) باب الحدث في الصلاة

دوران نماز حدث کا لاحق ہونا

سوال [۲۸۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جس نماز میں فساد پیش آجائے تو اس کو مکمل ادا کرنے کے بعد دوبارہ اعادہ کریں گے یا درمیان ہی میں نیت توڑ کر نماز کا اعادہ کریں گے؟

المستفتی: اسلام الدین، مدناپور، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نماز میں جب فساد واقع ہو جائے مثلاً درمیان میں رتخ کا خروج ہو جائے تو اس کے بعد نماز کو آگے جاری رکھنا جائز نہیں؛ اس لئے کہ بغیر وضو و طہارت کے نماز کا کوئی رکن ادا کرنا جائز نہیں؛ لہذا فوری طور پر وضو کا حکم ہے، اسی طرح اگر درمیان میں دنیاوی گفتگو کر کے نماز توڑ دی ہے تو وضو تو باقی ہے، مگر نماز کو از سر نو شروع کرنا لازم ہے۔

من سبقه حدث سماوي من بدنه موجب للوضوء في الصلاة انصرف من فوره وتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه وبنى على صلاته عندنا، إن لم يعرض له ما ينافيها. (حلي كبير، كتاب الصلاة، تذييل في الحدث في الصلاة، اشرفية ۴۵۲)

ولو أدى شيئاً من الصلاة مع الحدث الذي سبقه فسدت صلاته.

(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس عشر في الحدث في الصلاة،

عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسأحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليتوضأ وليعد الصلاة. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب من يحدث في الصلاة، النسخة الهندية ۱/۲۷، دارالسلام، رقم: ۲۰۵، سنن الدار قطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۱۶۰، رقم: ۵۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۷/۱۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸/رجب المرجب ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۵۶/۳۹)

جمعہ کی نماز کے دوران حدث کا لاحق ہونا

سوال [۲۸۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید جمعہ کی نماز میں شامل ہے جماعت کی نماز ادا کر رہا ہے کہ دوسری رکعت میں اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے رکوع کی حالت میں زید اگلی صف میں ہے اس کے پیچھے ۱۱ یا ۱۲ صفیں اور بھی ہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہے اس صورت میں کیا زید امام کی اتباع کرے یا بیٹھ جائے نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد یحییٰ ۹-۳-۳۰ محلہ بغیا بازار دیوان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسے شخص کے لئے من جانب شریعت صفوں کو چیرتے ہوئے وضو کے لئے باہر جانے کی اجازت ہے بحالت حدث امام کی اتباع یا وہیں بیٹھ جانا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم زکریا ۳/۴۰۳)

ومن شرط جواز البناء أن ينصرف من ساعته حتى لو أدى ركنا مع الحدث، أو مكث مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلواته (تبيين الحقائق قديم، كتاب الصلاة، باب الإمام والحدث في الصلاة، زكريا ۱/۳۷۰، قديم ۱۴۵۱)

من سبقه حدث سماوي من بدنه موجب للوضوء في الصلاة انصرف من فوره وتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه وبنى على صلاته عندنا، إن لم يعرض له ما ينافيها. (حلي كبير، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، اشرفية ٤٥٢)

عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فساأحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليتوضأ وليعد الصلاة. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من يحدث في الصلاة، النسخة الهندية ٢٧/١، دارالسلام، رقم: ٢٠٥، سنن الدار قطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، دارالكتب العلمية بيروت ١/١٦٠، رقم: ٥٥٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ٨ شعبان المعظم ١٤١٢ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ٢٦/١٩١٣)

پہلی صف میں موجود مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے تو کیا کرے؟

سوال [٢٨٨٣]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک صاحب کو بحالت نماز جمعہ حدث لاحق ہو جاتا ہے اور محدث پہلی صف میں موجود ہے باہر آنا بہت مشکل ہے تو وہ بغیر تسبیح و تحلیل کے نماز میں شریک رہ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر صف کے اوپر چٹائی موجود نہیں فرش پر گرد پڑی ہوتی ہے، تو کیا وہ تیمم کر کے اسی پر بناء کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر منفرد کو حدث لاحق ہو جائے تو وہ کسی سے بات چیت کئے بغیر مسجد کی حدود میں رہ کر وضو کر کے بناء کر سکتا ہے یا نہیں؟ محدث کے پاؤں مسجد کی حدود میں ہوں اور وہ ہاتھڑھا کر پانی لیتا ہے تو وہ مسجد سے خارج ہے یا نہیں؟ جناب والا سے التجاء ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی اصلاح صلوٰۃ کے لئے نمازیوں کے آگے سے گذر کر وضو کے لئے جانا درست ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۴۱۲، ۳/۲۹۷)

منفرد محدث کو نماز از سر نو پڑھنی چاہئے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔

ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف وتوضأ وبنى والاستئناف أفضل والمنفرد إن شاء أتم صلوته في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه. (هدایة، کتاب الصلاة، باب الإمام والحدث في الصلاة، اشرفی ۱/۱۲۸)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء، أو عاف، أو قلنس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليين على صلاته وهو ذلك لا يتكلم. (ابن ماجه، إقامة الصلاة، والسنة، باب ماجاء في البناء على الصلاة، النسخة الهندية ۸۵، دارالفکر رقم: ۱۲۲۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ رجب المرجب ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۷/۲۲

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۱/۳۳۰)

حدث لاحق ہونے کی وجہ سے نمازیوں کے سامنے سے گذرنا

سوال [۲۸۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر نماز میں حدث لاحق ہو جائے اور جمع کافی ہو تو مقتدی نمازیوں کے سامنے سے گذرتا ہوا نکلے یا صفوں کو چیرتا ہوا نکلے؟

المستفتی: محمد یعقوب غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نمازی کے سامنے سے غیر نمازی کا گذرنا منع

ہے، نمازی کا گذرنا منع نہیں ہے اور جس کو حدث لاحق ہوتا ہے وہ داخل صلوٰۃ ہوتا ہے، اس کا نمازیوں کے سامنے سے گذرنا منع نہیں ہے؛ اس لئے صفوں کو چیرتے ہوئے نکلنے سے سامنے سے گذرتے ہوئے نکلنا بہتر ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۲۹۷)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء، أو عاف، أو قلنس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو ذلك لا يتكلم. (ابن ماجه، إقامة الصلاة، والسنة، باب ماجاء في البناء على الصلاة، النسخة الهندية ۸۵، دارالفكر رقم: ۱۲۲۱)

عن يزيد بن عبد الله قسيط الليثي: أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما قد صلى. (الموطأ للإمام مالك، كتاب الطهارة، ۱۰ باب ماجاء في الرعاف ۶۰، رقم: ۴۶-۴۷-۴۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۶/۱/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۲۸۱)

حدث لاحق ہونے پر مقتدی کو امام بنانا اور اس کا اپنی جگہ پر نماز پوری کرنا

سوال [۲۸۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دوران نماز قعدہ میں امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، نماز پوری کرنے کے لئے جس شخص کو پیچھے سے امام نے آگے کرنے کی کوشش کی تھی، وہ آگے نہیں آیا؛ بلکہ پہلی صف کے مقتدیوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور سلام پھیر دیا، دوسرے مقتدیوں نے بھی اسے امام مان کر سلام پھیر دیا، تو یہ عمل درست تھا، امام نماز کس طرح پوری کرے گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دوران نماز امام صاحب نے حدث لاحق ہونے کی بناء پر جب دوسرے شخص کو امام بنایا اور اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہی امام بن کر سلام پھیر دیا اور دیگر مقتدیوں نے بھی اسے امام مان کر سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں سب کی نماز درست ہوگئی اور امام اول وضو سے اگر امام ثانی کے سلام پھیرنے سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے، تو وہ اس امام کی اقتداء کرے گا ورنہ مابقیہ نماز منفرد کی طرح پوری کرے گا۔

إمام أحدث فقدم رجلاً من آخر الصفوف، ثم خرج من المسجد فإن نوى الثاني أن يكون إماماً من ساعته ونوى أن يؤمهم في ذلك المكان جازت صلاة الخلفية وصلاة الإمام الأول ومن كان على يمين الخليفة، وعلى يساره في صفه ومن كان خلفه..... والأول يتوضأ ويبني على صلاته. (تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر في الاستخلاف، زكريا ديوبند ۳۷۵/۲، رقم: ۲۷۱۷، قاضيخاں علی ہامش الهندية، باب افتتاح الصلاة، فصل في الاستخلاف زكريا ۱۱۵/۱)

لو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدرّكاً يسلم بهم..... والإمام كالمنفرد إن فرغ إمامه والاعاده ويتم خلف خليفته. (هندية، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف زكريا ۱/۹۵، زكريا جديد ۱/۱۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۴/۱۱ھ

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۴۸۶)



(۱۹) باب سجود السہو

کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہے

سوال [۲۸۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قاری بھی سوچتا رہا کہاں سے پڑھوں اور سامع بھی سوچتا رہا کہ کہاں سے بتاؤں دونوں ہی بھول گئے، اس کو سوچنے میں ایک رکن کے بقدر تاخیر ہوگئی تو کیا سجدہ سہو واجب ہے؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی، سیڈھا بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر قاری اور سامع کے سوچنے میں ایک رکن یعنی تین مرتبہ سبحان ربی الأعلیٰ یا تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر تاخیر ہوگئی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۲۸۹/۲، بہشتی زیور ۲/۳۷)

إن طال تفكره..... قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو لتأخيره واجب القيام، وفي حاشية الطحاوي: ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسيحات. (حاشية الطحاوي، كتاب الصلاة، قبيل فصل في الشك، دار الكتاب ديوبند ۴۷۴)

فعند الإمام طويله ما يمكن فيه أداء ركن ولو بلا سنة وهو مقدار "سبحان الله" مرة..... وعند الشافعي أي أبي يوسف ما يسع أداء ركن بسنته وهو قدر الثلاثة تسيحات وهو المختار. (اعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب حكم الشك في

عدد رکعات الصلاة، بیروت ۱۸۳/۷، کراچی ۱۶۳/۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۰/ ذی قعدہ ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۰۲/۱۱)

تیسری رکعت پر تین تسبیح پڑھنے سے کم مقدار بیٹھنا

سوال [۲۸۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک امام نے ظہر پڑھائی اور قعدہ کرنے کا ارادہ کیا اس حال میں کہ امام کو بھی شک تھا کہ شاید تین رکعت ہوئی ہیں؛ چنانچہ وہ ابھی انگلیوں کے بل بیٹھا ہی تھا کہ ایک مقتدی نے لقمہ دیا امام نے کھڑے ہو کر نماز پوری کی اور سجدہ سہو نہیں کیا، اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں؟

(۲) اگر امام تین رکعت پر بیٹھ گیا اور ابھی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بقدر بھی نہیں بیٹھا تھا کہ مقتدی نے لقمہ دیا امام نے کھڑے ہو کر نماز پوری کی اور سجدہ سہو نہیں کیا اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں؟

المسئفتی: نسیم احمد، نئی لہتی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہوگی اور سجدہ سہو دونوں صورتوں میں واجب نہیں ہے؛ اس لئے کہ سجدہ سہو واجب ہونے کے لئے تین تسبیح کے بقدر یا اس سے زیادہ تاخیر ہونا ضروری ہے اور اس سے کم تاخیر کی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔
 وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى، أو الثالثة فيجب تركها ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية، أو الرابعة عن محله وهذا إذا كانت القعدة طويلة أما الجلسة الخفيفة التي استحبابها الشا فعي فتركها غير

واجب عندنا الخ . (شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، زكريا ۲/۱۶۴، کراچی ۱/۶۹، مصري ۱/۴۳۸)

إذا شغله التفكير عن أداء واجب بقدر ركن -يجب السهو والإفلا، كذا في الشرح.....وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنة وهو مقدر بثلاث تسبيحات. (طحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، جديد دارالكتاب ديوبند ۴۷۴، قديم ۲۵۸)

أو قدر ركن قصير كالركوع، أو السجود بسنته: أي قدر ثلاث تسبيحات وبالثنائي جزم البرهان إبراهيم الحلبي في شرح المنية حيث قال: وذلك مقدار ثلاث تسبيحات. (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زكريا ديوبند ۱/۴۷۴، كوئنه ۱/۲۷۲) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲/رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۸۰/۲۷)

عصر کی تیسری رکعت میں دو تسبیح کے بقدر بیٹھ گیا

سوال [۲۸۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید عصر کی نماز پڑھا رہا تھا، چار رکعت سمجھ کر کوہ بھولے سے تیسری رکعت پر بیٹھ گیا، فوراً القمہ ملا اور کھڑا ہو گیا، اب اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں نماز کو دہرانا صحیح ہے یا نہیں؟ قیام میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، خواہ دو تسبیح کے بقدر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اس مسئلہ میں مستند قول بیان کریں۔

المستفتی: حافظ طاہر حسین اصالت پورہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر تیسری رکعت میں ایک رکن یعنی تین تسبیح

سے کم مقدار بیٹھا ہے تو سجدہ سہولازم نہ ہوگا، بغیر سجدہ سہو کے نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر تین تسبیح یا اس سے زائد مقدار بیٹھا ہے تو پھر سجدہ سہولازم ہوگا۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۲۹۰/۲، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۴۱۴)

إذا شغله التفكير عن أداء واجب بقدر ركن..... يجب السهو وإفلا، كذا في الشرح..... وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنة وهو مقدر بثلاث تسبيحات. (طحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، جديد دارالكتاب ديوبند ۴۷۴، قديم ۲۵۸)

أو قدر ركن قصير كالركوع، أو السجود بسنة: أي قدر تسبيحات وبالثنائي جزم البرهان إبراهيم الحلبي في شرح المنية حيث قال: وذلك مقدار ثلاث تسبيحات. (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زكريا ديوبند ۱/۴۷۴، كوئٹہ ۱/۲۷۲)

تأخير القيام إلى الثالثة، أو الرابعة عن محله، وهذا إذا كانت القعدة طويلة أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، زكريا ۲/۱۶۴، كراچی ۱/۴۶۹، مصري ۱/۴۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۴۱)

محض گمان پر سجدہ سہو کرنا

سوال [۲۸۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور مصلیٰ نے نماز کی حالت میں اپنے اوپر

سجدہ سہو کو واجب سمجھا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا خارج نماز شرح صدر کے ساتھ اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ مجھ پر سجدہ سہو نہیں تھا تو کیا اس صورت میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟
اسی طرح اگر کسی نے نماز میں درود شریف یا دعاء ماثورہ کو دوبارہ پڑھ دیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟

المستفتی: سید احسان احمد قاسمی، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مصلیٰ پر جب سجدہ سہو واجب نہ تھا محض گمان کی بنا پر سجدہ سہو کر لیا پھر بعد میں عدم وجوب کا یقین ہو گیا تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے نماز ہوگئی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۱۶/۲۱۲)

ولو ظن الإمام السهو فسجد له فتابعه، فبان أن لاسهو فالأشبه الفساد (درمختار) وفي الشامية قال وفي الفيض وقيل لا تفسد وبه يفتى. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة قبيل، باب الاستخلاف، زكريا ۲/۳۵۰، كراچي ۱/۵۹۹)

ولو ظن الإمام أن عليه سهواً، فسجد للسهو فتابعه المسبوق فيه، ثم علم أنه لم يكن عليه سهو فأشهر الروايتين أن صلاة المسبوق تفسد-إلى- قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد هكذا في الظهيرية. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق ۱/۹۲، جديد ۱/۱۵۰)

اسی طرح اگر نماز میں درود شریف یا دعاء ماثورہ کو دوبارہ پڑھ دیا تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا؛ اس لئے کہ درود شریف اور دعا کا پڑھنا سنت ہے اور سجدہ سہو کا وجوب ترک واجب، تکرار واجب اور تاخیر رکن وغیرہ سے ہوتا ہے سنت کے تکرار سے نہیں ہوتا ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۲۹۴/۲۹۴)

كرر التشهد في القعدة الأخيرة فلاسهو عليه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۲/۱۷۲، ۱۷۳، كوئٹہ ۲/۹۷ ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو ۱/۱۲۷، جديد زكريا ۱/۱۸۶)

يجب بترك واجب الخ (در مختار) وفي الشامية واحتراز بالواجب
عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما . (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو،

مصري ۱/۶۹۳، شامي زكريا ۲/۵۴۳، كراچي ۲/۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۶/۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۸۷/۳۵)

سورہ فاتحہ کی دو تین آیات پڑھ کر دوبارہ مکمل پڑھنا

سوال [۲۸۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ کیا سورہ فاتحہ کی دو تین آیات پڑھنے کے بعد اگر پھر سے سورہ فاتحہ شروع سے پڑھی جائے تو سجدہ سہو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ازراہ کرم مع حوالہ جواب سے جلد از جلد مطلع فرمائیں۔

المستفتی: عبدالوحید، مکان نمبر ۱۴، نیاریان، امر وہہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں ان میں سے

اگر تین یا اس سے کم آیتیں پڑھ کر پھر شروع سے پڑھی جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے اور اگر چار آیتیں یا اس سے زائد پڑھی جائے اور پھر شروع سے پڑھی جائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا؛ لہذا صورت مسئلہ میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔

ولو قرأ الفاتحة إلا حرفاً، أو قرأ أكثرها، ثم أعادها ساهايا فهو بمنزلة

ما لو قرأها مرتين . (عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۶، جدید زكريا ۱/۱۸۶، الفتاویٰ التارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل السابع

عشر في سجود السهو، زكريا ۲/۳۹۲، رقم: ۲۷۶۳)

ولو كرر الفاتحة أو بعضها في إحدى الأوليين قبل السورة سجد للسهو .
 (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب سجود السهو، دار لکتاب دیوبند جدید ۴۶۰)
 وقرأة أكثر الفاتحة ثم إعادتها كقراءتها مرتين . (البحر الرائق،
 كتاب الصلاة، باب سجود السهو، کوئٹہ ۹۴/۲، زکریا ۱۶۷/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ
 (الفنوی نمبر ۲۲۰۵/۲۶)
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۱/۵/۱۴۱۱ھ

کیا تشہد کے کسی جزو کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہے؟

سوال [۲۸۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جس طرح نماز میں سورۃ فاتحہ کے کسی جزو کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہے؟ کیا اسی طرح تشہد کے کسی جزو کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی، سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صحیح قول کے مطابق نماز میں سورہ فاتحہ کے محض کسی جزو کے تکرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا؛ بلکہ اکثر حصے کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یہی بات تشہد کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ اگر اس کا اکثر حصہ دوبارہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا اور اگر اکثر حصے کا تکرار نہیں ہوا؛ بلکہ صرف کسی جزو کا تکرار ہوا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔

ولو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير
 الواجب الخ، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها. (شامی، كتاب الصلاة، باب صفة
 الصلاة، زکریا ۱۵۲/۲، کراچی ۴۶۰/۱)

و قراءۃ أكثر الفاتحة ثم إعادتها كقراءتها مرتين. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، کوئٹہ ۲/۹۴)

ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعلية السهو. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو ۱/۱۲۷، جديد زكريا ۱/۱۸۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۵۰/۴۰)

سورہ فاتحہ کو ”اهدنا الصراط“ تک پڑھنے کے بعد دوبارہ از سر نو پڑھنا

سوال [۲۸۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سورۃ فاتحہ کو ”اهدنا الصراط“ تک پڑھنے کے بعد بھول گیا اس کے بعد پھر دوبارہ شروع سے لوٹا لیا تو اس صورت میں سجدہ سہولاً لازم ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: محمد سلیمان غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سجدہ سہو واجب ہوگا؛ چونکہ ”اهدنا الصراط“ تک سورۃ فاتحہ کا اکثر حصہ ہے اور سورۃ فاتحہ کے اکثر حصہ کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔

فلو قرأها في ركعة من الأولين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها، ثم أعادها. (شامی، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۲/۱۵۲، كراچی ۱/۴۶۰)

و قراءۃ أكثر الفاتحة، ثم إعادتها كقراءتها مرتين. (البحر الرائق، كتاب الصلاة،

باب سجود السهو، کوئٹہ ۲/۹۴، زكريا ۲/۱۶۷)

ولو قرأ الفاتحة إلا حرفاً، أو قرأ أكثرها، ثم أعادها ساهياً، فهو بمنزلة ما لو قرأها مرتين. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱۲۶/۱، جديد ۱۸۶/۱، الموسوعة الفقهية لكويتية ۷۶/۲۷، حانية على هامش لهندية، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، قديم ۱۲۲/۱، جديد زكريا ۷۷/۱، كذا في التاتار حانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، زكريا ۳۹۲/۲، رقم: ۲۷۶۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
بارزی قعدہ ۱۴۳۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۰۴/۴۰)

ثناء کے بعد سورہ فاتحہ کے بجائے التحیات پڑھنا

سوال [۲۸۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ثناء کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے التحیات پڑھ لی پھر یاد آنے پر سورہ فاتحہ پڑھ لی اور ضم سورہ کر لیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ثناء کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے التحیات پڑھ لی پھر یاد آنے پر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ (مستفاد: محمودیہ ڈائجیل ۴۱۰/۷، محمودیہ میرٹھ ۲۸۵/۱۱)

ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه. (هندية، كتاب الصلاة، زكريا ۱۲۷/۱)

وإن افتتح الصلاة فقرأ التشهد في قيامه قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة عامداً، أو ساهياً لا سهو عليه. (حانية على هامش الهندية، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۱۲۲/۱، جديد ۷۷/۱)

لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود وقبلها لا . (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۱۷۲/۲، البحر الرائق كوئنه ۹۷/۲)

ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه، وبعدها يلزمه- لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة- وقبلها محل الشاء- هذا يقتضى تخصيصه بالركعة الأولى . (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۱/۴۷، مكتبه امداديه ملتان ۱۹۳/۱)

لو بدأ بالتشهد، ثم بالقراءة، فلا سهو عليه . (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، المجلس العلمي جديد ۳۱۳/۲، رقم: ۱۸۶۳، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل: ۱۷، سجود السهو، زكريا ۳۹۷/۲، رقم: ۲۷۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ رذی قعدہ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۲۳/۴۰)

پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل تشهد پڑھنا

سوال [۲۸۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فرض، سنت، وتر اور نفل میں سے کسی بھی نماز کی پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے ہی بھول سے التحیات پڑھ دی پھر ثناء تعوذ تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی تو کیا شروع میں تشهد پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟

المستفتی: شمیم احمد سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کسی بھی نماز میں نیت باندھنے کے بعد ثناء تعوذ

سے پہلے بھول سے التحیات پڑھ لی ہے، تو اس سے سجدہ سہولازم نہیں ہے؛ اس لئے کہ التحیات بھی ثناء کی طرح دعا ہے۔

فی شرح النقاية: وذكر الناطفي في أجناسه عن محمد أنه لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة لا يسجد؛ لأنه بمنزلة الثناء وبعدها يسجد وهو الأصح. (شرح نقايه، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، اعزازه ديوبند، ۱/۱۱۲)

وعن محمد: لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة، فلا سهو عليه، وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح. (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، مكتبة امداديه ملتان ۱/۹۳، زكريا ۱/۴۷۴، البناء، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفية ۲/۶۱۱، مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، مصري قديم ۱/۱۴۹، دارالكتب العلمية بيروت جديد ۱/۲۲۱، هندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۲/۸ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ صفر المظفر ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۳۵/۳۸)

ثناء سے قبل تشهد پڑھنے کے سلسلے میں احسن الفتاویٰ میں تسامح

سوال [۲۸۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز میں بحالت قیام پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے تشهد پڑھ لینے سے ندائے شاہی میں لکھا ہے کہ سجدہ سہو واجب نہیں؛ جبکہ احسن الفتاویٰ میں سجدہ سہو کے وجوب کو لکھا ہے، اس تضاد کی وضاحت مطلوب ہے؟

المستفتی: محمد عرفان، حیدرآبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ندائے شاہی میں جو مسئلہ لکھا ہے کہ حالت قیام

میں سورہ فاتحہ سے پہلے تشهد پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا یہی مسئلہ صحیح ہے، صاحب احسن الفتاویٰ نے اپنی عادت کے خلاف قیاس کر کے ایسی صورت میں وجوب سجدہ سہو کو لکھا ہے، اس کے ذیل میں کوئی جزئیہ بھی نقل نہیں فرمایا ہے؛ لہذا صاحب احسن الفتاویٰ کا لکھا ہوا جواب ان کا اپنا قیاس ہے جو فقہاء کی صراحت کے خلاف ہے۔

ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة، فلا سهو عليه. (هندية، كتاب

الصلاة، الباب السابع عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۷، جديد زكريا ۱/۱۸۶)

ولو قرأه في القيام إن كان قبل الفاتحة لاسهو، أو بعدها فعليه؛ لأن ما

قبلها محل الشاء، وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الأولى. (فتح القدير، كتاب

الصلاة، باب سجود السهو كوئنه ۱/۴۳۹، زكريا ۱/۵۲۱، مصري قديم ۱/۵۰۴)

وعن محمد: لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة، فلا سهو عليه،

وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح. (البنائيه، كتاب الصلاة، باب سجود

السهو، اشرفية ۲/۶۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۱۰/۲۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ شوال المکرم ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۹۴/۳۹)

نفل نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار موجب سجدہ سہو نہیں

سوال [۲۸۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ نفل نماز میں تکرار فاتحہ سے کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟

المستفتی: عبدالرشید، سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سنن و نوافل اور تراویح میں سورہ فاتحہ یا اس

کے کسی جزو کے تکرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔

جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أصبح بآية، والآية إن تعذبهم، فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. (سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب ترديد الآية، النسخة الهندية ۶۱/۱، دار السلام رقم: ۱۰۱۱)

وينبغي أن يقيد ذلك بالفرائض؛ لأن تكرار الفاتحة في النوافل لم يكره كما في القهستاني. (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دار الكتب العلمية بيروت ۲۲۰/۱)

وإذا كرر آية واحدة مراراً، فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده فذلك غير مكروه. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، ومالايكوه، زكريا ۱۰۷/۱، جديد ۱۶۶/۱)

وإذا كرر آية واحدة مراراً، فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده، فذلك غير مكروه، فقد ثبت عندنا عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب، أو آية الرحمة، أو آية الرجاء، أو آية الخوف. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض، المجلس العلمي جديد ۴۹/۲، رقم: ۱۲۰۸) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۵/۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۲۱/۴۰)

سورۃ فاتحہ کے بعد التحیات پڑھنے کا حکم

سوال [۲۸۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ کے بجائے التحیات پڑھ لی اور یاد

آنے پر ضم سورۃ کر لیا اب سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شخص مذکور نے جب سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ

کے بجائے التحیات پڑھ لی اور یاد آنے پر ضم سورۃ کر لیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو گیا؛ اس لئے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد بلا تاخیر ضم سورۃ کرنا واجب ہے اور تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؛ لہذا ایسی صورت میں اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا اعادہ لازم ہے، اگر سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز درست ہو گئی۔

و ذکر الناطفی فی الأجناس عن محمد لو تشهد فی قیامہ قبل قراءۃ

الفاتحۃ فلا سہو علیہ، وبعدها یلزم. (حلبی کبیر، کتاب الصلاة، فصل فی سجود

السہو، اشرفیۃ ۴۶۰)

قبل قراءۃ الفاتحۃ فلا سہو علیہ، وبعدها یلزمہ سجود السہو وهو

الأصح؛ لأن بعد الفاتحۃ محل قراءۃ السورۃ، فإذا تشهد فیہ فقد أحر

الواجب. (ہندیۃ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، زکریا ۱/۲۷،

جدید زکریا ۱/۱۸۶، مجمع الأنہر بیروت، کتاب الصلاة، باب سجود السہو

۱/۲۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۴۰/۴۱)

سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ کے بجائے التحیات پڑھ لی

سوال [۲۸۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ کرنا تھا تو بجائے ضم سورۃ کے التحیات پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد سلیمان، غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ کے بجائے التحیات

پڑھ لی، تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ۵۹/۷، فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۴۱۰/۷، میرٹھ ۲۸۵/۱۱)

لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود. (البحر الرائق، كتاب الصلاة،

باب سجود السهو، زكريا ۱۷۲/۲، البحر الرائق كوئٹہ ۹۷/۲)

ولو تشهد في قيامه..... وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح، لأن

بعد الفاتحة محل قراءة السورة، فإذا تشهد فيه فقد أجزأ الواجب. (هندية،

كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱۲۷/۱، جديد زكريا ديوبند ۱۸۶/۱)

ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه، وبعدها يلزمه،

سجود السهو وهو الأصح، لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة، فإذا

تشهد فيه فقد أجزأ الواجب. (تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو،

زكريا ۱/۴۷۴، مكتبه امداديه ملتان ۱/۹۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ رذی قعدہ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۲۲/۴۰)

سجدہ سہو کی وجہ سے التحیات تین مرتبہ پڑھنا

سوال [۲۸۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مغرب کی نماز میں امام صاحب آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، مقتدیوں نے اللہ اکبر کہا امام صاحب بیٹھ گئے التحیات پڑھی سجدہ سہو کیا نماز پوری کی اس طرح آخری رکعت میں تین مرتبہ التحیات پڑھی، ایسی حالت میں نماز درست ہوگئی؟ یا دوبارہ پڑھی جائے شرعی حکم سے آگاہ کیا جائے۔

المستفتی: عبدالقدیر، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس طرح آخری رکعت میں تین مرتبہ التحیات ہونے کی وجہ نماز فاسد نہیں ہوئی سجدہ سہو سے کمی کی تلافی ہو کر نماز بلا کراہت صحیح اور درست ہو چکی ہے۔

عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقليل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم. (صحيح البخاري، كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا ۱/۱۶۳، رقم: ۱۲۱۲، ف: ۱۲۲۶)

ولو قعد في الرابعة، ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم وفي هامشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قام إلى الخامسة فسبح من خلفه فعاد وسلم وسجد سجدة السهو الخ (هداية، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفي ۲/۱۵۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ شوال المکرم ۱۴۱۴ھ

۱۶/۱۰/۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۶۳۲)

وتر کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کا حکم

سوال [۲۹۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ وتر کی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعاء پڑھ لی، پھر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد نکیل، ماہپور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وتر کی دوسری رکعت میں التحیات کے ساتھ درود

شریف بھی پڑھ لی تو قیام میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۹۳/۴، فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۴۲۲/۷، میرٹھ ۱۱/۱۱۱)

عن الشعبي، قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدة السهو. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب قدر كم يقعد في الركعتين الأوليين، مؤسسه علوم القرآن جديد ۴۷/۳، رقم: ۳۰۳۹)

والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئاً في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. (سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، النسخة الهندية ۸۵/۱، تحت دار السلام رقم: ۳۶۶)

ولا يزيد في الفرض على التشهد في القعدة الأولى إجماعاً، فإن زاد عاماً كره فتجب الإعادة، أو ساهياً وجب عليه سجود السهو، إذا قال: اللهم صلى على محمد فقط على المذهب المفتى به تحته في الشامية، قوله: في الفرض: أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۲۲۰/۲، كراچی ۵۱۱/۱)

ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو، وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه الفتوى. (هندية،

کتاب الصلاة، باب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۲۷، جديد زكريا ۱/۱۸۶، تاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، زكريا ۲/۴۰۰، رقم: ۲۷۹۳، غنية المستملی، كتاب الصلاة، فصل في سجود السهو، مكتبة الاشرفية ديوبند ۶۰ (۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ جمادی الاخریٰ ۱۳۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۵۲/۴۰)

سجدہ سہو کے بعد التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دی

سوال [۲۹۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے نماز ادا کر لی اور سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کے بعد بجائے التحیات کے درود شریف یا سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیا التحیات نہیں پڑھی، تو نماز ہوگئی یا نہیں؟
المستفتی: الحاج ڈاکٹر شمس القمر ولد عبد الواحد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں نماز کا فریضہ ادا ہو چکا ہے، مگر ترک واجب کی وجہ سے اعادہ لازم ہے، ورنہ نماز ناقص ہوگی۔ (مستفاد: فتاویٰ مظاہر العلوم ۴۰/۱)

عن عمران بن حصینؓ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسلم، النخسة الهندية ۱۴۹م، دار السلام رقم: ۱۰۳۹، سنن الترمذی، كتاب الصلاة، باب ماجاء في التشهد في سجدتي السهو، النسخة الهندية ۹۰/۱۷، دار السلام رقم: ۳۹۵، صحيح ابن خزيمة المکتب الإسلامي ۱/۱۲۷، رقم: ۱۰۶۳، ومثله في المعجم الكبير للطبراني ۲۸/۱۰، رقم: ۹۸۳۷)

و يجب بعد سلام واحد عن يمينه.....سجدتان ويجب أيضاً تشهد وسلام وتحتة في الشامية حتى لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السهو صحت صلاته ويكون تاركاً للواجب الخ. (شامي مع الدر، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، كراچی ۸۷/۲، زکریا دیوبند ۵۴۱/۲)

وعلى هذا لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السهو يكون تاركاً للواجب ولا يفسد. (حاشية جلیبی علی تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، مکتبہ امدادیہ ملتان ۱/۱۹۱، زکریا ۱/۴۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ رثوال المکرم ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۳۱/۳۳)

نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا

سوال [۲۹۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک امام صاحب نے نماز میں سورہ ”آلہ سجدة“ تلاوت کی اور آیت سجدہ پر نماز ہی کی حالت میں سجدہ کر لیا اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو اس کو آیت سجدہ سے آگے پڑھنا چاہتے تھے اور اس نے سورہ فاتحہ کو یہ سمجھ کر پڑھ لیا کہ یہ رکعت ثانیہ ہے اور پھر قرأت کی اور آخر نماز میں سجدہ سہو نہیں کیا، تو یہ نماز واجب الا عاہدہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں ہے مدلل و مفصل جواب قلمبند کیجئے۔ بندہ نے ایک عالم سے پوچھا تو انہوں نے نماز لوٹانے کو کہا، دوسرے عالم سے دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ نماز ہوگئی، فریقین کے دلائل یہ ہیں:

فریق اول: جو قائل ہے کہ نماز واجب الا عاہدہ ہے مذکورہ صورت میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو کمر پڑھنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے اور سجدہ سہو نہ کرنے پر نماز واجب الا عاہدہ ہے۔

(تعلیم الاسلام ۴۱/۴)

فریق ثانی: جو قائل ہے کہ نماز ہوگئی، مذکورہ صورت میں دلیل یہ پیش کرتا ہے:

”ولو کررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو أعادها بعد السورة، أو كررها في الأخيرين الخ كذا في التبیین“۔ (عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۶۵، جدید زکریا ۱/۱۸۵، مسائل سجدہ سہو ۴۱)

مہربانی فرما کر شریعت کی روشنی میں فیصلہ فرمادیں کرم ہوگا۔

المستفتی: حبیب احمد، موضع گنگوار، حسن پور بے پی ٹر
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تکرار فاتحہ کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہونے کی شرط، سورۃ میں تاخیر ہونا ہے اور اگر فاتحہ پڑھ کر سورۃ کے بعد فاتحہ کا اعادہ کیا جائے تو یہ تکرار نہیں ہے؛ بلکہ اعادہ ہے اس سے اتنی بات لازم آتی ہے کہ ایک سورت پڑھ کر فوراً رکوع نہیں کیا جو کہ واجب نہیں ہے؛ اس لئے کہ ایک سورت کے بعد اعادہ فاتحہ سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا یہی صحیح بھی ہے۔ عالمگیری میں تبیین کی عبارت میں ہے بخلاف ما لو أعادها الخ سے پہلے بیچ کی عبارت نقل نہیں کی گئی ہے، پوری عبارت یوں ہے:

ولو کررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو؛ لأنه آخر واجباً وهو السورة بخلاف ما لو أعادها بعد السورة الخ (تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۱/۴۷۳، مکتبہ امدادیہ ملتان ۱/۹۳)

نیز صاحب بحر اور شامی نے علامہ زاہدی کے حوالہ سے اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔

ولو قرأ الفاتحة مرتين يجب عليه السجود سهو لتأخير السورة، كذا في الذخيرة وغيرها وذكر قاضي خان وجماعة أنها إن قرأها مرتين على الولاة وجب السجود، وإن فصل بينهما بالسورة لا يجب الخ (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۲/۱۶۶، کراچی ۲/۹۴)

ولو قرأ الفاتحة، ثم السورة، ثم الفاتحة لاسهو عليه الخ (فتاویٰ قاضی خان

مع الهندیہ، کتاب الصلاة، فصل فیما یوجب السهو وما لایوجب السهو، زکریا ۱/۱۲۱،
 زکریا جدید ۱/۷۶، غنیۃ المستملی، کتاب الصلاة، فصل فی سجود السهو، اشرفیۃ ۴۶۰،
 صغیری قدیم مطبع مجتہائی دہلی (۲۳۵)

ولو قرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم قرأ فاتحة الكتاب، فلا سهو عليه.

(المحیط البرہانی، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، المجلس العلمي
 جدید ۲/۳۱۰، رقم: ۱۸۵۱، الفتاوی التاتار خانیہ، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر
 سجود السهو، زکریا ۲/۳۹۱، رقم: ۲۷۶۰)

أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة، فلا يجب كما في
 الخانيه واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة و صححه الزاهدي
 لعدم لزوم التأخير. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۲/۱۵۲،
 کراچی ۱/۴۶۰)

ولو قرأ الفاتحة مرتين يجب عليه السجود لتأخير السورة، كذا في
 الذخيرة وغيرها وذكر قاضيخان وجماعة أنها إن قرأها مرتين على الولاة
 وجب السجود، وإن فصل بينهما بالسورة لا يجب و صححه الزاهدي.
 للزوم تأخير السورة في الأول لا في الثاني إذ ليس الركوع واجباً بأثر
 السورة، فإنه لو جمع بين سورتين بعد الفاتحة لم يمتنع الخ. (البحر الرائق،
 كتاب الصلوة، باب سجود السهو، زکریا ۲/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۸ صفر المظفر ۱۴۰۸ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۵۳۰)

تعدہ اخیرہ میں تکرار تشهد اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں

سوال [۲۹۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ قعدہ اخیرہ میں تشهد دوبار پڑھ لینے سے یا قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟

المستفتی: ضیاء الرحمن، سلیم مسجد چوہان باگ، دہلی-۵۳

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تکرار تشهد اور سورہ فاتحہ قعدہ اخیرہ میں التحیات کے

بعد پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۲/۲۹، امداد الفتاویٰ ۱/۵۳۱)

إن قرأ بعد التشهد فإن كان في الأول فعليه السهو لتأخير
الواجب، وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد، وإن كان في الأخير
فلاسهو عليه لعدم ترك واجب؛ لأنه موسع له في الدعاء، والثناء بعده
فيه، والقراءة تشتمل عليهما، ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الأخيرة،
أو تشهد قائماً لاسهو عليه. (طحطاوي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو،
دارالكتاب ديوبند جديد ۴۶۱، قديم ۲۵۱)

و كذلك تكرر التشهد على هذا التفصيل..... وإن كررها في القعدة

الثانية لاسهو عليه. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر في

سجود السهو، زكريا ۲/۳۹۲، رقم: ۲۷۶۱، المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل

السابع عشر سجود السهو، المجلس العلمي جديد ۲/۳۱۵، رقم: ۱۸۷۰، هندية، كتاب

الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو ۱/۱۲۷، جديد زكريا ۱/۱۸۶)

وإن بدأ بالتشهد، ثم بالقراءة، فلاسهو عليه. (هندية، كتاب الصلاة،

الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۶، جديد زكريا ۱/۱۸۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۷/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/رجب المرجب ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۴۳/۳۵)

سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہیں ملائی تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۹۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید فجر کی نماز فرض پڑھا رہا تھا اور الحمد کے بعد اسے کوئی سورت یاد نہیں آ رہی تھی؛ چنانچہ رکعتوں میں اس نے صرف پوری 'الحمد' شریف پڑھ ڈالی اور کوئی سورت نہ پڑھی پھر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ادا ہوگئی؟

المستفتی: محمد فیاض الدین، محلہ گوڑا گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے سجدہ سہو کر لیا، تو اس کی نماز صحیح ہوگئی۔

وفي الفتاوى الهندية، ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة
يجب عليه سجود السهو. (عالمگیری، کوئٹہ ۱/۱۳۶)، جدید زکریا
۱/۱۸۶، تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، امدادیہ ملتان ۱/۱۹۳،
زکریا ۱/۴۷۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۳/۱۳ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۶۰۲۹)

فرض کی تیسری رکعت میں ضم سورہ سے عدم سجدہ سہو کی علت

سوال [۲۹۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت بھی کر لیا جائے تو سجدہ سہو کیوں واجب نہیں ہوتا؟ علت تحریر فرمادیں۔

المستفتی: محمد صدیق بگتیاں، مکان نمبر ۵۶/۲۲، بگتیاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ

کے ساتھ دوسری سورت ملانے سے سجدہ سہو واجب نہ ہونے کے علت یہ ہے کہ اس موقع پر کسی خاص مقدار کی تعیین کئے بغیر مطلقاً قرأت کرنا ثابت ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کی وجہ سے راجح قول کے مطابق تاخیر ارکان لازم نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو؛ لیکن پھر بھی دوسری سورت کا ملانا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے۔

هل يكره في الأخيرين؟ المختار لا وتحته في الشامية: أي لا يكره تحريماً؛ بل تنزيهاً؛ لأنه خلاف السنة..... وفي أظهر الروايات لا يجب، لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، كراحي ۱/۴۵۹، زكريا ۲/۱۵۰)

وإذا قرأ في الأخيرين من الظهر، أو العصر الفاتحة والسورة ساھياً، وفي الحجة: أو قرأ السورة دون الفاتحة، فلا سھو عليه وهو المختار، وفي النصاب وعليه الفتوى. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر في سجود السھو، زكريا ۲/۳۹۲، رقم: ۲۷۶۴، وهكذا في المحيط البرھاني، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر في سجود السھو، المجلس العلمي جديد ۲/۳۱۰، رقم: ۱۸۵۳، ہندیة، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سھو السھو، قديم زكريا ۱/۱۲۶، جديد زكريا ۱/۱۸۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳ھ/۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۶۷۱۳۶)

فرض کی آخری رکعت میں سورت ملانے سے سجدہ سہو

سوال [۲۹۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: (۱) کہ ایک امام صاحب نے عصر کی نماز پڑھائی اور آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ ملا دی اور پھر سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا سجدہ سہو لازم تھا؟

(۲) مقتدیوں نے کہا سجدہ سہو کرنا چاہئے اب جبکہ سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو نماز لوٹائی جائے؛ لہذا نماز دوبارہ پڑھی گئی تو جو دوبارہ نماز پڑھی گئی وہ کیسی نماز ہوئی نفل یا واجب الاعادہ؟

(۳) اس دوسری والی جماعت میں ایک شخص آ کر شریک ہو گیا تو اس کی نماز فرض ادا ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: مولانا شکیل احمد، بسواں، سینا پور (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت

ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی؛ لیکن سورت ملانا صرف خلاف سنت ہے خلاف سنت امر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا؛ لہذا مذکورہ صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی؛ اس لئے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں تھی؛ برآں بنا دوسری نماز میں شرکت کرنے والے کی نماز بھی صحیح نہ ہوگی، اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے؛ اس لئے کہ پہلی نماز سے فرض ادا ہو گیا تھا اور دوسری والی نماز واجب بھی نہیں؛ بلکہ صرف نفل ہے۔

ولو قرأ في الأخيرين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح الخ

(ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، قدیم زکریا ۱/۲۶، جدید زکریا ۱/۱۸۶)

وإذا قرأ في الأخيرين من الظهر، أو العصر الفاتحة والسورة ساھیا، وفي الحجة: أو قرأ السورة دون الفاتحة، فلا سهو عليه وهو المختار، وفي النصاب وعليه الفتوى. (الفتاویٰ التاتارخانیہ، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر فی سجود السهو، زکریا ۲/۳۹۲، رقم: ۲۷۶۴، وھکذا فی المحيط البرھانی، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر فی سجود السهو، المجلس العلمي جدید ۲/۳۱۰، رقم: ۱۸۵۳،

ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجو السہو، قدیم زکریا ۱/۱۲۶، جدید زکریا ۱/۱۸۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۲/۳۹۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۳/۱۴۱۶ھ

سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا تو کیا کرے؟

سوال [۲۹۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر نمازی نماز میں الحمد شریف کے بعد سورت یا قرأت واجبہ پڑھے بغیر سہواً رکوع میں چلا گیا رکوع میں پہنچ کر یاد بھی آ گیا کہ سورت نہیں پڑھی یاد آنے پر اس کے لئے قیام میں واپس آنا ضروری ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یونس، امام جامع مسجد احمد گڑھ، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں قیام کی طرف لوٹ کر سورت پڑھ کر پھر رکوع میں جائے اس کے بعد بدستور اعمال صلوة ادا کر کے آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا لازم ہوگا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳۶۲/۱)

ولو ترک السورة فذکرها قبل السجود اعدا وقرأها، وکذا لو ترک الفاتحة، فذکرها قبل السجود قرأها ویعيد السورة (إلی قوله) ومتی عاد فی الكل فإنه یعيد رکوعه لارتفاضه، وفي الخلاصة ویسجد للسہو فی ما إذا عاد أولم یعد إلی القراءة الخ (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، زکریا ۲/۱۶۶)

عن الثوري قال: إذا لم یقرأ فی رکعة حتی یرکع، فإنه یرفع رأسه إذا ذکر ویقرأ، ثم یسجد سجدة السہو، فإن سجد مضی. (مصنف عبد الرواق ۱۲۷/۲، رقم: ۲۷۶۴)

وهذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة، فإن تذكر قراءة الفاتحة، أو السورة في الركوع، أو بعد ما رفع رأسه منه يعود إلى القراءة وينتقص ركوعه. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان محل سجود السهو، كراچی ۱/۱۷۲، زکریا ۱/۴۱۵)

ولو ترك السورة فتذكرها في الركوع، أو بعد الرفع منه قبل السجود، فإنه يعود ويقرأ السورة يعيد الركوع وعليه السهو. (حاشية الطحطاوي على مراقبي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دار الكتاب ديوبند جدید ۶۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴/۲/۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الربيع الثاني ۱۴۱۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۹۱/۲۹)

ظہر کی چار سنتوں کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۹۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ظہر سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ میں دو رکعت پر قعدہ کرنا فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو التحیات کے بعد درود پڑھنے سے سجدہ سہو کیوں واجب ہے؟ جبکہ نوافل کی ہر دو رکعت پر قعدہ فرض ہے اور فرض قعدہ میں درود ممنوع نہیں ہوتا، تو یہاں سجدہ سہو واجب کیوں کیا جا رہا ہے؟

المستفتی: عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ظہر کی چار سنتوں میں قعدہ اولیٰ فرض لغیرہ ہے؛ کیونکہ اس کے فرض ہونے کی علت خروج عن الصلاة ہے اور جب دو رکعت پر نماز ختم نہیں کی؛

بلکہ چار رکعت پڑھنے کا ارادہ کر لیا تو قعدہ اولیٰ فرض نہ رہا؛ بلکہ واجب ہو گیا لہذا اب اس میں رباعی فرض کی طرح درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔

وقالا أي أبو حنيفة وأبي يوسف لا تفسد صلاته في الصورة المذكورة ولا يلزمه قضاء شيء؛ لأن القعدة على رأس الركعتين من النفل، لم تفرض لعينها؛ بل غيرها وهو الخروج على تقدير القطع على رأس الركعتين فلما لم يقطع وجعلها أربعا لم يأت أوان الخروج فلم تفرض القعدة وهذا بخلاف القراءة. (حلبی کبیر، کتاب الصلاة، فروع لوترک ۴، ۳۹، مکتبہ اشرفیہ) والقعود الأول ولو في نفل في الأصح (وتحتة في الشامية) لأنه وإن كان كل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت القراءة في جميعه؛ لكن القعدة إنما فرضت بالخروج من الصلوة فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ما قبلها لم يكن أو ان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة. (الدر المختار مع الشامي، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۲/۱۵۸، كراچي ۱/۴۶۵)

عن الشعبي قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدة السهو. (المصنف لابن أبي شيبة، کتاب الصلاة، باب قدر کم يقعد في الركعتين

الأوليين، مؤسسه علوم القرآن جدید ۳/۴۷، رقم: ۳۹، ۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/جمادی الاخریٰ ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۶۱/۴۰)

ظہر کی سنن قبلیہ کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کا حکم

سوال [۲۹۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ظہر کی سنن قبلیہ میں دو رکعت پر تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو

واجب ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو کتنی درود پڑھنے سے ہوگا؟

المستفتی: ضیاء الرحمن، میسور کرناٹک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ظہر کی سنن قبلیہ کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے

بعد صبح قول کے مطابق ”وعلی آل محمد“ تک درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہولاً لازم ہو

جائے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈیجیٹل ۷/۲۲۳، میرٹھ ۱۱/۵۱۱، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۳۹۳)

ولا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القعدۃ الأولى فی

الأربع قبل الظهر، والجمعة وبعدها ولو صلی ناسیا فعلیہ السہو. (شامی،

کتاب الصلاة، باب سجود السہو، زکریا ۲/۲۵۶، کراچی ۲/۶۱)

ولا یزید فی الفرض علی التشہد فی القعدۃ الأولى إجماعاً، فإن زاد

سأھیماً وجب علیہ سجود السہو، تحته فی الشامیة: لا یزید فی الفرض أي

وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب. (شامی، کتاب الصلاة، باب سجود السہو،

زکریا ۲/۲۲۰، کراچی ۲/۶۱)

لا یجب مالہ یقل ”وعلی آل محمد“ ذکرہ القاضي الإمام—و ذکر

فی شرحہ الصغیر أن ما ذکرہ القاضي الإمام هو الذي علیہ الأكثر وهو

الأصح، قال الخیر الرّملي: فقد اختلف التصحيح كما ترى وينبغي ترجيح

ما ذكره القاضي الإمام. (شامی، کتاب الصلاة باب صفة الصلاة، زکریا ۲/۲۲۰،

کراچی ۱/۵۱۱، غنیة المستملي، کتاب الصلاة، فصل فی سجود السہو، مکتبۃ اشرفیة

دیوبند ۶۰، تاتارخانیة، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السہو،

زکریا ۲/۴۰۰، رقم: ۲۷۹۳)

عن الشعبي قال: من زاد فی الركعتین الأولىین علی التشہد فعلیہ

سجدتا السہو. (المصنف لابن أبي شيبة، کتاب الصلاة، باب قدرکم یقعده فی الركعتین

الأولین، مؤسسہ علوم القرآن جدید ۳/۴۷، رقم: ۳۰۳۹ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲ جمادی الثانیہ ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۵۲۴۰)

قعدہ میں تشهد کے بجائے سورۃ فاتحہ پڑھ لی

سوال [۲۹۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چار رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھنے کے بجائے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد یاد آنے پر التحیات پڑھ لی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہولاً لازم ہے یا نہیں؟ اور اگر قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بجائے سورۃ فاتحہ پڑھ لی پھر یاد آنے پر التحیات پڑھنے لگا تو ایسی صورت میں سجدہ سہولاً لازم ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عرفان قاسمی، حیدرآبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بجائے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد یاد آنے پر التحیات پڑھ لی تو سجدہ سہولاً لازم ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۳۶۴)

عن عقبۃ بن نافع قال: سمعت ابن عمر یقول: لیس من صلاۃ إلا وفيها قراءۃ وجلوس فی الركعتین، وتشہد وتسلیم، فإن لم تفعل ذلك سجدة سجدة بعد ما تسلم وأنت جالس. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب في الرجل ينسى التشهد، مؤسسہ علوم القرآن ۶/۴۷، رقم: ۸۸۰۶)

إذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو، وكذلك إذا قرأ الفاتحة، ثم تشهد كان عليه السهو. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا/۱۲۷، جدید زكريا/۱۸۶)

وكذلك إذا قرأ الفاتحة، ثم تشهد كان عليه السهو. (التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، زكريا ۲/۳۹۷، رقم: ۲۷۸۱، المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، المجلس العلمي جديد ۲/۳۱۳)

ولو قرأ الفاتحة أو آيةً من القرآن في القعدة، أو في الركوع، أو في السجود أو قرأ التشهد في الركوع، أو في السجود كان عليه السهو. (خانية، على هامش الهندية، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۱، زكريا جديد ۱/۷۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲/۱۳۳۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۳۲۵)

ظہر کی سنن قبلیہ میں دو رکعت پر قعدہ بھول گیا تو سجدہ سہو کا حکم

سوال [۲۹۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی شخص نے ظہر سے پہلے والی چار سنتوں میں دو رکعت پر قعدہ نہیں کیا تو اس کی یہ سنتیں اخیر میں سجدہ سہو کرنے سے ادا ہو جائیں گی یا نہیں؟ اگر ہو جائیں گی تو کیوں جبکہ نوافل و سنن میں دو رکعت پر قعدہ فرض ہے اور فرض کے ترک میں سجدہ سہو کا رگ نہیں ہے؟

المستفتی: محمد ایوب غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چار رکعت سنت میں دو رکعت پر قعدہ اولیٰ بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، وجہ یہ ہے کہ سنن و نوافل میں ہر دو رکعت پر قعدہ فرض لعیہ نہیں ہے؛ بلکہ فرض لغیرہ ہے؛ لہذا جب وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو قعدہ کی فرضیت ساقط ہوگئی، اور وہ واجب ہو گیا اور واجب کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈبھیل ۷/۴۲۷، میرٹھ ۱۱/۴۸۷)

وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطرداً في كل الأحكام، ولذا لو ترك القعدة الأولى لا تفسد، - نعم اعتبروا كون كل شفع صلاة على حدة في حق القراءة احتياطاً. (شامی، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، زکریا ۴۵۶/۲، کراچی ۱۶/۲)

ولو ترك القعود الأول في النفل سهواً سجد ولم تفسد استحساناً، لأنه كما شرع ركعتين شرع أربعاً أيضاً. (شامی، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۵۵۵/۲، کراچی ۸۸/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷/ جمادی الثانیہ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۶۱/۴۰)

اقرب الی القیام اور اقرب الی القعود کی تشریح

سوال [۲۹۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک امام صاحب نماز عشاء میں قعدہ اولی بھول کر کھڑے ہو رہے تھے کہ مقتدی کے لقمہ دینے پر امام صاحب بیٹھ گئے، دوسرا مقتدی جو نماز میں شامل ہونے کے لئے کھڑا تھا دیکھا کہ امام صاحب کا آدھے حصہ سے زیادہ اٹھ گیا ہے اور اقرب الی القیام کو پہنچ گئے ہیں؛ لیکن امام صاحب نے سجدہ سہو نہیں کیا مقتدی کے پوچھنے پر امام صاحب نے جواب دیا کہ ہم اقرب الی القعود تھے، آیا ایسی صورت میں سجدہ سہو کے بغیر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بالذلیل جواب مرحمت فرمائیں۔

نوٹ: اقرب الی القعود اور اقرب الی القیام کی اردو میں تشریح فرمائیں کہ قعود کہاں

تک ہے اور قیام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟

المستفتی: شائق احمد، مدرسہ زینت العلوم ۲۴ پرگنہ (مغربی بنگال)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اقرب الی القیام ہوا ہے تو سجدہ سہولاً لازم ہو چکا ہے اور اگر اقرب الی القعود ہوا ہے تو سجدہ سہولاً لازم نہیں ہے، اور اقرب الی القیام والقعود کی تشریح یہ ہے کہ اگر پنڈلی ران سے بالکل واضح طور پر الگ ہو جائے تو اقرب الی القیام ہوا کرتا ہے اور اگر پنڈلی ران سے صاف الگ نہ ہو تو اقرب الی القعود ہوا کرتا ہے۔

إذا انتصب النصف الأسفل يكون إلى القیام أقرب وإن لم ينتصب النصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب، وهذا هو الذي اختاره في الكافي، وهو الأصح، فإنه إذا رفع ركبتيه ولم ينتصب النصف الأسفل يصير كالجالس لقضاء الحاجة الخ (غنية المستملي، كتاب الصلاة، فصل في سجود السهو، سهيل اكيديمي لاهور جديد ۴۵۸، مكتبه رحيمية ديوبند قديم ۴۳۳)

وصحح اعتبار ذلك في الفتح بما في الكافي: إن استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن فهو أقرب إلى القیام، وإن لم يستو فهو أقرب إلى القعود. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۲/۵۴۸، كراچی ۸۴/۲)

عن المغيرة بن شعبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً، فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدة السهو. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، النسخة الهندية ۱/۴۸، دارالسلام رقم: ۱۰۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۵۶/۱)

قیام سے تشہد کی طرف لوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی

سوال [۲۹۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مغرب کی نماز میں قعدہ اولیٰ میں امام صاحب پوری طرح سیدھے کھڑے ہو گئے؛ لیکن تنبیہ کے بعد بیٹھ گئے، اس صورت میں تمام متون میں فساد صلاۃ کا حکم ہے اور علامہ زیلعی سے اس قول کی تصحیح بھی منقول ہے، مگر درمختار میں قیل سے دوسرے قول کو نقل فرما کر علامہ ہسکلفیؒ وهو الأشبه كما حققه الكمال فرما رہے ہیں اور بحر الرائق میں دونوں قول کی تصحیح منقول ہے، علامہ شامی نے مسئلہ ہذا میں لمبی بحث نقل کی ہے، مگر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے بحث کے آخر میں شرح قدوری کے حوالہ سے ایک فقیہ کا قول نقل کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ سیدھے کھڑے نہ ہوئے ہوں؛ بلکہ اقرب الی القیام ہوں اور پھر بیٹھ گئے ہوں، اگر امام سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر بیٹھ جائے تو اس صورت میں فساد صلوٰۃ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا اختلاف اس صورت میں ہے؛ جبکہ امام صاحب اقرب الی القیام کی صورت میں بیٹھے ہوں اور متون میں بھی ”إن استقام قائماً“ کی صورت میں فساد صلوٰۃ کا حکم منقول ہے تو آخری قول متون کے موافق ہے، صورت مسئولہ کی پوری عبارت کی روشنی میں مفتی بہ قول سے آگاہ کر دیں؟

المستفتی: مسلم انور، قاسمی، آجرہ (مہاراشٹر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سیدھا کھڑے ہونے کی صورت میں لوٹ کر بیٹھنے میں فساد صلوٰۃ میں کسی کا اختلاف نہ ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آتی؛ اس لئے کہ یہ اختلاف اہل متون و شراح نے سیدھا کھڑا ہونے کی صورت میں بھی نقل فرمایا ہے۔ (درمختار،

کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، ذکر یا ۲۱۹، ۵۴۹، کراچی ۲۰۸۲)

وإن استقام قائمًا کہہ کر ”اختلف التصحيح، نقل فرمایا ہے: شرح کبیری، کتاب الصلاة، باب سجود السہو ۴۵۹ میں بھی وإن استوی قائمًا کے تحت اختلاف نقل فرمایا ہے؛ لہذا رافعی کا قول معتبر نہ ہوگا، اب اصل سوال کا جواب یہ ہے۔ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، مکتبہ زکریا ۱۲۷، تاتارخانیہ قدیم ۳۸، جدید ۲۱۹/۲، رقم: ۲۸۴۴، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، میں صرف فساد کے قول کو نقل فرمایا ہے: صاحب درمختار نے مطبوع زکریا ۲۱۹/۲، کراچی ۸۴۲، ”وہو الأشبه“ اور ”الحق عدم الفساد“ کہہ کر عدم فساد کو ترجیح دی ہے۔ صاحب بحر نے بحث کے اخیر میں الحق عدم الفساد کہا ہے۔ (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب سجود السہو ۱۰۱۲)

اور صاحب مراقی نے حاشیہ الطحاوی علی المراقی، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، دارالکتاب ۲۶۷، قدیم بیروت ۲۵۴/۱ میں ”وأرجحہما عدم الفساد“ کہا ہے۔ علامہ ابراہیم حلبی نے شرح کبیری میں لمبی بحث کر کے اخیر میں مختلف انداز سے عدم فساد کو ترجیح دی ہے۔ زیادہ مادون رکعة لاتفسد اور وهذا أيضا یفید عدم الفساد بالعود وغیرہ کے الفاظ سے عدم فساد کی تصحیح کو ترجیح دی ہے۔

نیز بہشتی زیور ۳۸۲، اور عزیز الفتاویٰ کراچی ۲۵۵، صفحہ پر بھی اکابر اہل فتاویٰ نے عدم فساد صلوٰۃ کو ترجیح دی ہے یہ سب دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ قیام سے عود کرنے میں ترک فرض لازم نہیں آتا؛ بلکہ تاخیر فرض لازم آتا ہے اور مادون الركعة ایک قیام کا اضافہ لازم آتا ہے اور یہ مفید صلاۃ نہیں ہے؛ اس لئے مفتی بہ عدم فساد صلوٰۃ ہی کو قرار دیا گیا ہے، رافعی کا قول: ”وانہ فی الاستواء قائمًا لاخلاف فی الفساد“ معتبر نہ ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

۱۴۱۹/۳/۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۶۳/۳۳)

تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے بعد قعدہ اولیٰ طرف لوٹ آنا

سوال [۲۹۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی امام عشاء کی نماز میں قعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بجائے بھولے سے تیسری رکعت کے لئے مکمل طور پر کھڑا ہو گیا اور مقتدی قعدہ ہی میں بیٹھے رہے، مقتدی نے لقمہ بھی دیا لیکن امام کھڑا ہو چکا تھا، پھر امام نے قعدہ اولیٰ کی طرف رجوع کر لیا اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی تو اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: اقبال احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام یا منفرد قعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے پھر قعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ آئے تو ایسی صورت میں فقہاء نے دونوں باتیں لکھی ہیں، ایک قول کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی اعادہ لازم ہے۔

دوسرے قول کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوگی اعادہ لازم نہیں، یہی قول زیادہ راجح اور قوی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۶۲/۲، ۲۵۲/۲، فتاویٰ رحمیہ ۱۵۹/۱)

وإن عاد الساهي عن القعود الأول إليه بعد ما استتم قائماً اختلف التصحيح في فساد صلواته وأرجحهما عدم الفساد..... قد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد وجعله غلطاً؛ لأنه تأخير لا رخص. (طحطاوي مع مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دار الكتاب ديوبند جديد ۶۷، ۶۸، قديم ۲۵۴، وكذا في الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو،

کراچی ۸۴/۲، زکریا ۵۴۹/۲، والبحر الرائق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو،
زکریا ۱۷۹/۲ کوئٹہ ۱۰۱/۲، حلبی کبیر، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، سهیل
اکیڈمی لاہور ۴۵۹ (فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷/جماد الاولیٰ ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۶۷/۳۶)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۵/۱۷ھ

قعدہ اخیرہ میں دو رکعت سمجھ کر تیسری کے لئے کھڑا ہونا

سوال [۱۹۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید مسجد کا امام ہے فرض نماز چار رکعت والی پڑھا رہا ہے اور قعدہ اخیرہ میں تشهد درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد نیند کا کچھ غلبہ ہوا جس کی بنا پر امام صاحب نے سوچ لیا کہ دو رکعت نماز ہوئی یا چار رکعت نماز ہوئی اس شک وشبہ میں امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو جب کسی شخص نے لقمہ دیا تو امام صاحب واپس لوٹ گئے، پھر التیحات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: تاج الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں امام کے سہو اور بھولنے کی جو صورت لکھی گئی ہے، اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؛ اور یہاں امام نے سجدہ سہو کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں نماز بلاشبہ درست ہو گئی۔

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سهو في وثبة الصلاة، الإقيام عن جلوس وجلوس عن قيام. (المستدرک، کتاب السهو قدیم ۳۲۴/۱، مکتبہ نزار ۲/۶۸، رقم: ۱۲۱۲، سنن الدار قطنی، کتاب الصلاة، باب لیس علی المقتدی سہو وعلیہ سہو الإمام، دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۳۶۵،

رقم: ۱۳۹۹، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من سهف فجلس من الأولى
دارالفکر جدید ۳/۳۰۰، رقم: ۳۹۶۰)

لوقعد في الرابعة، ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد
للدخامة وسجد للسهو؛ لأنه آخر واجباً. (هداية، كتاب الصلاة، باب
سجود السهو، اشرفى ۱۵۹/۱، وهكذا في العناية، كتاب الصلاة، باب سجود
السهو ۱/۵۰۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۴۲۲/۳)

مغرب میں دو رکعت پر سلام پھیرنے پر سجدہ سہو کا وجوب

سوال [۲۹۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ امام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سہو اور رکعت پر سلام پھیر دیا، جب دونوں
طرف سلام پھیر کر امام دعاء مانگنے لگا تو ایک مقتدی بولا کہ ابھی دو رکعت ہوئی ہے، یعنی دو پر
سلام پھیر دیا گیا ہے تو اس کی ایک آسان سی شکل یہ ہے کہ امام دوبارہ نماز پڑھا دے؛ لیکن
سوال یہ ہے کہ کیا امام بغیر کلام دنیا کئے ہوئے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور بنا
کرتے ہوئے نماز کی تکمیل کرا سکتا ہے؟ اور آخر میں سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز درست
ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ اگر کسی نمازی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے اور وہ دونوں طرف سہو
سلام پھیر دے اور پھر اس کو یاد آئے کہ مجھے تو سجدہ سہو کرنا تھا تو بغیر کلام دنیا کئے ہوئے فقہاء
ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دونوں طرف سلام پھیرنے کے باوجود بھی
سجدہ سہو کرنے کے بعد اپنی نماز درست کر سکتا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں اگر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کسی کے یاد دلانے یا خود یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو کر بقیہ رکعت پوری کر کے قعدہ آخریہ میں سجدہ سہو کر لے تو امام اور ان مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی، جنہوں نے منافی صلوة اقوال و افعال کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴۲/۴)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال: ابن سيرين: سماها أبو هريرة؛ ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم-إلى قول-فقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجود أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم؟ فيقول: نسيْتُ أن عمر ان بن حصين قال ثم سلم. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ۶۹/۱، رقم: ۴۷۶، ف: ۴۸۲)

ولو سلم مصلي الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه أتمها، ثم علم أنه صلى ركعتين، وهو على مكانه يتمها ويسجد للسهو. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل بيان سبب وجوب سجود السهو، كراچی ۱/۶۳، زکریا ۱/۴۰۲)

سلم مصلي الظهر مثلاً على رأس الركعتين توہما إتمامها أتمها أربعاً وسجد للسهو لأن السلام ساھيا لا يبطل؛ لأنه دعاء من وجه الخ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۲/۵۵۹، كراچی ۱/۹۱۲، مصري ۱/۷۰۴)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۵/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ جماد الاولیٰ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۶/۲۲۶)

رباعی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیرنے پر مقتدیوں کے ٹوکنے سے نماز کا حکم

سوال [۲۹۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، چار رکعت والی نماز تھی، دو رکعت پر دونوں طرف سلام پھیر دیا پیچھے سے کسی نے کہا کہ نماز دو رکعت ہوئی، اسی طرح کئی آدمیوں نے کہا اور امام ابھی اپنی ہیئت پر تھا اور چپ چاپ کھڑے ہو کر دو رکعت مزید پڑھادی آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو ایسی صورت میں امام کی اور اقتداء کرنے والوں کی نماز کا کیا حکم ہے جن لوگوں نے بول کر کہا ہے کہ دو رکعت ہوئی ان کی نماز کا کیا حال ہوگا؟

المستفتی: محمد گجراتی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اما اگر اپنی ہیئت پر ہے اور قبلہ سے نہیں پھرا ہے اور چپ چاپ کھڑے ہو کر دو رکعتیں مزید پڑھادیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو امام صاحب کی اور جن مقتدیوں نے کلام نہیں کیا ان کی نماز ہوگی اور جن لوگوں نے کلام کیا ان کی نماز باطل ہوگی۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر، أو العصر، فسلم، فقال له ذو اليمين: الصلاة يا رسول الله! أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول، قالوا: نعم، فصلی رکعتین آخرین ثم سجد سجدتين. (صحيح البخاري، كتاب السهو

باب إذا سلم في ركعتين ۱/ ۱۶۳، رقم: ۱۲۱۳، ف: ۱۲۲۷)

عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، النسخة الهندية ۱/ ۲۰۳، ۲۰۴، بيت الأفكار رقم: ۵۳۹)

إذا سلم في الظهر على رأس الركعتين ساهيا مضى على صلاته؛ لأن هذا سلام السهو وسلام السهو لا يخرج عن حرمة الصلاة ويسجد للسهو؛ لأنه آخر ركنا من أركان الصلاة عن وقته. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو ۷۱/۲، مكتبة الرشد بيروت، مجلس العلمي ۳۲۵/۲، ۱۸۹۲)

يجب أن يعلم بأن ما يفسد الصلاة نوعان: قول وفعل فنبداً بالقول، فنقول: إذا تكلم في صلاته ناسياً، أو ساهياً، أو عامداً، أو خاطئاً، أو قاصداً قليلاً أو كثيراً تكلم لإصلاح صلاته، بأن قام الإمام في موضع القعود فقال له المقتدي: اقعِد أو قعد في موضع القيام، فقال له المقتدي: قم أو لا لإصلاح في صلاته ويكون الكلام من كلام الناس. (التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد، زكريا ۲/۲۱۶، رقم: ۲۲۰۸)

ويسجد للسهو ولو مع سلامه للقطع ما لم يتحول عن القبلة، أو يتكلم لبطلان التحريم. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۲/۵۵۸، كراچی ۹۱/۲)

إذا سلم في الظهر على رأس الركعتين، مضى على صلاته ويسجد للسهو؛ لأنه آخر ركناً. (التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، زكريا ۲/۴۱۳، رقم: ۲۸۲۷) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۷۰)

رباعی نماز میں ۲ رکعت پر سلام پھیرنا

سوال [۲۹۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ امام صاحب نے چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پر السلام علیکم بھولے سے کہہ دیا تو کیا وہ نماز فاسد ہوگئی، اگر فاسد نہیں ہوئی تو امام صاحب کے اوپر اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ اور دھوکہ سے السلام علیکم کہہ دینے کے بعد اس امام کی اقتداء کرنا صحیح ہے یا نہیں؟

المستفتی: عنایت اللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پر بھولے سے

سلام پھیر دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی جب تک مفسد صلاۃ کوئی عمل نہ ہو جائے، مثلاً لوگوں سے کوئی گفتگو کرے یا دوسرے عمل میں لگ جائے یا قبلہ سے منہ پھیر لے، تب تو نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نماز فاسد نہیں ہوتی اس لئے جوں ہی یاد آئے فوراً تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی اور دھوکہ سے السلام علیکم کہنے کے بعد پھر امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ لوگ آکر امام کی اقتداء کریں تو ان کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے۔

أن أبا هريرة ^{رض} يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة العصر فسلم في الركعتين، فقام ذواليدین، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله! أم نسيت؟ -إلى قوله- فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. (صحيح مسلم، المساجد باب السهو في الصلاة، النسخة الهندية ۲۱۳/۱، بيت الأفكار رقم: ۵۷۳، صحيح البخاري،

كتاب السهو، باب إذا سلم في ركعتين ۱/۱۶۳، رقم: ۱۲۱۳، ف: ۱۲۲۷)

وإذا تَوَهَّم مصلی الظهر أنه أتمها فسلم، ثم علم أنه صلى ركعتين وهو على مكانه، فإنه يتمها، ثم يسجد للسهو. (المبسوط، كتاب الصلاة، باب

سجود السهو، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۳۲)

سلم مصلی الظهر مثلاً على رأس الركعتين توهما إتمامها أتمها أربعاً

وسجد للسهو لأن السلام ساهيا لا يبطل. (شامی، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، کراچی ۹۱/۲، زکریا ۵۵۹/۲)

وإن توهم مصلى الظهر أنه أتمها فسلم، ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو. (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، قبیل باب

صلوة المريض، زکریا ۱۹۶/۲، کوئٹہ ۱۱۱/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

۱۳/۳/۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۵۰/۳۸)

چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہونا بھول جائے پھر لقمہ دینے پر کھڑا ہوا تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۹۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چار رکعت والی نماز ہے امام تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی مقتدی حضرات نے اللہ اکبر کہا تو امام صاحب فوراً چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب کے بیٹھنے کی مقدار یہ تھی کہ امام صاحب سکون سے بیٹھ تو گئے تھے؛ لیکن ابھی التحیات شروع نہیں کی تھی، تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟

المستفتی: سید کا رحسان احمد قاسمی، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام چوتھی رکعت کے لئے اٹھنے کے بجائے بیٹھ گیا، مگر فوراً یاد دہانی پر کھڑا ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہ ہوگا؛ لیکن اگر تاخیر کر دی ہے تو اس تاخیر کی مقدار میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے اس کی مقدار ایک تسبیح بیان کی ہے اور بعض کے نزدیک تین تسبیح ہے؛ لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک تسبیح کی مقدار بھی اگر بھول کر بیٹھ گیا ہے تب بھی سجدہ سہو کر لے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴/۴۱۴-۳۸۷، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲/۱۲۴، جدید ڈائجیل ۷/۴۱۱، کفایت المفتی قدیم ۳/۳۷۵، جدید زکریا یوبند ۳/۴۲۰)

تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله وهذا إذا كانت القعدة طويلة أما الجلسة الخفيفة التي استحباها الشافعي فتركها غير واجب عندنا. (شامي، مصري ۱/ ۴۳۸، شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، كراحي ۱/ ۴۶۹، زكريا ۲/ ۱۶۴)

إن كان زمن التفكير زائداً عن التشهد قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو لتأخيرهِ (طحطاوي) وفي المراقي ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقلم ان يعتبر الركن مع سنتة وهو مقدر بثلاث تسيحات. (مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالكتاب ديوبند جديد ۴۷۴، قديم ۲۵۸)

أو قدر ركن قصير كالركوع، أو السجود بسنته: أي قدر ثلاث تسيحات وبالثاني جزم البرهان ابراهيم الحلبي في شرح المنية حيث قال وذلك مقدار ثلاث تسيحات (منحة الخالق على البحر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زكريا ۱/ ۴۷۴، كوئنه ۱/ ۲۷۲) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۸۷/۳۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵/ ۶/ ۱۴۲۱ھ

امام قعدہ اولیٰ کے بغیر کھڑا ہو گیا

سوال [۲۹۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید امام تھا اور چار رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا پھر کھڑے ہونے کے بعد لقمہ ملنے پر واپس آ گیا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، تو زیکی نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمدی الدین، گڈاوی امام مسجد طیبہ محلہ پیر غیب مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صحیح یہی ہے کہ صورت مذکورہ میں نماز درست ہوگئی، واجب الاعادہ نہیں۔

عن المغيرة بن شعبه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فليجلس، وإن استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدة السهو. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب من سها فقام من اثنتين دارالفكر ۳/۹۸، ۲، دار الحديث القاهرة رقم: ۳۹۵۱، ۲/۶۸۶، رقم: ۳۸۴۴، سنن الدارقطني، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۳۶۷، رقم: ۱۴۰۳)

وإن استقام قائماً لا يعود لاشتغاله بفرض القيام وسجد للسهو لترك الواجب فلوعاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلواته لرفض الفرض لما ليس بفرض وصحة الزيلعي وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئاً ويسجد لتأخير الواجب وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق، وفي الشامية ما في المبتغي من ان القول بالفساد غلط؛ لأنه ليس بترك؛ بل هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع، فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ. (درمختار مع الشامسي، كتاب الصلاة، مطبوعه، كراچی ۲/۸۴، زكريا ۲/۵۴۹، كوئٹہ ۵۵۰۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۶۵۸)

رباعی نماز میں تعدہ اخیرہ کے بعد پانچویں رکعت پوری کر لینا

سوال [۲۹۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام نے چار رکعت والی نماز میں درمیانی اور آخری تعدہ کر لیا پھر غلطی سے

پانچویں بھی پڑھ ڈالی اور قعدہ کر کے سلام پھیر لیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ جبکہ آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا تھا۔ آپ اس کا جواب تحریر فرمادیں۔

المستفتی: عبدالرحیم بڈیڈوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چار رکعت والی نماز میں جب چوتھی رکعت میں قعدہ اخیرہ مکمل کر لیا ہے، اس کے بعد پانچویں رکعت بھی پڑھ لی ہے اور سجدہ سہو بھی کر لیا ہے تو ایسی صورت میں نماز صحیح اور درست ہوگئی ہے اور پانچویں رکعت باطل ہوگئی ہے، بہتر یہ تھا کہ چھٹی رکعت بھی پڑھ لیتے تاکہ دو رکعت نفل ہو جاتی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۰۷/۲، جدید ڈابھیل ۷/۲۳۰)

وإن قعد في الرابعة، ثم قام عاد وسلم وإن سجد للخامسة، ثم فرضه وضم إليها سادسة. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۱۸۴/۲، كوئٹہ ۱۰۴/۲)

ولو قعد في الرابعة، ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم..... وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه. (هداية، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفی ۱/۱۵۹، قدوري، كتاب الصلاة، باب سجود السهو)

عن قتادة في رجل صلى الظهر خمسا قال: يزيد إليها ركعة فتكون صلاة الظهر، وركعتين بعدها..... تطوعا. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي الظهر، أو العصر خمسة ۳۰۳/۲، رقم: ۳۴۶۰)

عن عبد الله رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك قالوا: صليت خمسا، قال: إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كماتذكرون، وأنسى كما

تسنون، ثم سجد سجدي السهو. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، النسخة الهندية ۱/۲۱۳، بيت الأفكار رقم: ۵۷۲، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ماجاء في القبلة ۱/۵۸ رقم: ۴۰۲، ف: ۴۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/زی قعدہ ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۳۸۳۷۷)

قعدہ اخیرہ فرض ہے

سوال [۲۹۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے یا واجب رائج قول کیا ہے؟ مدلل مع حوالہ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد شکیل احمد، بسواں، سینٹاپور (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بقدر تشہد قعدہ اخیرہ فرض اور رکن صلوٰۃ میں سے

ہے؛ لہذا اگر قعدہ اخیرہ چھوڑ کر قیام کے لئے کھڑا ہو جائے اور جب نماز فجر میں تیسری رکعت اور مغرب میں چوتھی رکعت اور ظہر، عصر اور عشاء میں پانچویں رکعت کے سجدہ سے قبل یاد آجائے تو قعدہ کی طرف لوٹ آنا لازم ہے اور اگر سجدہ کر لیا ہے تو نماز فرض باطل ہو جائے گی اور سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی؛ کیونکہ سجدہ سہو سے رکن صلوٰۃ کی تلافی نہیں ہوتی ہے۔

والقعود الأخير قدر التشهد وهي فرض ياجماع العلماء. (البحر الرائق،

كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زكريا ۱/۵۱۲، كوئٹہ ۱/۲۹۴)

والمفروض عندنا الجلوس قدر قراءة التشهد في الأصح. (حاشية

الطحطاوي على مراقبي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، واركانها قديم ۱۲۸،

دارالكتاب ديوبند جديد ۲۳۵)

والقعدہ الأخریة فرض فی الفرض والتطوع. (ہندیہ، کتاب الصلاة، الفصل الأول فی فرائض الصلاة، زکریا ۱/۱۷، جدید ۱/۱۲۸، شرح النقایہ، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، اعزازیہ دیوبند ۱/۶۹، شامی، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، زکریا ۲/۱۳۵، کراچی ۱/۴۴۸)

ولو سها عن القعود الأخير كله أو بعضه عادو يكفي كون كلا الجلستين قدر التشهد مالم يقيدها بسجدة (إلى قوله) وإن قيدها بسجدة عامداً، أو ناسياً، أو ساهياً، أو مخطأ تحول فرضه نفلاً الخ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۲/۵۵۰، ۵۵۱، کراچی ۲/۸۵، جوہرہ، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، امدادیہ ملتان ۱/۹۳، مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالکتب العلمیہ بیروت جدید ۲۲۳، مصری قدیم ۱/۱۵۱، ہدایہ، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفی ۱/۱۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶/رجب المرجب ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۲۹۴)

ایک سجدہ یا رکوع چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۹۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی نے نماز میں ایک ہی سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا لوگوں نے لقمہ دیا مگر وہ پورے قیام کی حالت میں کھڑا ہو گیا، اس کو بھی یاد آیا تو کیا نماز توڑ دے، اسی طرح پہلی رکعت کا رکوع چھوڑ کر چلا گیا پھر یاد آیا تو اب کیا کرے کیا نماز کو چھوڑ دے اگر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو کونسی نفل اور کونسی فرض ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد فاروق اسماعیل، جعفر بلاڈنگ مبین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں فوت شدہ سجدہ یاد آنے پر اس کو ادا کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جائے گی اور اعادہ لازم نہ ہوگا۔

قال في شرح المنية حتى لو ترك سجدة من ركعة، ثم تذكرها فيما بعدها من قيام، أو ركوع، أو سجود، فإنه يقضيها ولا يقضي ما فعله قبل قضائها مما هو بعد ركعتها (إلى قوله) يلزم سجود السهو الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل شفع من النفل صلاة، كراچي ۱/۴۶۲، زكريا ۲/۱۵۴)

اگر رکوع کئے بغیر سجدہ میں چلا گیا ہے تو یاد آنے پر دوبارہ رکوع اور سجدہ دونوں کا اعادہ لازم ہوگا۔

وكذا لو تذكر ركوعاً قضاه وقضى ما بعده من السجود الخ (كسيري،

كتاب الصلاة، قبيل فصل في صفة الصلاة، جديد اشرفي ديوبند ۲۹۷، قديم ۲۹۱، شامي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب كل شفع من النفل صلاة، زكريا ۲/۱۵۳، كراچي ۱/۴۶۱، طحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها جديد دارالكتاب ديوبند ۲۳۳، قديم ۱۲۷)

نیز اگر پانچویں رکعت کے لئے قعدہ اخیرہ کئے بغیر کھڑا ہو گیا ہے، تو اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے قعدہ کی طرف لوٹ آوے تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر سجدہ کریگا تو اس کا فرض باطل ہو جائے گا اور ایک چھٹی رکعت بھی ملائے تاکہ یہ نماز نفل ہو جائے اور اگر چوتھی رکعت پر قعدہ کرنے کے بعد پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا، اگر پانچویں کے ساتھ چھٹی بھی ملائے گا تو چار رکعت فرض اور بعد کی دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا اور اگر چھٹی رکعت نہ ملائے تو پانچویں رکعت بیکار ہو جائے گی چار رکعت فرض ہو جائے گی اخیر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔

وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو، وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلواته نفلاً، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة، وإن قعد في الرابعة قدر التشهد، ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود مالم يسجد في الخامسة ويسلم ويسجد للسهو، فإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلواته الخ (الجوهرية النبوة، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، جديد دارالكتاب ديوبند ۹۳، قديم امداديه ملتان ۱/۹۴، تنوير الأبصار مع الدرر، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، كراچی ۸۵/۲ تا ۸۷، زكريا ۱/۲۵۵، تا ۵۵۴، هندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۹، جديد زكريا ۱/۱۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۱۸/۲۵)

تراویح کی دوسری رکعت میں قعدہ کو مؤخر کر دینا

سوال [۲۹۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نماز تراویح پڑھا رہا تھا، دوسری رکعت پر وہ بیٹھا نہیں؛ بلکہ سیدھا کھڑا ہو گیا مقتدی کے لقمہ پر وہ بیٹھا اور سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا اس کی وہ دو رکعت ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: صغیر احمد، امام مسجد جرنیل والی، گلشہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر پورا کھڑا ہو چکا ہے اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے اور ان دونوں رکعتوں کا قرآن بھی لوٹانا لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ

دارالعلوم ۲۸۲/۴، امداد الفتاویٰ ۱/۳۶۷)

عن ابن عمرؓ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سهو في وثبة الصلاة الإقيام عن جلوس وجلوس عن قيام. (المستدرک للحاکم، کتاب الصلاة، باب السهو ۲/۴۷۱، رقم: ۲۱۲۰/۱ قدیم ۳۲۴/۱، سنن دار قطنی، کتاب الصلاة، باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام ۱/۳۶۵، رقم: ۱۳۹۹، السنن الكبرى، کتاب الصلاة، باب من سها فجلس من الأولى ۳/۳۰۰، رقم: ۳۹۶۰، دار الحديث القاهرة ۲/۶۸۹، رقم: ۳۸۵۳)

و کذا کل صلوة أدیت مع کراهة التحريم تجب إعادتها. (در مختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب صلوة مطلب کل صلوة أدیت مع کراهة التحريم تجب إعادتها، زکریا ۲/۴۷، کراچی ۱/۴۵۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷/رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۹۳۹/۲۶)

ایک سجدہ بھول جائے تو کب ادا کرے؟

سوال [۲۹۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر امام بحالت نماز ایک سجدہ کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے تو کیا وہ سجدہ ثانیہ کرنے کے لئے لوٹے گا یا نہیں؟ یا دوسری رکعت میں تین سجدے کر کے سجدہ سہواً کر کے نماز پوری کر لے، اگر اگلی رکعت میں تین سجدہ کر لئے اور سجدہ سہونہ کیا تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟
 المستفتی: مسعود الحسن رشیدی، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فوت شدہ سجدہ اگر کھڑے ہونے کے بعد یاد آئے تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت لوٹ آئے اور سجدہ ادا کر لے، ورنہ جس رکن میں بھی یاد آئے

اسی رکن سے سجدہ کے لئے لوٹ آنا بہتر ہے اور جس رکن سے سجدہ ادا کرنے کے لئے لوٹا ہے اس رکن کا اعادہ مستحب ہے، اگر یاد آنے کے فوراً بعد سجدہ نہ کیا؛ بلکہ دوسری رکعت میں تین سجدہ کر لئے تو بھی درست ہے؛ البتہ تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ، زکریا ۴۱/۴۳)

عن الثوري في رجل قام فقراً، ثم ركع، ثم سجد سجدة واحدة ثم قام فقراً فركع، ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة قال: لا يعتد بهذا الركعة التي ذكر وهو ساجد؛ ولكن يرفع رأسه فليسجد التي فاتته، وليسجد سجدة التي ركعها التي هو فيها، ثم يسجد سجدة السهو إذا فرغ من صلوته. (المصنف لعبد الرزاق ۲/۳۲۰، رقم: ۳۵۲۵)

ولو تذكر في ركوعه، أو سجوده فسجدها أعادها ندبا لسقوطه بالنسيان وسجد للسهو، وفي الشامية: أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب وله أن يؤخرها إلى آخر الصلوة فيقضئها هناك. (شامي، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف مطلب كل شفع من النفل صلوة، زكريا ۲/۳۶۸-۳۶۹، كراچی ۱/۶۲، ۱/۶۱۲، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في الواجبات الاصلية في الصلاة، قديم ۱/۱۶۳، جديد زكريا ۱/۴۰۰)

وإن كان إما ما فصلي ركعة وترك منها سجدة فصلى ركعة أخرى وسجد لها، فتذكر المتروكة في السجود، فإنه يرفع رأسه من السجود و يسجد المتروكة، ثم يعيد ما كان فيها. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر في سجود السهو ۲/۳۹۴، رقم: ۲۷۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ رجب المرجب ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۴۱۳)

وتر میں دعاء قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا

سوال [۲۹۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز وتر میں دعاء قنوت پڑھے بغیر رکوع میں پہنچ جائے اور یاد آجائے تو قنوت کے لئے واپس قیام میں لوٹنا ضروری ہے یا نہیں اگر ان دونوں صورتوں میں نمازی قیام میں واپس نہیں آیا تو سجدہ سہو سے اس کی نماز درست ہوگی یا واجب الاعدادہ ہے؟

المستفتی: محمد یونس امام جامع مسجد احمد گڑھ، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر دعاء قنوت بھول جائے تو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اخیر میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔

لو تذكر القنوت في الركوع، فإنه لا يعيد (إلى قوله) يسجد للسهو الخ (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۲/۱۶۶، كوئٹہ ۲/۹۴)

لو تذكر القنوت في الركوع، فإنه لا يعود ولا يقنت فيه لفوات محله..... ويسجد للسهو. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دار الكتاب ديوبند جديد ۶۱)

ولو نسيه: أي القنوت ثم تذكر في الركوع لا يقنت فيه لفوات محله، ولا يعود إلى القيام في الأصح..... ويسجد للسهو. (شامي، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، زكريا ۲/۴۶۶، ۴۴۷، كراچی ۲/۹، ۱۰)

ثم رجح في البدائع والفتاوى رواية عدم العود إلى القنوت وجعلها ظاهر الرواية. (حاشية چلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، امداديه ملتان ۱/۱۹۴، زكريا ۱/۴۷۵)

وأما حكم القنوت إذا فات عن محله فنقول إذا نسي القنوت حتى ركع،

ثم تذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يعود ويسقط عنه القنوت وإن كان في الركوع، فكذلك وهو ظاهر الرواية. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في القنوت، كراچی ۱/۲۷۴، زكريا ۱/۶۱۵، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۴/۶۳)

عن الحسن قال: من نسي القنوت في الوتر، سجد سجدة السهو. (السنن الكبرى لليهيقي، كتاب الصلاة، باب من نسي القنوت سجد للسهو، دار الفكر ۳/۳۰۹، رقم: ۳۹۸۳، دار الحديث القاهرة ۲/۶۹۹، رقم: ۳۸۷۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴ھ
۱۴۱۴ھ
اربیع الثانی ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۹۱/۲۹)

دعاء قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال [۲۹۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے وتر کی تیسری رکعت میں بھول کر قنوت کو چھوڑ دیا اور رکوع میں چلا گیا، اب رکوع کے بعد دعاء قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ میرٹھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب دعاء قنوت بھول جائے تو رکوع سے لوٹ کر دعاء قنوت نہیں پڑھنی چاہئے، نیز رکوع کے بعد اگر قومہ کی حالت میں دعاء قنوت پڑھ لی ہے تو دوبارہ رکوع نہیں کرنا چاہئے تھا، تاہم دونوں صورتوں میں جب سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز صحیح ہوگئی ہے لہذا ان کی ضرورت نہیں۔

لو تذكر القنوت في الركوع، فإنه لا يعود ولا يقنت فيه لفوات محله

(إلى قوله) ويسجد للسهو. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالكتاب ديوبند ۴۶۱، البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۱۶۶/۲، كوثه ۹۴/۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۶۳/۳۴)

عن الحسن قال: من نسي القنوت في الوتر، سجد سجدة السهو. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب من نسي القنوت في الوتر سجد سجدة السهو، دارالفكر ۳/۳۰، رقم: ۳۹۸۳، دار الحديث القاهرة ۲/۶۹۹، رقم: ۳۸۷۶)

ولو نسيه القنوت، ثم تذكره في الركوع لا يقنت فيه ولا يعود إلى القيام في الأصح (إلى قوله) وسجد للسهو الخ (در مختار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، كراچی ۲/۹-۱۰، زكريا ۶۲/۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۷۵۵/۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۰/۵/۱۴۱۹ھ

وتر کی تیسری رکعت میں دو رکوع کرنے سے سجدہ سہو کا وجوب

سوال [۲۹۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رمضان شریف میں امام صاحب وتر پڑھتے ہوئے تیسری رکعت میں قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے یا آنے پر یا کسی کے بتانے پر پھر کھڑے ہو کر قنوت پڑھی، پھر رکوع کیا تب سجدہ میں گئے، معلوم یہ کرنا ہے ایسی صورت میں امام اور مقتدیوں کی نماز سجدہ سہو کرنے سے ہو جائے گی اور جو مقتدی دوسرے رکوع میں شریک ہوئے پہلے رکوع میں شریک نہ تھے ان کو رکعت ملی یا نہیں یا سرے سے نماز ہی نہ ہوئی فقہاء کا کیا فیصلہ ہے؟

المستفتی: جلیل احمد، سابق استاذ دارالعلوم جامع الہدیٰ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں وتر کی نماز میں رکوع کا

تکرار ہوا ہے یعنی تین رکوع کے بجائے چار رکوع ہو گئے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کے ذریعہ سے نماز درست ہوگئی اور بہتر یہ تھا کہ جب دعاء قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے، تو رکوع سے واپس نہ آتے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیتے تو نماز درست ہو جاتی، جو صورت پیش آئی ہے اس میں بھی سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہوگئی، اب رہی یہ بات کہ جو لوگ دوسرے رکوع میں شریک ہوئے ہیں ان کو رکعت ملی یا نہیں؟ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو رکعت نہیں ملی؛ اس لئے کہ دوسرا رکوع زائد اور لغو ہے؛ لہذا ان حضرات کو چاہئے کہ وتر کی تینوں رکعتیں مسبوق کی طرح پوری کریں۔

ولا يجب السجود إلا بتأخير ركن، أو تقديمه، أو تكراره الخ (ہندیہ،

كتاب الصلاة، باب سجود السهو، قديم زكريا ۱/۲۶، جديد زكريا ۱/۱۸۶)

ولو نسيه: أي القنوت ثم تذكر في الركوع لا يقنت فيه ولا يعود إلى القيام (إلى قوله) وسجد للسهو، وتحتته في الشامية: لو عاد وقت، ثم ركع فاقتدى به رجل لم يدرك الركعة، لأن هذا الركوع لغو. (شامی، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب اقتداء بالشافعي كراچي ۲/۹-۱۰، زكريا ۲/۴۴۶، ۴۴۷)

ولو أنه عاد إلى القيام وقت ينبغي أن لا ينتقص ركوعه على قياس ظاهر الرواية. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، صلاة الوتر، فصل في القنوت جديد زكريا ۱/۵۶۱، قديم كراچي ۱/۲۷۴، بيروت ۲/۲۳۵، حاشية چلبی علی التبيين، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، جديد زكريا ۲/۱۶۶، قديم امداديه ملتان ۱/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۱۰/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ شوال المکرم ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۹۴/۳۹)

دعاء قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم

سوال [۲۹۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے وتر میں دعاء قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور بعد میں یاد آنے پر دعاء قنوت بھی پڑھ لی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ، بھگلپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شخص مذکور نے جب وتر میں دعاء قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے اور یاد آنے پر دعاء قنوت بھی پڑھ لی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوا کیونکہ قنوت سے مراد مطلقاً دعاء ہے اور سورہ فاتحہ میں بھی دعائیہ الفاظ موجود ہیں۔

سئل عمر الحافظ عن من شرع فی القنوت فی الوتر فبعد ما قرأ بعضها قرأ الفاتحة، أو بعضاً منها سهواً، ثم عاد إلى قراءة القنوت هل يلزمه سجود السهو؟ قال: لا. (الفتاویٰ التارخانیة، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر فی سجود السهو ۲/۳۹۸، رقم: ۲۷۸۶)

قراءة قنوت الوتر وهو مطلق الدعاء أي القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان. (شامی زکریا، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۲/۱۶۳، کراچی ۱/۴۶۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۳۹)

دعاء قنوت بھول کر رکوع میں چلے جانا

سوال [۲۹۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی دعاء قنوت پڑھنے سے پہلے رکوع میں گیا فوراً اسے دھیان آیا کہ دعاء قنوت نہیں پڑھی فوراً کھڑا ہو گیا، پھر اس نے تکبیر کہہ کر دعاء قنوت پڑھ کر نماز پوری کی تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟

المستفتی: محمد آصف، گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ یہ ہے کہ اگر وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرأت کے بعد دعاء قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اگر رکوع میں یاد آجائے تو کھڑا ہو کر دعاء قنوت نہ پڑھے؛ بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اگر کھڑا ہو کر دعاء قنوت پڑھ بھی لے تو بھی نماز فاسد نہ ہوگی اخیر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔

عن الحسن قال: من نسي القنوت في الوتر، سجد سجدتي السهو.
(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب من نسي القنوت سجد للسهو، دار الفکر
جدید ۳/۳۰۹، رقم: ۳۹۸۳، دار الحديث القاہرہ ۲/۶۹۹، رقم: ۳۸۷۶)

ولو نسيه؛ أي القنوت، ثم تذكره في الركوع لا يقنت فيه لفوات محله ولا يعود إلى القيام في الأصح، لأن فيه رفض الفرض للواجب، فإن عاد إليه وقت ولم يعد الركوع لم تفسد صلواته وسجد للسهو. (شامي، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، كراچی ۲/۹-۱۰، زکریا ۲/۶۴۴) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ شعبان المعظم ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۸۲۳۴)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۵/۸/۱۴۱۹ھ

عیدین و جمعہ میں سجدہ سہو معاف ہونے کی علت

سوال [۲۹۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر نماز عید کی تکبیرات زوائد سہواً چھوٹ گئیں اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز بلا کراہت درست ہوگئی، نماز لوٹانے کی قطعاً ضرورت نہیں، نماز عیدین یا نماز جمعہ سب میں ترک واجب سے سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوتا؟

المستفتی: محمد فخر الدین قاسمی، مدرس جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہو کی معافی کی علت کثرت ازدحام کی وجہ سے نمازیوں کا تشویش میں پڑ جانا ہے؛ لہذا جن چھوٹی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے وہاں سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا؛ کیونکہ وہاں تشویش اور فتنہ کا خطرہ نہیں ہے اور جامع مسجد اور بڑی عید گاہ میں اگر سہو واقع ہو جائے، تو قطع فتنہ کے لئے سجدہ سہو معاف ہے اور جمعہ وعیدین کے علاوہ دوسری نمازوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر مجمع بہت بڑا ہے تو سجدہ سہو معاف ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳۹/۴)

والسہو فی صلوة العید، والجمعة، والمکتوبة، والتطوع سواء والمختار عند المتأخرین عدمه فی الأولین لدفع الفتنہ، وتحتہ فی الشامیة: الظاهر أن الجمع الكثير فیما سواهما كذلك الخ (الدر المختار مع الشامی، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، زکریا ۵۶۰/۲، کراچی ۹۲/۲، عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، زکریا ۱۲۸/۱، جدید ۱۸۷/۱)

عدم السجود مقید بما إذا حضر جمع كثير أما إذا لم يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترك وهو التشویش. (حاشیة الطحطاوي علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، دارالکتاب دیوبند جدید ۴۶۶، قدیم ۲۵۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۸۷۰۷)

جمعہ وعیدین میں سجدہ سہو کا حکم

سوال [۲۹۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر نماز جمعہ میں کوئی ایسی خرابی لازم آگئی، مثلاً پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، خرابی لازم آنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، ان تمام خرابیوں کی بناء پر جب نماز لوٹائی جائے گی تو آیا نماز جمعہ ہی پڑھی جائے گی یا نماز ظہر یا از سر نو نماز لوٹائی ہی نہیں جائے گی؟

المستفتی: ثناء اللہ، پرتا بگڈھی، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز جمعہ اور نماز عیدین میں سجدہ سہو معاف ہونے کا جو ذکر کتابوں میں موجود ہے وہ مطلق نہیں ہے؛ بلکہ مجمع کثیر کے ساتھ مقید ہے؛ لہذا اگر مجمع بہت زیادہ ہے جیسا کہ مراد آباد کی جامع مسجد جیسی مسجدیں ہیں ان میں لوگ بھر جائیں تو سجدہ سہو معاف ہے اور اعادہ صلوٰۃ لازم نہیں اور اگر بہت بڑی مسجد نہیں ہے، اور اس میں اعادہ صلوٰۃ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سجدہ سہو یا اعادہ صلوٰۃ کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو جائے، جیسا کہ وہ مساجد کہ جن میں سو دو سو افراد ہوتے ہیں، تو ایسی مساجد میں نماز جمعہ میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اور عدم سجدہ کی صورت میں اعادہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔

ولا یأتی الإمام بسجود السہو فی الجمعة والعیدین دفعا للفتنة بکثرة الجماعة وبطلان صلوٰۃ من یرى لزوم المتابعة..... ومن هذه السبب ان عدم السجود مقید بما إذا حضر جمع کثیر أما إذا لم یحضر و ا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترتک وهو التشویش الخ (طحطاوی علی المراقی، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، دارالکتاب دیوبند جدید ۶۵-۶۶، ۶۷، قدیم ۲۵۳)

و السهو في صلاة العيد، والجمعة، والمكتوبه، والنطوع سواء
والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة. (تحتہ فی الشامیہ)
لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير وإلا فلا داعي إلى
الترك. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۵۶۰/۲، كراچي ۹۲/۲)
اور اعادہ کی صورت میں وقت کے اندر جمعہ کا اعادہ لازم ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ جمادی الثانیہ ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۹۱۷۷)

کیا مسبوق پر امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے سجدہ سہو واجب ہے؟

سوال [۲۹۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ زید نماز میں مسبوق تھا امام صاحب نے سلام پھیرا، اور ابھی
”السلام علیکم“ بھی پورا نہیں کہا تھا کہ مسبوق نے بھی بھول سے ایک طرف سلام پھیر دیا
امام کے ساتھ دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہی اسے اپنا مسبوق ہونا یاد آ گیا پھر اپنی بقیہ
نماز مکمل کی معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مسبوق کے ایک طرف سلام پھیر دینے سے سجدہ سہو
واجب ہو جائے گا؟ فقہاء کی کیا رائے ہے؟

المستفتی: ڈاکٹر ناظم علی، ایم بی بی ایس، سیڈھا بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسبوق نے امام کے ساتھ بھول کر صرف
ایک طرف سلام پھیرا ہے اور دوسری طرف نہیں پھیرا ہے اور یاد آنے کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تو
ایسی صورت میں مسبوق پر آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے، ہاں البتہ اگر دونوں طرف
سلام پھیر دیا اور اس کے بعد بقیہ نماز کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اب سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔

وإن سلم المسبوق ساهياً مع إمامه: أي على أثر تسليمته الأولى كسائر المقتدين، فإنه لا سهو عليه؛ لأنه مقتدٍ بعد وسهو المقتدي لا يوجب السهو. (حلي، كتاب الصلاة، فصل في سجود السهو، اشرفية ۶۵)

ولو سلم ساهياً إن بعد إمامه لزمه السهو وإلا لا. (تحتة في الشامية) أي وإن سلم معه أو قبله لا يلزمه؛ لأنه مقتدٍ في هاتين الحالتين. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، قبيل باب الاستخلاف، زكريا ۲/۵۰۳، كراچی ۱/۵۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۸۰/۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۲/۱۴۲۹ھ

مسبوق کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا

سوال [۲۹۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۲ پر ایک سوال اگر مسبوق بھول کر ایک طرف سلام پھیر دے کے جواب میں لکھا ہے کہ امام نے جب داہنی طرف سلام پھیرا اور امام السلام کے میم پر پہنچا، اگر اسی وقت مسبوق کو یاد آ گیا اور وہ رک گیا تب تو اس کے ذمہ سجدہ سہو نہیں، اگر اس کے بعد سلام پھیرا تو اس کے ذمہ سجدہ سہو ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسبوق نے ایک طرف بھی سلام پھیر دیا اس کے بعد یاد آتے ہی کھڑا ہو گیا تب بھی سجدہ سہو واجب ہے؛ چونکہ عام طور پر مقتدی یا مسبوق امام کے السلام کہنے کے بعد ہی سلام پھیرتے ہیں؛ جبکہ آپ کا ۲۹ صفر ۱۴۲۹ھ کا لکھا ہوا فتویٰ اس میں ہے کہ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ بھول کر صرف ایک طرف سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو نہیں، ہاں اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اس سلسلہ میں راجح اور مفتی بہ قول کیا ہے؟ ہم کسی پر عمل کریں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فتاویٰ محمودیہ کی عبارت دیکھی گئی اور اس کا نیا نسخہ جو پاکستان سے تخریج ہو کر آیا ہے وہ بھی دیکھ لیا گیا اور مفتی صاحب کے مذکورہ فتویٰ کے ذیل میں جو جزئیات نقل کئے گئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا گیا ہے، نیز اس موضوع سے متعلق فقہاء کی عبارات اور جزئیات بھی دیکھ لئے گئے، مگر ہم کو کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں مل پایا کہ السلام کے میم پر پہونچنے پر سجدہ سہولازم نہیں ہے اور میم سے تجاوز کر جانے کی صورت میں سجدہ سہولازم ہے، ہاں البتہ کتب فقہ میں اس طرح کے مختلف فیہ جزئیات موجود ہیں بعض میں اس بات کی صراحت ہے کہ ایک طرف امام کے ساتھ سلام پھیرنے پر یاد آیا اور مسبوق کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہولازم نہیں اور اگر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو سجدہ سہولازم ہے اور بعض جزئیات میں اس کی صراحت ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی سجدہ سہولازم ہو جاتا ہے، مگر تمام جزئیات پر غور کرنے کے بعد یہی بات سامنے آتی ہے کہ راجح یہی ہے کہ امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرنے پر سجدہ سہولازم نہیں ہوتا۔

(مستفاد: شامی زکریا ۲/۳۵، شرح کبیری ۶۵)

بلکہ دونوں طرف سلام پھیرنے پر سجدہ سہولازم ہوتا ہے اور السلام کے میم سے تجاوز کرنے یا نہ کرنے کا معنی ہم کو کہیں نہیں ملا، اس لئے ۲۲ صفر المنظر ۱۴۲۹ھ کا لکھا ہوا فتویٰ ہی زیادہ صحیح اور راجح ہے، اس کے لئے مزید حوالہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۳/۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۵۲۰/۳۸)

مدرک نے امام کے سلام کے بعد بھول کر پانچویں رکعت پڑھ لی

سوال [۲۹۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص مدرک ہے قعدہ اخیرہ میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص خود کو مسبوق گمان کر کے پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور مکمل ایک رکعت پڑھی، اس کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد شعیب میرٹھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب اس شخص نے خود کو مسبوق گمان کر کے قعدہ اخیرہ کے بعد ایک رکعت مکمل زائد پڑھی تو سجدہ سہو کر لینے کی بناء پر اس کی نماز درست ہوگئی؛ البتہ اس کے لئے بہتر یہ تھا کہ اس رکعت کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لیتا تاکہ آخر کی دو رکعت نفل ہو جائیں۔ (مستفاد: محمود بیڈا بھیل ۷/۴۳۰، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۳۹۳)

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظهر خمساً فقیل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلم. (صحيح البخاري، كتاب السهو، باب إذا صلی خمساً ۱/۶۳۱، رقم: ۱۲۱۲، ف: ۱۲۲۶)

رجُلٌ صلی الظهر خمساً وقعد في الرابعة قدر التشهد يُضيفُ إليها ركعةً أخرى ويتشهدُ ويُسلمُ ويسجد سجدتي السهو ويتشهدُ ويسلم ثانياً. (تاتار خانیه، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، زکریا ۲/۴۰۵، رقم: ۲۸۰۶)

عبد الرزاق عن معمرٍ عن قتادة في رجل صلی الظهر خمساً قال: يزيد إليها ركعةً، فتكونُ صلوة الظهر ور كعتين بعدها. (مصنف عبد الرزاق ۳۰۳/۲، رقم: ۳۴۶۰)

ولو قعد في الرابعة، ثم قام ولم يسلم - إن قيد الخامسة بالسجدة، ثم تذکر ضم إليها ركعةً أخرى، وتم فرضه ويسجد للسهو استحساناً. (فتح القدير، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، کراچی

۴۴۷/۱ - ۴۴۶، زکریا ۵۲۷/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۱/۲۰)

مدرک نے امام کے سلام پر کھڑے ہو کر دو رکعت اور پڑھ لی

سوال [۲۹۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے سلام نہیں پھیرا؛ بلکہ پانچویں رکعت پوری کر لی پھر یاد آیا کہ میں تو شروع سے ہی امام کے ساتھ تھا اس نے مزید ایک رکعت اور پوری کر لی اور سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے اور اخیر کی دو رکعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد شعیب، میٹھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بھول کر مدرک شخص امام کے ساتھ سلام پھیرے بغیر پانچویں رکعت پوری کر لیتا ہے اور بعد میں یاد آنے پر مزید ایک رکعت ملا لیتا ہے اور بعد میں سجدہ سہو بھی کر لیتا ہے تو اس کی فرض نماز درست ہو جائے گی اور اخیر کی دو رکعت نفل شمار کی جائیں گی۔

عن معمر عن قتادة في رجل صلى الظهر خمسا قال: يزيد إليها ركعة، فتكون صلاة الظهر وركعتين بعدها. (مصنف عبد الرزاق ۳/۲، رقم: ۳۴۶۰)

وإن سجد للخامسة سلموا وضم إليها سادسة لتصير الركعتان له نفلا.

(شامی، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، زکریا ۵۵۳/۲، کراچی ۸۷/۲)

وإن سجد للخامسة تم فرضه وضم إليها سادسة لتصير الركعتان له

نفلا؛ لأن الركعة الواحدة لا تجزیه ويسجد للسهو. (تبیین الحقائق ۱/۱، ۴۸۱،

زکریا امدادیہ ملتان ۱/۱۹۷، ہدایۃ اشرفیہ، کتاب الصلاة، باب سجود السہو ۱/۵۹،
بنایہ مکتبہ نعیمیہ، کتاب الصلاة، باب سجود السہو ۲/۶۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ رصفر المظفر ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۲۸/۴۰)

امام کے سلام کے بعد مدرک نے پانچویں رکعت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۹۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مقتدی پر امام کی اتباع لازم ہے خصوصاً فرائض اور واجبات میں، نماز سے خارج ہونے کے لئے سلام کس حیثیت کا درجہ رکھتا ہے، اگر واجب ہے تو جس مدرک نے مسبوق سمجھ کر مزید دو رکعت پڑھی اور سجدہ سہو کر لیا، امام کے ساتھ سلام میں اتباع نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں اس مقتدی کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہئے، امام صاحب کے نزدیک خروج بصدقہ فرض ہے، ہم نے اس کے متعلق نہیں پوچھا ہے، بلکہ سلام کے بارے میں پوچھا ہے؛ لہذا تحقیق کر کے جواب مرحمت فرمائیں؟

المستفتی: محمد یعقوب غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس مقتدی نے سلام پھیرنے میں امام کی اتباع نہیں کی بعد میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی تو اس کی نماز درست ہوگئی؛ اس لئے کہ امام کی اتباع تراخی کے ساتھ بھی درست ہے، نیز لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے، اور وہ خود لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلا ہے۔

إن المتابعة ليست فرضاً؛ بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات
لفعلية- والحاصل أن المتابعة في ذاته ثلاثة أنواع مقارنة لفعل الإمام.....

ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه ومتراخية عنه فمطلق المتابعة الشامل؛ لهذه الأنواع الثلاثة—ولا يشكل مسألة المسبوق المذكورة، لأن القعدة وإن كانت فرضاً؛ لكنه يأتي بها في آخر صلاته التي يقضيها بعد سلام إمامه فقد وجدت المتابعة المتراخية، فلذا صحت صلاته. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام، زكريا ۲/۱۶۶، كراچی ۱/۴۷۱)

وأما الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فواجب عندنا. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء قديم ۱/۳۹، جديد ۱/۳۷۰)
 أما صفتة بإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا؛ ولكنها واجبة (إلى قوله) ولو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو عندنا. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، قبيل فصل لفظ الخروج من الصلاة، زكريا ۱/۴۵۴، كراچی ۱/۱۹۴)
 فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۸۷/۲۰)

لاحق پر سجدہ سہو واجب نہیں

سوال [۲۹۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام مسافر کے پیچھے دو مقیم مقتدی تھے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ مقیم مقتدی جو لاحق کے حکم میں ہیں اپنی نماز ادا کرنے کھڑے ہوئے تو ایک مقتدی نے دونوں رکعتوں میں الحمد بھی پڑھی اور سورت بھی پڑھ لی اور ایک مقتدی نے کھڑے ہو کر قرأت کی، مگر تشہد پڑھنا چھوڑ دی کیا ان دونوں پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیم مقتدی حضرات میں سے جس نے سورہ فاتحہ اور ضم سورت کی ہے اسی طرح جس نے تشہد نہیں پڑھی ہے دونوں میں سے کسی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے؛ اس لئے کہ لاحق سے اگر کوئی موجب سہو عمل صادر ہو جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔

وصح إقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده، فإذا قام المقيم إلى الإتمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو في الأصح؛ لأنه كان كاللاحق. (الدرمع الرد، كتاب الصلاة، باب المسافر، كراچی ۱۲۹/۲، زکریا ۶۱۰/۲، ۶۱۱)

ويقتصر هو يتم المقيم بلا قراءة في الأصح (ملتقى الابحر) وفي مجمع الأنهر؛ لأنه فيهما كأنه مؤتم فلا قراءة للمؤتم، وفي الخانية: لا قراءة عليهم فيما يقضون ولا سهو عليهم إذا سهوا. (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب المسافر، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۴۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۵/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۲۳/۴۰)

سجدہ سہو کے بعد امام کی اقتداء کرنا

سوال [۲۹۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب نے سجدہ سہو کیا ایک صاحب اس کے بعد نماز میں شریک ہو گئے کیا ان صاحب کی فرض نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر حوالہ دیدیں تو بہت مناسب ہوگا۔

المستفتی: محمد شفیع، جامعۃ الصالحات، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سجدہ سہو کے بعد امام کی اقتداء کرنا جائز اور درست ہے اس سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲/۲۶۲)

فإن سہی الإمام في صلوتہ فسجد للسهو، ثم اقتدی بہ رجل في القعدة التي بعدها صح اقتداؤه لأن الإمام في حرمة الصلاة بعد. (مبسوط سرخسی، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۱۱۲)

ولو سلم من علیہ سجود سہو فاقتدی بہ غیرہ صح. (طحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالکتب دیوبند جدید ۴۷۱، قدیم ۲۵۶)

عن أبي حنیفة في رجل سلم وعلیہ سجدتا السهو، فدخل رجل في صلاتہ بعد التسليم، فإن سجد الإمام كان داخلاً. (فتاویٰ تاتار خانیۃ، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر في سجود السهو، زکریا ۲/۴۱۰، رقم: ۲۸۱۷، کوئٹہ ۱/۷۳۱، المحيط البرہانی، کتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، المجلس العلمی جدید ۲/۳۲۳، رقم: ۱۸۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۲/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ
(الف فتاویٰ نمبر: ۷۵۰۶/۳۶)

مقتدی محل سہو کے بعد نماز میں شامل ہو تو اس پر سجدہ سہو کا حکم

سوال [۲۹۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ نماز مغرب کی دوسری رکعت میں آہستہ پڑھ دی اور جہر کے ساتھ اس کا اعادہ بھی کر لیا گیا؛ لیکن نماز کی تکمیل کے لئے امام صاحب نے سجدہ

سہو ادا نہ کیا اور سلام پھیر دیا، اسی حالت میں قعدہ اخیرہ کے شروع میں ایک صاحب جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے اور امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اپنی نماز پوری کر لی اور سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا اس مقتدی مسبوق پر اپنی نماز کو پورا کر کے سجدہ سہو کرنا تھا یا نہیں؟ مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی نے مسائل سجدہ سہو میں تحریر فرمایا ہے کہ مقتدی مسبوق کی سجدہ سہو کئے بغیر مذکورہ صورت میں نماز ادا ہو جائے گی۔

المستفتی: آفتاب عالم، سہسپور، بجنور (پو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس طرح امام کے ذمہ سجدہ سہو نہ کرنے کی بنا پر نماز کا اعادہ کرنا لازم ہو گیا تھا، اسی طرح مسبوق پر بھی نماز کا لوٹانا واجب ہو گیا تھا، اب چونکہ وقت نکل جانے کی وجہ سے امام صاحب سے اس نماز کا اعادہ کرنا ساقط ہو گیا ہے؛ لہذا مسبوق کے ذمہ بھی نماز کا اعادہ ضروری نہیں رہا دونوں کی نمازیں کراہت کے ساتھ ادا ہو گئی ہیں۔

عن الحسن في رجل نسي سجدة السهو قال: إذا لم يذكرهما حتى انصرف ولم يسجد لهما، فقد مضت صلاته. الحديث (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب نسيان سجدة السهو ۲/۳۲۴، رقم: ۳۵۴۲)

عن الحسن قال: إذا سها في المسجد، فلم يسجد حتى يخرج من المسجد فليس عليه شيء. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب من سها عن سجدة السهو حتى انصرف، دار الفكر ۳/۳۱۱، رقم: ۳۹۸۹۹، دار الحديث القاهرة ۷۰۱/۲، رقم: ۳۸۸۲)

وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود قال العلامة عبد الحي رحمه الله تعالى وإن كان مسبوقة لم يلزمه محل السهو معه الخ (الهداية مع الدراية،

كتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفي ۱/۵۸، مكتبة بلال ديوبند ۱/۱۶۵)

والوجوب مقيد بما إذا كان الوقت صالحاً الخ (الهندية، كتاب الصلاة،

الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/ ۱۲۵، جديد زكريا ۱/ ۱۸۵، قاضي
 خاں علی ہامش الہندیہ، کتاب الصلاة، فصل في بيان من يجب عليه السهو ومن
 لا يجب عليه، زكريا ۱/ ۱۲۳)

و جب عليه إعادة الصلاة، قال الإمام الطحاوي فإن لم يعدها حتى
 خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم الخ (طحاوي على المراقي، كتاب
 الصلاة، باب سجود السهو، دارالكتاب جديد ۶۲، ۴، قديم ۲۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۶/۶/۱۴۱۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳/۵۳۵)

کیا سجدہ سہو بھولنے کی صورت میں نماز واجب الاعداد ہے؟

سوال [۲۹۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
 بارے میں: کہ وتر یا کسی نماز میں کسی واجب کے ترک ہونے کی بنا پر سجدہ سہو واجب ہو گیا
 زید نے قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو نہیں کیا اور سلام پھیر دیا پھر کچھ دیر بعد یاد آ گیا تو کیا ایسی
 صورت میں پڑھی گئی نماز واجب الاعداد ہے یا نہیں؟ یا سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آ گیا تو اس
 نے سجدہ سہو کر لیا، پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر کر نماز پوری کر لی تو زید کی نماز ہوئی یا نہیں؟
 المستفتی: محمد جمال، سنیچر بازار، مراد آباد (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کسی بھی نماز میں ترک واجب کی وجہ سے سجدہ
 سہو لازم ہوتا ہے؛ لہذا اگر قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور سلام پھیرنے کے بعد کچھ
 دیر بعد یاد آیا ہے اور منافی صلوٰۃ کوئی عمل نہیں ہوا ہے، مثلاً کسی سے بات نہیں کی ہے اور قبلہ
 سے سینہ نہیں موڑا ہے تو فوری طور پر سجدہ سہو کر کے التیحات پڑھ کر نماز کی تکمیل کرنا جائز ہے

اور پوری نماز کا اعادہ لازم نہیں؛ لہذا سوالنامہ میں ذکر کردہ دونوں صورتوں میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر کے التحیات کے بعد سلام پھیر دیا ہے تو نماز درست ہوگئی۔

في البدائع: ثم لا يفترق الحال في سجود السهو سيما إذا سلم وهو ذاكر له أو ساه عنه ومن نيته أن يسجد له أو لا يسجد حتى لا يسقط عنه في الأحوال كلها، لأن محله بعد السلام إلا إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء، بأن تكلم أو قهقهه، أو أحدث متعمداً، أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له، لأنه فات محله. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه، كراچی ۱/۱۷۵، زكريا ديوبند ۱/۴۲۰، شامی، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، كراچی ۲/۹۱، زكريا ۲/۵۵۹، الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصلاة أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت، هدى انتر نیشنل ديوبند ۲/۹۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۲۹/۲/۱۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۴۸/۳۸)

دونوں طرف سلام کے بعد مفسد صلوة عمل سے قبل سجدہ سہو کرنا

سوال [۲۹۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی نے آخری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آیا، اب کیا کیا جائے؟ نماز دہرائی جائے؟

المستفتی: محمد فاروق اسمعیل مبینی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب تک سلام کے بعد کوئی مفسد صلوة عمل نہ کیا ہو

تو ایک سجدہ کر کے دوبارہ التحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔

ولو نسي السهو، أو سجدة صليبية، أو تلاوية يلزمه ذلك مادام في المسجد. وفي الشامية: مادام في المسجد وفيما قبله مالم يتحول عن القبلة. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۵۵۸/۲، كراچی ۹۱/۱، مصري ۷۰۴/۱)

لونسى السهو، أو سجدة صليبية، أو تلاوية يلزمه ذلك مادام في المسجد، أي ولم يوجد منه مناف، فإن وجد منه مناف، أو خرج من المسجد قبل قضاء مانسيه فسدت صلاته، إن كان عليه سجدة صليبية. (حاشية الطحطاوي مع المراقي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالكتاب ديوبند ۴۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱/ رجب المرجب ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۵۱/۲۶)

سہو کے بعد امام کو حدث لاحق ہوا اور خلیفہ نے سجدہ سہو نہیں کیا

سوال [۲۹۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص امام ہے عصر کی نماز میں قعدہ اولیٰ میں ایسا فعل واقع ہوا جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اب جب تیسری رکعت کے لئے اٹھا تو حدث لاحق ہو گیا وہ کسی مقتدی کو خلیفہ بنا کر چلا گیا؛ لیکن اس مقتدی خلیفہ کو معلوم نہیں تھا کہ امام کو سجدہ سہو لازم ہوا ہے یا نہیں؟ تو کیا نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ مع دلائل اختلاف مذہب تحریر فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد عادل، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر خلیفہ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز

واجب الاعادہ ہوگی۔

وإذا أحدث الإمام في خلال صلاته وقد سها، فاستخلف رجلاً يسجد خليفته للسهو بعد السلام؛ لأنه قائم مقام الأول فعليه أن يأتي بما كان يأتي به الأول الخ (مبسوط للإمام شمس الأئمة السرخسي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۲۵)

إذا أحدث الإمام وقد سها فاستخلف رجلاً يسجد خليفته للسهو بعد السلام. (هندي، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۳۰، جديد زكريا ۱/۱۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۲۳/۷)

دوران نماز کھانسی کی بناء پر ایک آیت پیچھے سے لوٹانا

سوال [۲۹۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسئلہ حنفی کے مطابق اگر زید کو نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ فاتحہ کے درمیان کھانسی آجائے اور وہ سورۃ فاتحہ کو ایک آیت پیچھے سے لوٹا کر پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ اگر جہری نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرأت آہستہ شروع کر دے اور بعد میں خیال آیا تو اب دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے چاہے تو وہیں سے شروع کر دے چاہے تو شروع سے بالجہر شروع کرے یہ سجدہ سہو تاخیر کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو مندرجہ بالا مسئلہ میں بھی یہی صورت ہونی چاہئے؟

المستفتی: عبداللہ بھینسیا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کھانسی میں رکنے کی بنا پر ایک آیت پیچھے سے

لوٹانے کی وجہ سے سجدہ شرعاً واجب نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کو جہری نماز میں سرّاً شروع کر دینے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہونے کی علت تاخیر واجب نہیں؛ بلکہ تغیر واجب ہے، یعنی جہری نماز کو سری کرنا۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۲۰۶/۵)

وإذا كرر آية واحدة مراراً، فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده، فذلك غير مكروه، وإن كان في الصلاة المفروضة، فهو مكروه في حالة الاختيار وأما في حالة العذر، والنسيان فلا بأس. (فتاویٰ عالمگیری، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، ذكرها كونه ۱/۰۷، جدید زکریا ۱/۱۶۶)

ذكر في النواذر: أنه إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل ذلك أو أكثر وإن خافت فيما يجهر، إن كان ذلك في فاتحة الكتاب، أو في أكثرها فعليه السهو والإفلا. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، ۲/۳۹۵، رقم: ۲۷۷۵)

عن ابراهيم: قال: إذا جهر فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فعليه سجدة السهو. (مصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب من قال إذا جهر فيما يخافت فيه سجد سجدتي السهو ۳/۲۴۵، رقم قديم: ۳۶۴۹، جديد: ۳۶۶۹) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
یکم ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۷۲۰/۲۵)

مغرب کی رکعت کی تعداد بھولنے پر سجدہ سہو کرنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟

سوال [۲۹۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے نماز مغرب میں دو رکعت پڑھ کر قعدہ کیا اس کے بعد اس کو

خیال نہیں کہ کوئی رکعت ہے، یعنی دوسری یا تیسری اس نے سلام پھیر دیا، اس وقت خیال ہوا دوسری رکعت پر سلام پھیر دیا، اس نے سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہوگئی یا اعادہ کرے؟

المستفتی: حافظ محمد عثمان جامع مسجد، موہ گاؤں حویلی، جھنڈ واڑہ (ایم، پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر تیسری رکعت پڑھنے کے بعد آخری قعدہ میں سجدہ سہو کر لیا تھا تو اس کی نماز صحیح ہو چکی ہے، اگر تیسری رکعت ہی نہیں پڑھی تھی صرف سجدہ سہو کر لیا تھا تو نماز نہ ہوگی اعادہ کرنا واجب ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۶۱/۴)

سجدة السهو واجبة..... أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات الصلاة، فلا يجب بترك السنن والمستحبات كالتعود..... ولا بترك الفرائض، لأن تركها لا ينجبر بسجود السهو؛ بل هو مفسد إن لم يتدارك فيعاد. (حلبی کبیر، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفیۃ دیوبند ۱/۴۵۵)

وفي الولو النجية: الأصل في هذا أن المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي وإلا فسدت صلواته. (هندیۃ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، زکریا ۱/۱۲۶، جدید زکریا ۱/۱۸۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۹۷/۲۸)

مغرب کی دوسری رکعت پر سلام پھیرنا موجب سہو ہے

سوال [۲۹۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ ایک شخص نے تین رکعت والی فرض نماز میں دوسری رکعت میں قعدہ کیا اس کے بعد کھڑا نہیں ہوا بھول گیا، تیسری رکعت کے گمان میں تھا پھر ایک طرف پھیر کر

سجده سہو کر لیا، پھر درود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیا تو کیا اس شخص کی نماز ہوگئی یا پھر سے لوٹائے اس صورت میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: حافظ محمد عثمان جامع مسجد موہ گاؤں حویلی، جمنڈ واڑہ (ایم، پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس صورت میں بھی اگر تیسری رکعت بعد میں پڑھ لی تھی اس کے بعد سجده سہو کر کے نماز مکمل کی ہے تو نماز صحیح ہوگئی اور اگر تیسری رکعت نہیں پڑھی ہے؛ بلکہ صرف سجده سہو کر لیا ہے تو نماز صحیح نہ ہوگی۔

وأما الفرض فيفوت بفواته الأصل لا الوصف فلا ينجبر بغيره سهواً .

(مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوي، کتاب الصلاة، باب سجود السهو قديم ۲۵۰، جدید دارالکتاب دیوبند ۴۶۰)

سجدة السهو واجبة..... أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات الصلاة، فلا يجب بترك السنن والمستحبات كالتعود..... ولا بترك الفرائض، لأن تركها لا ينجبر بسجود السهو؛ بل هو مفسد إن لم يتدارك فيعاد. (حلی کبیر، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، اشرفیہ دیوبند ۱/۴۵۵، ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو زکریا ۱/۱۲۶، جدید زکریا ۱/۱۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۳۱۹۷)

صلوة الاستخاره میں کسی آیت کا بار بار تکرار موجب سہو نہیں

سوال [۲۹۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ استخارہ کی دو نفل میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ بار بار پڑھنے سے کیا سجده سہو واجب ہوگا؟

المستفتی: عبدالرشید، سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس طرح نماز استخارہ میں ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ بار بار پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ (مستفاد: محمودیہ ڈائجیل ۷/۹۷، ۹۸، کتاب المسائل ۳۳۰/۱)

جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أصبح بايئة، والآية إن تعذبهم، فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. (سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب ترديد الآية، النسخة الهندية ۱/۶۱، دار السلام رقم: ۱۰۱۱)

وينبغي أن يقيد ذلك بالفرائض؛ لأن تكرار الفاتحة في النوافل لم يكره كما في القهستاني. (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، دارالكتب العلمية بيروت جديد ۱/۲۲۰، قديم مصري ۱/۱۴۸)

وإذا كرر آية واحدة مراراً، فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده فذلك غير مكروه. (هندية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة، وما لا يكره، زكريا ۱/۱۰۷، جديد زكريا ۱/۱۶۶)

وإذا كسر آية واحدة مراراً، فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده، فذلك غير مكروه، فقد ثبت عندنا عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب، أو آية الرحمة، أو آية الرجاء أو آية الخوف. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض، المجلس العلمي جديد ۲/۴۹، رقم: ۱۲۰۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹/جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۲۱/۳۰)

دعاء ماثورہ پڑھ کر سجدہ سہو کرنا

سوال [۲۹۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید وتر کی نماز پڑھ رہا ہے دو رکعت پوری کر کے تشهد پڑھ کر درود شریف بھی پڑھ چکا تو یاد آیا کہ ابھی ایک رکعت باقی ہے، اس نے کھڑے ہو کر اپنی تینوں رکعتیں پوری کیں، پھر تشهد پڑھ کر زید کو سجدہ سہو کرنا تھا؛ لیکن وہ سجدہ سہو نہ کر کے درود شریف پڑھ کر دعاء ماثورہ پڑھنے لگا، تب یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا تو اب کیا کرے؟

المستفتی: محمد جاہر خاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دعاء ماثورہ پڑھ رہا تھا، تو اس کے لئے دعاء ماثورہ پڑھ کر بھی سجدہ سہو کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ (کتاب المسائل ۱/۳۳۵، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۴۱۲)

ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويا للقطع، لأن نية تغيير المشروع لغو مالم يتحول عن القبلة، أو يتكلم لبطلان التحريمة. (در مختار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، زكريا ۲/۵۵۸، كراچي ۲/۹۱، تاتارخانية، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في سجود السهو، زكريا ۲/۵۵۸، رقم: ۲۸۲۲، هداية جديد، كتاب الصلاة، باب سجود السهو ۱/۱۶۷، ۱۶۸)

ويأتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة (و في هامشه) إن في المسألة اختلافاً بين أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله، فعند الشيخين يصلي في القعدة الأولى وعن محمد في القعدة الأخيرة بناء على أصل وهو أن سلام من عليه السهو يخرج من الصلاة عندهما، فإذا كان كذلك

كانت القعدة الأولى هي قعدة الختم وعن محمد خلافة. (هداية، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، مطبوعة بلال ۱/۱۶۳، اشرفی ۱/۱۵۷)

عن الحسن في رجل نسي سجدة السهو قال: إذا لم يذكرهما حتى انصرف ولم يسجدهما، فقد مضت صلاته، فإن ذكرهما وهو قاعد لم يقم يسجدهما. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب نسيان سجدة السهو ۲/۳۲۴، رقم: ۳۵۴۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۲/۲۰۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۳۷/۴۰)

ایک سجدہ تلاوت کی جگہ دو سجدہ کرنا موجب سہو ہے

سوال [۲۹۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک سجدہ تلاوت نماز میں کرنا تھا، بھول سے دو سجدہ کر لئے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟
المستفتی: عبدالرشید، سیڑھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز میں ایک سجدہ تلاوت کرنے کے بجائے دو سجدہ تلاوت کر لئے تو تکرار سجدہ کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔

عن عطاء قال: إن شك في السجود فلا تعد، واسجد سجدة السهو، وإن استيقنت أنك قد سجدت في ركعة ثلاث سجدة فلا تعد واسجد سجدة السهو. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الرجل يسهو في الركوع والسجود ۲/۳۱۹، رقم: ۳۵۲۴)

إذا سجد في موضع الركوع، أو ركع في موضع السجود، أو كرر

رکناء، أو قدم الركن، أو أخره ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، زكريا ۱/۱۲۷، جديد زكريا ۱/۱۸۷)

ويجب بتكرار الركن نحو أن ير كع مرتين، أو يسجد ثلاث مرات. (حلبی كبير، كتاب الصلاة، فصل في سجود السهو، سهيل اكيڈمي لاهور ۴۵۶، ۴۵۷)

سجود السهو يجب.....بتكرار ركن نحو أن ير كع ركوعين، أو يسجد ثلاث سجودات. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السابع عشر سجود السهو، زكريا ۲/۳۸، رقم: ۲۷۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۵/۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۲۱/۴۰)



(۲۰) باب سجود التلاوة

حنابلہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟

سوال [۲۹۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟

المستفتی: حافظ مقصود احمد، میرٹھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک پندرہ مقامات میں سجدہ تلاوت ہیں، ۱۴ مقامات وہ ہیں جو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ہیں اور ایک مقام سورۃ حج میں دوسرا سجدہ ہے۔

قال أبو حنيفة رضي الله عنه هن أربع عشرة اثبت سجادات المفصل وسجده من ص و اسقط السجده الثانية من الحج وقال أحمد و ابن شريح من أصحابنا وطائفة هن خمسة عشرة اثبتوا الجميع و مواضع السجادات معروفة الخ (نوي شرح مسلم شريف، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة ۱/۲۱۵)

تطلب في أربعة عشر موضعاً: وهي آخر آية في الأعراف، وآية الرعد، وآية النحل، وآية الاسراء التي آخرها، وآية مريم التي آخرها وآيتان في سورة الحج عند الشافعية والحنابلة. (الفقه على المذاهب الاربعة، كتاب الصلاة، مباحث سجدة التلاوة، المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة، دارالفكر بيروت ۱/۴۶۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۶۹۳)

کیا تمام سجدہ تلاوت واجب ہیں؟

سوال [۲۹۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قرآن شریف میں سجدہ تلاوت چودہ ہیں، سبھی واجب ہیں یا کچھ فرض اور سنت بھی ہیں، جو ہرہ کی عبارت سے مختلف معلوم ہوتے ہیں؟

إعلم أن بالقرآن أربعة عشر سجدة سبعة منها فريضة وثلاث منها واجب وأربع منها سنة. (الجوهرة النيرة ۱/۷۷)

مفصل مدلل جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: مظہر الحق قاسمی، تملنا ڈو

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قرآن مجید میں ۱۴ چودہ سجدے ہیں سبھی واجب ہیں بعض فرض یا سنت نہیں۔

تجب سجدة التلاوة بسبب تلاوة آية من أربع عشرة آية. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجد التلاوة، زكريا ۲/۲۱۰، كوئٹہ ۲/۱۱۸، شامي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، كراچي ۲/۱۰۳، زكريا ۲/۵۷۵۰، هداية، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة اشرفي ديوبند ۱/۶۳، مكتبة بلال ۱/۱۷۰، فتح القدير، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، كوئٹہ ۱/۴۶۵، زكريا ۲/۱۳، طحطاوي على المراقي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، دارالكتاب ديوبند ۴۷۹، قديم ۲۶۰)

اور جوہرہ کی عبارت کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب فقہاء متاخرین کی غیر محررہ تصنیفات میں سے ہے؛ لہذا دیگر معتبر کتابوں کی تصدیق و تائید کے بغیر اس پر اعتماد نہ کرنا چاہئے، جیسا کہ علامہ شامی نے فرمایا ہے:

شرح عقود رسم المفتی ۳۶، دارالکتاب دیوبند ۵۶۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۲ صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۵۶۳۵/۳۳)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۱۹/۲/۱۴ھ

سجده تلاوت کس پر واجب ہے؟

سوال [۲۹۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مدرس حضرات مدرسہ میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان کے اوپر سجده تلاوت واجب ہے؟ تو کیا سجده کرنا ضروری ہے؟

المستفتی: محمد حنیف

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سجده تلاوت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر واجب ہے؛ لہذا حضرات مدرسین جو آیت سجده سنتے ہیں تو ان پر بھی پڑھنے والے کی طرح سجده کرنا ضروری ہے۔

عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد و نسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. (صحيح

بخاري، سجود القرآن ۱/ ۴۶، رقم: ۱۰۶۴، ف: ۱۰۷۵)

والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسماع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد لقوله عليه السلام السجدة على من سمعها وعلى من تلاها. (هداية، كتاب الصلاة، باب في سجود التلاوة، اشرفي ديوبند ۱/ ۶۳، مكتبة بلال ۱/ ۱۷۱)

لا خلاف أن التلاوة سبب لوجوبها - وأما السماع هل هو سبب؟ قال: بعضهم: بأنه سبب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين قالوا:

السجدة على من سمعها، كما قالوا على من تلاها. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل ۲۱/ في سجدة التلاوة، زكريا ۲/ ۴۶۱، رقم: ۲۹۹۹، الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة قديم ۹۷/۱، جديد دارالكتاب ديوبند ۹۷/۱)

فيجب على التالي الأصم، والسماع الذي لم يتل، أما التلاوة فلا يشكل، وكذا السماع لما بينا أن الله تعالى ألحق الأئمة بالكفار لتركهم السجود، إذا قرئ عليهم القرآن بقوله تعالى فمالهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. [سورة الانشقاق: ۲۱]

وقال الله تعالى: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. [سورة السجدة: ۱۵]

من غير فصل في الآيتين بين التالي والسماع، وروينا عن كبار الصحابة رضي الله عنهم السجدة على من سمعها، ولأن حجة الله تعالى تلزمه بالسماع كما تلزمه بالتلاوة، فيجب أن يخضع لحاجة الله تعالى بالسماع كما يخضع بالقرأة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في سبب وجوب الصلاة، زكريا ديوبند ۴۳۰/۱، قديم كراچی ۱/ ۱۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۳۵/۳۷)

فرض نماز میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا

سوال [۲۹۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام صاحب نے مغرب کی نماز فرض میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ بھی کر لیا، کیا اس میں کوئی کراہت ہوگی؟

المستفتی: اختر عالم، معلم مدرسہ جامعہ عربیہ حیات العلوم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ہر فرض نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر کے

سجدہ کر لینا جائز اور درست ہے، اس سے نماز میں کسی قسم کی کراہت لازم نہیں آتی۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴/۴۲۴)

ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها الخ (الدر المختار، مصري،

كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، كراچی ۱۱۰۱۲، زکریا ۲/۵۸۵، مصري ۱/۷۲۲)

عن أبي مجلز: أن النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ في صلاة الظهر

سجدة فسجد، فأوأ أنه قرأ آلم تنزِيل السجدة. (مصنف لان أبي شيبه، كتاب

الصلاة، باب السجدة تقرأ في الظهر والعصر قديم ۲۲/۲، رقم: ۴۳۸۵، جديد ۳/۴۲۴،

رقم: ۴۴۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ ذی الحجہ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۵۵۱/۲۵)

ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ کا تکرار

سوال [۲۹۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مکتب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب استاذ بچے کو قرآن پڑھاتا ہے اور سجدہ

تلاوت آتا ہے تو اس کو پہلے استاذ بچے کو پڑھاتے ہیں پھر بچے پڑھتے ہیں تو اس صورت میں

استاذ اور بچے پر یا پھر کسی سننے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا یا دو سجدے؟

المستفتی: اسرار الحق مظاہری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر ایک آیت ہی مجلس میں بار بار پڑھی

اور سنی جائے تو ایسی صورت میں صرف ایک سجدہ واجب ہوگا؛ لہذا استاذ پر صرف ایک سجدہ اور نابالغ بچوں پر سجدہ نہ پڑھنے سے واجب ہوتا ہے اور نہ سننے سے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۲/۶۴)

عن عبد الرحمن: أنه كان يقرأ السجدة فيسجد، ثم يعيدها في مجلسه ذلك مراراً لا يسجد. (المصنف لان أبي شيبه، كتاب الصلاة، الرجل يقرأ السجدة، ثم يعيد قراتها كيف يصنع جديد ۳/۳۸۵، رقم: ۴۲۲۵، قديم رقم: ۴۲۰۱)

ولو كررها في مجلس واحد لا تتكرر - وإن اجتمع التلاوة والسماع، ولو من جماعة - لا يتكرر؛ كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان الخ (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، كراچی ۲/۱۱۴، زكريا ۲/۵۹۰-۵۹۱، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب سبب وجوب التلاوة قديم كراچی ۱/۱۸۰، زكريا ۱/۴۳۰، حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، دار الكتاب ديوبند ۴۹۴) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲ھ/۲۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۰۵۲/۳۵)

آیت سجدہ لکھنے سے سجدہ لازم ہے یا نہیں؟

سوال [۲۹۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آیت سجدہ لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالرحمن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سجدہ تلاوت کے وجوب کے لئے آیت سجدہ کی تلاوت یا اس کا سننا شرط ہے، محض لکھنے سے یا ٹائپ کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۴۴، کتاب المسائل ۵۳۳، اہم مسائل ۸۰/۱)

لاتجب بالكتابة، أو النظر من غير تلفظ، لأنه لم يقرأ ولم يسمع.
(حلبی کبیر، القراءۃ خارج الصلاة، سجدة التلاوة، اشرفیہ ۵۰۰)

ویجب بكتابة القرآن. (خلاصة الفتاویٰ فقیہ الامت ۱/۱۸۴)

ولاتجب بكتابة. (فتح القدير، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، زکریا

۱/۴، کوئٹہ ۲/۶۶۶)

وكذلك لو كتب القرآن لاتجب عليه السجدة. (التاتارخانية، كتاب

الصلاة، الفصل الحادي والعشرون في سجدة التلاوة، زکریا دیوبند ۲/۶۲، رقم: ۳۰۰۵)

يجب بسبب تلاوة، وتحتة في الشامية احترز عمالو كتبها، أو

تهجاها فلا سجود عليه. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، زکریا ۲/۵۷۵،

شامي کراچی ۲/۱۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/جمادی الثانیہ ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۶۱/۴۰)

ٹیپ ریکارڈ میں آیت سجدہ سننا

سوال [۲۹۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میرے پاس کیسٹیں ہیں اور اس میں آیت سجدہ ہے، ہم نے اس کو سنا تو ہم کو

سجدہ کرنا چاہئے یا نہیں؟

المستفتی: محمد نسیم الدین، مقبرہ، مراد آباد (پو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹیپ ریکارڈ وغیر میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ

واجب نہیں ہوتا ہے، یہ صدائے بازگشت کے حکم میں ہے؛ لہذا صورت مذکورہ میں آپ پر سجدہ

واجب نہیں ہوا۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۴۱، جواہر الفقہ قدیم ۴/۷۷، جدید زکریا دیوبند ۷/۴۲۰)

ذکر شیخ الإسلام أنه لا يجب بالسمع من مجنون، أو نائم، أو طير، لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، كراچی ۱۰۷/۲-۱۰۸، زكريا ۵۸۱/۲، حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، دارالكتاب ديوبند ۴۸۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳/ ذی قعدہ ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۵۲۲/۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۱۱/۱۴۱۸ھ

ٹیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سننے کا حکم

سوال [۲۹۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ پر آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ نیز سننے والے کو تلاوت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟

المستفتی: مظہر الحق قاسمی، تملنا ڈو

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹیپ ریکارڈ پر آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہ ہوگا، اسی طرح اگر ریڈیو پر سنا جا رہا ہے تو بھی سجدہ واجب نہ ہوگا اور اگر ریڈیو پر قاری پڑھ رہا ہوں تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۰۳/۹، جدید زکریا ۲۰۸/۹، مطول ۳/۵، احسن الفتاویٰ زکریا ۶۵/۴، امداد الفتاویٰ ۲/۲۳۵، آلات جدیدہ کے شرعی احکام ۱۳۵/۷۱۶۶۲۰)

ذکر شیخ الإسلام أنه لا يجب بالسمع من مجنون، أو نائم، أو طير، لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، كراچی ۱۰۷/۲-۱۰۸، زكريا ۵۸۱/۲، وهكذا حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، دارالكتاب ديوبند ۴۸۴)

اگر ریڈیو پر پڑھنے والا قاری مفت میں ثواب سمجھ کر پڑھے تو پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کو ثواب ملے گا اور اگر اجرت لے کر پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۶۶۹/۲، ۶۷۰/۲، ۶۷۱/۲، ۶۷۲/۲، ۶۷۳/۲، ۶۷۴/۲، ۶۷۵/۲، ۶۷۶/۲، ۶۷۷/۲، ۶۷۸/۲، ۶۷۹/۲، ۶۸۰/۲، ۶۸۱/۲، ۶۸۲/۲، ۶۸۳/۲، ۶۸۴/۲، ۶۸۵/۲، ۶۸۶/۲، ۶۸۷/۲، ۶۸۸/۲، ۶۸۹/۲، ۶۹۰/۲، ۶۹۱/۲، ۶۹۲/۲، ۶۹۳/۲، ۶۹۴/۲، ۶۹۵/۲، ۶۹۶/۲، ۶۹۷/۲، ۶۹۸/۲، ۶۹۹/۲، ۷۰۰/۲، ۷۰۱/۲، ۷۰۲/۲، ۷۰۳/۲، ۷۰۴/۲، ۷۰۵/۲، ۷۰۶/۲، ۷۰۷/۲، ۷۰۸/۲، ۷۰۹/۲، ۷۱۰/۲، ۷۱۱/۲، ۷۱۲/۲، ۷۱۳/۲، ۷۱۴/۲، ۷۱۵/۲، ۷۱۶/۲، ۷۱۷/۲، ۷۱۸/۲، ۷۱۹/۲، ۷۲۰/۲، ۷۲۱/۲، ۷۲۲/۲، ۷۲۳/۲، ۷۲۴/۲، ۷۲۵/۲، ۷۲۶/۲، ۷۲۷/۲، ۷۲۸/۲، ۷۲۹/۲، ۷۳۰/۲، ۷۳۱/۲، ۷۳۲/۲، ۷۳۳/۲، ۷۳۴/۲، ۷۳۵/۲، ۷۳۶/۲، ۷۳۷/۲، ۷۳۸/۲، ۷۳۹/۲، ۷۴۰/۲، ۷۴۱/۲، ۷۴۲/۲، ۷۴۳/۲، ۷۴۴/۲، ۷۴۵/۲، ۷۴۶/۲، ۷۴۷/۲، ۷۴۸/۲، ۷۴۹/۲، ۷۵۰/۲، ۷۵۱/۲، ۷۵۲/۲، ۷۵۳/۲، ۷۵۴/۲، ۷۵۵/۲، ۷۵۶/۲، ۷۵۷/۲، ۷۵۸/۲، ۷۵۹/۲، ۷۶۰/۲، ۷۶۱/۲، ۷۶۲/۲، ۷۶۳/۲، ۷۶۴/۲، ۷۶۵/۲، ۷۶۶/۲، ۷۶۷/۲، ۷۶۸/۲، ۷۶۹/۲، ۷۷۰/۲، ۷۷۱/۲، ۷۷۲/۲، ۷۷۳/۲، ۷۷۴/۲، ۷۷۵/۲، ۷۷۶/۲، ۷۷۷/۲، ۷۷۸/۲، ۷۷۹/۲، ۷۸۰/۲، ۷۸۱/۲، ۷۸۲/۲، ۷۸۳/۲، ۷۸۴/۲، ۷۸۵/۲، ۷۸۶/۲، ۷۸۷/۲، ۷۸۸/۲، ۷۸۹/۲، ۷۹۰/۲، ۷۹۱/۲، ۷۹۲/۲، ۷۹۳/۲، ۷۹۴/۲، ۷۹۵/۲، ۷۹۶/۲، ۷۹۷/۲، ۷۹۸/۲، ۷۹۹/۲، ۸۰۰/۲، ۸۰۱/۲، ۸۰۲/۲، ۸۰۳/۲، ۸۰۴/۲، ۸۰۵/۲، ۸۰۶/۲، ۸۰۷/۲، ۸۰۸/۲، ۸۰۹/۲، ۸۱۰/۲، ۸۱۱/۲، ۸۱۲/۲، ۸۱۳/۲، ۸۱۴/۲، ۸۱۵/۲، ۸۱۶/۲، ۸۱۷/۲، ۸۱۸/۲، ۸۱۹/۲، ۸۲۰/۲، ۸۲۱/۲، ۸۲۲/۲، ۸۲۳/۲، ۸۲۴/۲، ۸۲۵/۲، ۸۲۶/۲، ۸۲۷/۲، ۸۲۸/۲، ۸۲۹/۲، ۸۳۰/۲، ۸۳۱/۲، ۸۳۲/۲، ۸۳۳/۲، ۸۳۴/۲، ۸۳۵/۲، ۸۳۶/۲، ۸۳۷/۲، ۸۳۸/۲، ۸۳۹/۲، ۸۴۰/۲، ۸۴۱/۲، ۸۴۲/۲، ۸۴۳/۲، ۸۴۴/۲، ۸۴۵/۲، ۸۴۶/۲، ۸۴۷/۲، ۸۴۸/۲، ۸۴۹/۲، ۸۵۰/۲، ۸۵۱/۲، ۸۵۲/۲، ۸۵۳/۲، ۸۵۴/۲، ۸۵۵/۲، ۸۵۶/۲، ۸۵۷/۲، ۸۵۸/۲، ۸۵۹/۲، ۸۶۰/۲، ۸۶۱/۲، ۸۶۲/۲، ۸۶۳/۲، ۸۶۴/۲، ۸۶۵/۲، ۸۶۶/۲، ۸۶۷/۲، ۸۶۸/۲، ۸۶۹/۲، ۸۷۰/۲، ۸۷۱/۲، ۸۷۲/۲، ۸۷۳/۲، ۸۷۴/۲، ۸۷۵/۲، ۸۷۶/۲، ۸۷۷/۲، ۸۷۸/۲، ۸۷۹/۲، ۸۸۰/۲، ۸۸۱/۲، ۸۸۲/۲، ۸۸۳/۲، ۸۸۴/۲، ۸۸۵/۲، ۸۸۶/۲، ۸۸۷/۲، ۸۸۸/۲، ۸۸۹/۲، ۸۹۰/۲، ۸۹۱/۲، ۸۹۲/۲، ۸۹۳/۲، ۸۹۴/۲، ۸۹۵/۲، ۸۹۶/۲، ۸۹۷/۲، ۸۹۸/۲، ۸۹۹/۲، ۹۰۰/۲، ۹۰۱/۲، ۹۰۲/۲، ۹۰۳/۲، ۹۰۴/۲، ۹۰۵/۲، ۹۰۶/۲، ۹۰۷/۲، ۹۰۸/۲، ۹۰۹/۲، ۹۱۰/۲، ۹۱۱/۲، ۹۱۲/۲، ۹۱۳/۲، ۹۱۴/۲، ۹۱۵/۲، ۹۱۶/۲، ۹۱۷/۲، ۹۱۸/۲، ۹۱۹/۲، ۹۲۰/۲، ۹۲۱/۲، ۹۲۲/۲، ۹۲۳/۲، ۹۲۴/۲، ۹۲۵/۲، ۹۲۶/۲، ۹۲۷/۲، ۹۲۸/۲، ۹۲۹/۲، ۹۳۰/۲، ۹۳۱/۲، ۹۳۲/۲، ۹۳۳/۲، ۹۳۴/۲، ۹۳۵/۲، ۹۳۶/۲، ۹۳۷/۲، ۹۳۸/۲، ۹۳۹/۲، ۹۴۰/۲، ۹۴۱/۲، ۹۴۲/۲، ۹۴۳/۲، ۹۴۴/۲، ۹۴۵/۲، ۹۴۶/۲، ۹۴۷/۲، ۹۴۸/۲، ۹۴۹/۲، ۹۵۰/۲، ۹۵۱/۲، ۹۵۲/۲، ۹۵۳/۲، ۹۵۴/۲، ۹۵۵/۲، ۹۵۶/۲، ۹۵۷/۲، ۹۵۸/۲، ۹۵۹/۲، ۹۶۰/۲، ۹۶۱/۲، ۹۶۲/۲، ۹۶۳/۲، ۹۶۴/۲، ۹۶۵/۲، ۹۶۶/۲، ۹۶۷/۲، ۹۶۸/۲، ۹۶۹/۲، ۹۷۰/۲، ۹۷۱/۲، ۹۷۲/۲، ۹۷۳/۲، ۹۷۴/۲، ۹۷۵/۲، ۹۷۶/۲، ۹۷۷/۲، ۹۷۸/۲، ۹۷۹/۲، ۹۸۰/۲، ۹۸۱/۲، ۹۸۲/۲، ۹۸۳/۲، ۹۸۴/۲، ۹۸۵/۲، ۹۸۶/۲، ۹۸۷/۲، ۹۸۸/۲، ۹۸۹/۲، ۹۹۰/۲، ۹۹۱/۲، ۹۹۲/۲، ۹۹۳/۲، ۹۹۴/۲، ۹۹۵/۲، ۹۹۶/۲، ۹۹۷/۲، ۹۹۸/۲، ۹۹۹/۲، ۱۰۰۰/۲)

اجرت پر قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ (عزیز الفتاویٰ ۶۶۲/۱)

سننے والے چونکہ اجرت دینے میں شامل نہیں ہوتے ہیں؛ اس لئے ان کو ثواب مل جائے گا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ زکریا ۴۹۶/۱)

قال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي اثمان .
(شامی، کتاب الإجارة، باب الإجارة لفاسدة كراچی ۶/۵۶، زکریا ۷۷/۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۳۵/۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ
۱۴/۲/۱۴۱۹ھ

امام رکوع میں سجدہ کی نیت کرے اور مقتدی نہ کریں

سوال [۲۹۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں امام صاحب کبھی کبھی نماز میں سورہ علق اور سورہ نجم پڑھتے ہیں جن کے آخر میں سجدہ کی آیت ہے اور سجدہ کی آیت پڑھ کر رکوع کر لیتے ہیں، امام صاحب رکوع میں سجدہ کی نیت کر لیتے ہیں اور مقتدی نہیں کرتے؛ کیونکہ مقتدیوں کو علم نہیں ہے، کیا ایسی صورت میں مقتدیوں کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا؟ جبکہ صاحب خیر الفتاویٰ ۶۵۶/۲ پر لکھتے ہیں کہ مقتدیوں کے سجدہ میں چلے جانے سے بھی سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا؟ ایسی حالت میں گنہگار کون ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کتب فقہ اور حضرات فقہاء اور اکابر اہل فتاویٰ

کی تحریرات دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اگر امام نے رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لی ہے اور مقتدیوں نے نیت نہیں کی ہے تو اس میں اختلاف ہے، اکثر فقہاء اور اہل فتاویٰ کی رائے یہ ہے کہ امام کے سلام کے بعد مقتدی آیت سجدہ کا سجدہ کر کے قعدہ کر کے سلام پھیرے، ورنہ مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی، اکثر فقہاء اور اکثر اہل فتاویٰ نے یہی لکھا ہے، جیسا کہ امداد الفتاویٰ زکریا ۱۱۴/۵۵۴، فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۷/۴۶۶ وغیرہ میں، شامی، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوت، کراچی ۱۱/۲، عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة زکریا ۱۳۳/۱۳۳، البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، زکریا ۲۱۸/۲، کوئٹہ ۱۲۳/۲، تاتار خانہ، کتاب الصلاة، الفصل الحادی والعشرون فی سجدة التلاوة زکریا ۲۱۸/۲، رقم: ۴۷۸/۳۰۵۵ اور طحاوی، کتاب الصلاة، باب سجدة التلاوة دارالکتب دیوبند ۲۸۷ وغیرہ کی عبارات سے واضح ہوتا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ امام کی نیت مقتدی کی نیت کے لئے بھی کافی ہو جائے گی، اسی کو صاحب احسن الفتاویٰ نے راجح کہا ہے؛ لیکن علامہ شامی نے اس قول کو صحیح کے خلاف کہا ہے، امت کے لئے اسی قول کو اختیار کرنے میں آسانی ہے، مگر اس کی تائید زیادہ نہیں ملتی ہے؛ اس لئے امام کو رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کرنی چاہئے؛ بلکہ رکوع میں نیت نہ کر کے سجدہ ہی میں نیت کرنی چاہئے؛ اس لئے کہ سجدہ میں نیت کرنے کی صورت میں مقتدی نیت کرے یا نہ کرے ہر صورت میں مقتدی کا سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور کسی کی نماز میں خرابی نہیں آتی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ زکریا ۵۵۵، فتاویٰ محمودیہ جدید ڈابھیل ۷/۴۶۶، احسن الفتاویٰ ۴/۵۹۹، فتاویٰ دارالعلوم ۴/۴۱۴)

وفي الشامية: واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي، فلو لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي فيسجد بعد سلام الإمام ويعيد القعدة الأخيرة كما في المنية (إلى قوله) والأولى أن يحتمل على القول بأن نية

الإمام لاتنوب عن نية المؤتم، والمتبادر من كلام القهستاني السابق، أنه خلاف الأصح حيث قال علي رأي فتأمل. (شامي، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، كراچی ۱۱۲/۲، زکریا ۵۸۷/۲-۵۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸/۱۴۲۹ھ
الف فتویٰ نمبر: (۹۳۷۴۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۱۸/۲۹۱۴۲۹ھ

رکوع میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی میں دوسورتوں کی تخصیص

سوال [۲۹۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سورہ بنی اسرائیل اور انشقاق کے ختم پر نماز میں رکوع کر لے اور اسی میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے؟ تو سوال یہ ہے ان دونوں کی تخصیص کس وجہ سے ہے؟

المستفتی: محبوب عالم، مدرسہ نجم الہدی، منجیری کیرالا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ان دونوں سورتوں کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ ان سورتوں کے ختم سے چند ہی آیت پہلے آیت سجدہ ہے اور دوسری سورتوں میں ختم سورت سے بہت پہلے آیت سجدہ ہے۔

والثاني أن لا يتخلل بين التلاوة والركوع ثلاث آيات إلا إذا كانت الآيات الثلاث من آخر السورة كبنی اسرائیل وإذا السماء انشقت الخ (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، زکریا ۲۱۷/۲، کوئٹہ ۱۲۳/۲)

فإن محمداً نص على أنه إذا بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة: أي كسورة الانشقاق وسورة بنی اسرائیل إن شاء ختم السورة وركع لها، وإن شاء سجد لها، ثم قام فأكمل السورة، ثم ركع. (شامي، كتاب الصلاة،

باب سجود التلاوة، زکریا ۵۸۷/۲، کراچی ۱۱۱/۲، حلی کبیر، کتاب الصلاة القراءة

خارج الصلاة، سجدة التلاوة، اشرفیہ دیوبند ۵۰۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۶/۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۱۵/۳۴)

صبح صادق کے بعد نماز فجر سے قبل سجدة تلاوت کا حکم

سوال [۲۹۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ صبح صادق ہونے کے بعد نماز فجر تک سجدة تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: مسماة رقیہ خاتون، زوجہ مقبول، اصالت پورہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے

پہلے سجدة تلاوت کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔

فیجوز فیہا قضاء الفائتة، وصلاة الجنزة، وسجدة التلاوة.....منہا

ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. (ہندیہ، کتاب الصلاة، باب المواقیت،

الفصل الثالث فی بیان الأوقات التي لا تجوز فیہا الصلاة وتكره فیہا، زکریا ۵۲/۱،

جدید زکریا ۱۰۹/۱، خانیة علی الہندیة، کتاب الصلاة، باب الأذان، زکریا ۷۴/۱،

خانیة جدید زکریا ۴۹/۱)

بعد صلاة فجر وصلاة عصر لا یکره قضاء فائتة، ولو وترأ، أو سجدة

تلاوة، وصلاة جنزة، وكذا الحكم بعد طلوع فجر سوی سنته. (شامی، کتاب الصلاة،

مطلب یشترط العلم بدخول الوقت، کراچی ۳۷۵/۱، زکریا ۳۷/۲)

تسعة أو قات: یجوز فیہا قضاء الفائتة، وصلاة الجنزة، وسجدة

التلاوة-إلى- بعد طلوع الفجر قبل صلوة الفجر. (الفتاوی التاتار خانیة،

کتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت ۱۷/۲، رقم: ۱۵۲۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/رجب المرجب ۱۴۳۰ھ

۲۲/۷/۱۴۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۵۲/۳۹)

اوقات مکروہہ میں سجدہ تلاوت کرنا

سوال [۲۹۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص تلاوت کر رہا ہے سورج طلوع ہو گیا تو یہ مکروہ وقت ہے سجدہ تلاوت آگیا تو یہ سجدہ جو ابھی مکروہ وقت میں ذمہ میں لازم ہوا ہے مکروہ وقت میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قدوری میں بین السطور ولا یسجد کے اوپر تحریر ہے هذا إذا وجبتا في وقت مباح کا مطلب کیا ہے؟

المستفتی: مولوی سلامت اللہ مدرس مدرسہ تعلیم القرآن، شیرکوٹہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ سجدہ تلاوت جو مکروہ وقت میں سورج طلوع

ہوتے وقت ذمہ میں واجب ہوا ہے اسی مکروہ وقت کے اندر ادا کرنا مکروہ تزیہی ہے؛ اس لئے افضل یہی ہے کہ مؤخر کر کے مباح وقت میں ادا کرے؛ کیونکہ اس میں تعجیل مستحب نہیں ہے۔

(مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۳۶۲)

وبخلاف سجدة التلاوة، لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقاً، أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنابة. (شامی، کتاب الصلاة، مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت، زكريا

۳۵/۲، کراچی ۱/۳۷۴)

ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنابة، ولا سجدة التلاوة، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع - هذا إذا وجبت صلاة الجنابة،

وسجدة التلاوة في وقت مباح، وأخرت إلى هذا الوقت، فإنه لا يجوز قطعاً، أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت- لكن الأفضل في سجدة التلاوة تأخيرها. (هندي، كتاب الصلاة، باب المواقيت، الفصل الثالث في بيان الأوقات لا تجوز فيها الصلوة وتكره فيها، زكريا ۱/۵۲، جديد زكريا ۱/۱۰۸)

اور قدوری کے بین السطور کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو سجدہ تلاوت مباح وقت میں ذمہ واجب ہوا ہے، اسے مکروہ وقت میں ادا نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۳۶۲)

ولا ينعقد الفرض وسجدة تلاوة، وصلاة جنازة تليت في كامل وحضرت قبل لوجوبه كاملاً، فلا يتأدى ناقصاً. (شامي، كراچي ۱/۳۷۴، زكريا ۲/۳۵) ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلوة الجنازة عند الطلوع، والاستواء، والغروب، وتحتته في الدر المنتقى، وسجدة التلاوة المتلوة في غير هذه الأوقات وصلاة جنازة حضرت قبلها، لأن ماوجب كاملاً لا يتأدى بالناقص، وأما المتلوة، أو الحاضرة فيها فلا يكره أي تحريماً. (الدر المنتقى في شرح الملتقى جديد بيروت، كتاب الصلاة ۱/۱۱۰) فقط واللهم سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۹/۵/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۰۲۵)

عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا

سوال [۲۹۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد صالح، مستعلم مدرسہ شاہی مراڈ آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نماز عصر کے بعد سجدہ تلاوت کرنا بلا کراہت

جائز اور درست ہے، اسی طرح نماز فجر کے بعد بھی جائز اور درست ہے۔

لابأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة، ويصلي

على الجنائز الخ (هداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت، اشرفی دیوبند ۱/۸۶)

بعد صلاة فجر وصلاة عصر..... لا يكره قضاء فائتة، ولو تراء،

أو سجدة تلاوة، وصلاة جنازة. (در مختار مع الشامی، كتاب الصلاة، مطلب يشترط

العلم بدخول الوقت، کراچی ۱/۳۷۵، زکریا ۲/۳۷)

قال رحمه الله: وعن التنفل بعد صلوة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة

وسجدة تلاوة وصلاة جنازة، أي نهى عن التنفل في هذين الوقتين. (تبيين الحقائق،

كتاب الصلاة، زکریا دیوبند ۱/۲۳۲، امدادیہ ملتان ۱/۸۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

۱۴۱۸/۳/۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۲۱۸/۳۳)

اوقات ممنوعہ میں سجدہ تلاوت کرنا

سوال [۲۹۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ سجدہ تلاوت اوقات ممنوعہ میں کر سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے صبح فجر کے بعد یا عصر کے بعد؟

المستفتی: محی الدین، سہسپور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کر سکتا ہے۔

ولا يكره فيهما الفرض (إلى قوله) يعني الفوائت صلوة الجنازة،

وسجدة التلاوة الخ (غنية المستملي المعروف بكبيری، أما الأوقات التي تکره فيها

الصلاة فخمسة قديم ۳۳۶، جديد اشرفية دیوبند ۲۳۸)

عن التنفل بعد صلوة الفجر، والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة، وصلاح جنازة، أي منع عن التنفل في هذين الوقتين. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، زكريا ۴۳۷/۱، كوئٹہ ۲۵۱/۱)

ومنع عن التنفل، وركعتي الطواف بعد صلوة الفجر، والعصر لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلوة في هذين الوقتين لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة و صلوة جنازة. (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، دارالكتب العلمية بيروت ۱۱۱/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۲۰۲۳)

الإيضاح المسائل کے ایک مسئلہ کی وضاحت

سوال [۲۹۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آپ کی کتاب ایضاح المسائل ایک ساتھی لائے تھے، مطالعہ کر کے بہت اچھی لگی؛ لیکن ایک مسئلہ میں اشکال ہو رہا ہے شاید کاتب سے چوک ہو گئی ہے، ورنہ مراقی الفلاح حاشیہ نور الايضاح صغیری؛ بلکہ خود بہشتی زیور میں مسئلہ دوسری طرح بیان کیا گیا ہے، حقیقت سے مہربانی کر کے واقف فرمائیں، وہ مسئلہ یہ ہے، اگر سجدہ کرنے کے بعد اسی آیت کو دوبارہ پڑھے گا تو دوسرا سجدہ کرنا لازم ہے، نیز ۱۳۱ پر جہر بالتسمیہ کے متعلق جو تحریر فرمائی ہے حضرت گنگوہیؒ نے بھی یہی تحریر فرمائی؛ لیکن علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق جہر اہو یا سر ادونوں حسن ہیں، شامی کے اس قول کا کیا مطلب ہے ذرا وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: علیم الدین، ۲۳ دارجدید دارالعلوم دیوبند، سہارنپور (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے

کتاب کی غلطی کی نشاندہی فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں فضل میں عمر میں ہر طرح کی ترقیات سے نوازیں ایضاً المسائل کی اصل عبارت یوں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کے بعد اسی آیت کو وہاں سے ہٹ کر دوبارہ پڑھے گا تو دوسرا سجدہ کرنا لازم ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ کتاب میں صحیح کر دی جائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ جہراً و سرّاً دونوں طرح ہر سورت کے شروع میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حسن ہونے کے بارے میں شامی کی عبارت خاکسار کی نظر سے نہیں گذری، اگر آپ نے دیکھی ہے تو عبارت مع صفحہ طبع تحریر فرمائیں غور کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶/زی الحجہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹۳۸/۲۸)

